


لقمانی فارمولے



PDFBOOKSFREE.PK

سیدنا لقمانی

سیدنا لقمانی فارمولے
1200 سے زائد نسخے

امراض چشم

آنکھ کو عربی میں عین اور فارسی میں چشم کہتے ہیں یہ اعضاء شریفہ میں سے ایک مرکب عضو ہے جو قوت بصارت کا آلہ ہے تعداد میں دو اور الگ الگ خانوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ جدید اطباء کے نزدیک ہر آنکھ میں سات عصلے دو ہڈیاں تین رطوبتیں اور پانچ پردے ہوتے ہیں اس میں وریدیں شریانیں اور اعصاب بھی ہوتے ہیں۔
آنکھیں اللہ عزوجل کی عظیم نعمت ہیں اس نعمت کا بے جا استعمال اور غیر شرعی استعمال انہاں کو شدید مصائب و امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔
یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے
رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ ﷺ

کیفیت نبض:

اگر کسی کی بائیں نبض قوی ہو تو اس کا دل و دماغ مضبوط ہوں گے ذہانت اور حافظہ مضبوط ہوگا سینہ وسیع پھیپھڑے طاقتور آنکھیں گول اور بڑی ناک کا سرا موٹا چہرہ گول اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی جب کہ اگر کسی کی دائیں نبض قوی ہو تو اس کا چہرہ لمبا ناک کا سرا ہاریک آنکھیں بادامی اور چھوٹی ہوں گی۔
قوی نبض سے مراد ایسی نبض جو طویل عریض اور مشرف ہو۔

آشوب چشم:

دھوپ میں زیادہ چلنے پھرنے زیادہ گرم اشیاء کا استعمال وغیرہ سے صفراوی مادہ سرکی طرف رجوع کرتا ہے جس سے آنکھیں متورم اور سرخ ہو جاتی ہیں اکثر تکی رطوبت مترشح ہوتی رہتی ہے عموماً صبح بستر سے اٹھنے پر آنکھیں چپک جاتی ہیں شدید درد کے ساتھ ساتھ رُک بھی ہوتی رہتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے دانت نکلنے کی وجہ سے بھی بسا اوقات آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں نزلہ زکام حار اور گردو غبار اور شدید دھواں بھی اسباب میں شامل ہے۔

1- سرمہ آشوب چشم

علمیت: حکیم نظام الدین ملتان

مواد الشافعی: سرمہ سیاہ ایک تولہ رسونت ایک تولہ نیلا تھوٹھا ڈیڑھ ماشہ افیون چھ ماشہ پھلکوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

محمد ابوبکر صدیق


نے

ندیم یونس پرنٹرز لاہور

سے چھپوا کر مکتبہ دانیال لاہور

سے شائع کی

قیمت -/500 روپے



مکتبہ دانیال

جلال الدین ہسپتال بلڈنگ سرکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور

عزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

www.maktabahdaneal.com

بریاں ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خش غبار بنالیں اور سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ایک رتی سلائی آنکھ میں لگائیں۔

فائدہ: ایک یا دو دن میں نہ صرف رطوبات کا اخراج بند ہو جائے گا بلکہ سرخی چشم اور درد وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔

2- ہمدرد لوشن

عنایت: زبدۃ الحکماء استاد الحکماء جناب محمد الیاس قادری صاحب گجرات (ہند)

ہوالشافی: ایکری فلیوین پندرہ ملی گرام، عرق گلاب ایک اونس۔

ترکیب تیاری: دونوں کو آپس میں ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے ہر آنکھ کی نذر کریں۔

فائدہ: پہلے ہی دن درد ختم اور آنکھوں کی سرخی کم ہو جائے گی چند دنوں کا استعمال صحت کا ضامن ہے بتائیں اور دعائیں لیں۔

3- راحت لوشن

عنایت: جناب حکیم محمد ندیم کانٹھیا کانٹھیا وار (ہند)

ہوالشافی: طوطیا ایک رتی، نوشادر دورتی، عرق گلاب سہ آٹھ ڈھالی تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو خوب غبار بنالیں پھر عرق گلاب میں ملا کر ڈراپر میں بھر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے دونوں آنکھوں میں ڈالیں اور ہر چیز بھول جائیں۔

فائدہ: گھرے سو جن جالا پھولا درد گرد غبار اور سرخی ختم ہو جائے گی۔

توجہ: نوشادر کو تھوڑے سے پانی میں جوش دیں جب پانی خشک ہو جائے تو اتار کر لوشن میں شامل کریں۔

4- تریاتی لوشن

عنایت: شمس الحکماء حکیم رام رتن صاحبہ ملک پور انبالہ (انڈیا ہند)

ہوالشافی: کشتہ جست دس تولہ، سرمہ سیاہ دس تولہ، سفیدہ کاشغری دو تولہ، زنگار سبز ڈیڑھ ماشہ، سمندر جھاگ دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر خش غبار بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: آشوب چشم، جالا و پھولا اور دمعدہ کو جڑ سے اکھاڑنے میں اپنی نظیر آپ ہے۔

5- زینق چشم

عنایت: زبدۃ الحکماء حکیم مولوی محمد یار خان صاحب للیالی ضلع لاہور۔

ہوالشافی: زنگار سبز تین ماشہ، سفیدہ کاشغری چھ ماشہ، زعفران دو ماشہ، افیون تین ماشہ، کشتہ جست دو تولہ، سمندر جھاگ مصفی چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب کو نہایت باریک کر کے شیشی میں سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو دو سلائی رات کو آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: دھندلا جالا، آشوب چشم، سرخی آنکھوں میں خارش میں نہایت جید الاثر ہے۔

6- اکسیر چشم

عنایت: فخر الحکماء حکیم عبدالستار صاحب عباسی جمہور کھٹڑہ فیروز پور (ہند)

ہوالشافی: نوشادر نکیہ چار تولہ، افیون ایک ماشہ، گائے کی چھاچھ آدھ پاؤ، پرات پیتل ایک عدد، کٹوری پیتل ایک عدد۔

ترکیب تیاری: پہلے دونوں دواؤں کو نہایت باریک کر کے پیتل کی پرات میں ڈال دیں پھر

گائے کی چھاچھ جو کپڑے سے چھان لی گئی ہو تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں اور کٹوری سے گھس

جب لپ کی صورت ہو جائے تو خشک کر کے نہایت باریک پس لیں۔

ترکیب استعمال: آشوب چشم ہو تو سلائی سے آنکھ میں لگائیں اور نگروں پر بقدر ضرورت چمک دیں۔

فائدہ: آشوب چشم، پانی بہنا، سرخی اور نگروں میں سرلیج الاثر دوا ہے۔

7- تسکینی ڈراپ

عنایت: محبوب الاطباء حکیم عبدالرحیم رحمانی صاحب جلال آباد ضلع مظفر نگر۔

ہوالشافی: پھلکوی سفید تین ماشہ، افیون چار رتی، عرق گلاب پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے دونوں دواؤں کو نہایت باریک کر کے عرق گلاب میں حل کر لیں ڈراپ تیار ہیں۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے صبح و شام آنکھوں میں ڈالیں۔

فائدہ: پہلے دن ہی درد ختم ہو جاتا ہے سرخی چشم اور آب چشم کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔

8- عرق چشم

عنایت: زبدۃ الحکماء حکیم محمد عبداللہ صاحب طبیب یونانی سرکار عالی تعلقہ شوار پور (ہند)
ہوالشافی: پھلکوی سفید خام ایک ماشہ عرق گلاب پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دوا کو نہایت باریک پیس کر عرق گلاب میں حل کر لیں دوا تیار ہے۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔

فائدہ: آشوب چشم اور سرخی کے لئے نہایت مفید ہے۔

9- سرمہ شفا

عنایت: ابوالعجاز حکیم سید شفا القادری صاحب ریاست بیکانیر (ہند)

ہوالشافی: کشتہ جست سرمہ سیاہ ہر ایک دو دو ماشہ زنگار بزر ساڑھے تین ماشہ افیون ساڑھے تین ماشہ سفیدہ کاشغری چار ماشہ سمندر جھاگ چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت احتیاط کے ساتھ مانند سرمہ پیس لیں اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: رات کو دو دو سلائی آنکھوں میں سجائیں۔

فائدہ: آشوب چشم نزلی، گرنے، خارش، دھند، جالا اور ضعف بصر وغیرہ میں اسم ہاسکنی ہے۔

10- عرق العین

عنایت: دیبھاری لال شرمارا اولپنڈی۔

ہوالشافی: پھلکوی خام دو رتی، افیون تین ماشہ، زعفران تین ماشہ عرق گلاب دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر عرق گلاب میں حل کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ہر چار گھنٹے بعد چار بوند آنکھ میں ڈالیں۔

فائدہ: درد چشم، سرخی، جالا وغیرہ میں اکسیر الاثر معمول مطب ہے۔

11- عرق آشوب چشم

عنایت: حکیم محمد عبدالعزیز صاحب بھلول (شاہ پور)

ہوالشافی: پھلکوی بریاں دس رتی، بورک ایسڈ پانچ رتی، عرق گلاب سر آتھ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے عرق گلاب میں حل کر لیں۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے صبح و شام آنکھوں میں ڈالیں۔

فائدہ: درد چشم، سرخی چشم اور جالا وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔

12- پچکاری چشم

عنایت: حکیم غلام نبی صاحب حافظ آباد۔

ہوالشافی: پھلکوی خام تین ماشہ، رسونت مصفی تین ماشہ، مصری ایک ماشہ، افیون چھ رتی، نیلا تھو تھو تین رتی، عرق گلاب پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: سب کو خوب پیس کر عرق گلاب میں حل کر لیں۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے تین وقت ڈالیں۔

فائدہ: درد چشم میں نہایت مفید الجرب ہے۔

13- عرق شفا

عنایت: حکیم غلام حسین صاحب ردولی شریف

ہوالشافی: رسونت تین ماشہ، افیون تین ماشہ، پھلکوی ایک ماشہ، عرق گلاب پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: سب دواؤں کو نہایت باریک پیس کر عرق میں حل کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک یا دو قطرے دن میں دو وقت آنکھوں میں ڈالیں۔

فائدہ: آنکھوں کی جملہ امراض مثلاً آشوب چشم، دھند، جالا، گگرے وغیرہ میں جید الاثر ہے۔

14- جالا اور پھولا

ابتدائیہ: آنکھ کی پتلی پر چچک کے باعث یا چوٹ یا زخم وغیرہ کے باعث سفیدی پیدا ہو جاتی

ہے اگر یہ سفیدی ہلکی ہو تو اسے جالا کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں غلظت پیدا ہو جائے اور جگہ

اجبری ہوگی ہو تو اسے پھولا سے موسوم کرتے ہیں یہ پھولا بسا اوقات اس قدر بڑا ہو جاتا ہے کہ

آنکھ سے باہر باسانی دکھائی دیتا ہے۔

15- روشنایا

عنایت: حادق العصر حکیم محمد مکی صاحب راوہلپنڈی۔

ہوالشافی: جست کلفتہ چھ ماشہ، کبر باشمی چھ ماشہ، شادنج معسول چھ ماشہ، مٹھ سوختہ تین

ماشہ، میل چاندی تین ماشہ، ارمنی تین ماشہ، فلفل دراز ایک ماشہ، زعفران ایک ماشہ، زنگار ایک ماشہ،

میر ستوری ڈیڑھ ماشہ، عرق گلاب بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام دواؤں کو نہایت باریک پیس کر پارچہ بیز کر لیں پھر عرق گلاب میں

ملا یہ کر کے مٹی کے برتن میں نرم آنچ دیں سرد ہونے پر کھول کر کے مثل غبار بنالیں۔

تذکیب استعمال: جست کی سلائی سے روزانہ صبح و شام آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: پیاض ضعف بصر ابتدائے نزول الماء و بعد قرحت العین میں نہایت مفید ہے۔

16- اکسیر جالا و پھولا

عنایت: جناب حکیم سردار عطاء اللہ شاہ صاحب جنر پور میرٹھ باب اسلام سندھ
ہوالشافی: ہاتھی کے ناخن ایک تولہ آب برگ سرس سوگرام۔

تذکیب تیاری: آب برگ سرس میں ہاتھی کے ناخن کو خوب کھول کریں اور مثل سرس
 بنا لیں۔

تذکیب استعمال: روزانہ سرچو سے آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: ایک ماہ کا استعمال جالا و پھولا کو ختم کر دے گا۔

17- تریاق پھولا

عنایت: جناب حکیم سید ضیاء اللہ صاحب شاہ خیر پور میرٹھ باب الاسلام سندھ

ہوالشافی: نوشادر پچاس گرام آب برگ سرس سوگرام

تذکیب تیاری: نوشادر کو آب برگ سرس میں ترد خشک کر کے یا طریقہ معروف جوہراڑائیں
 اور سنبھال رکھیں۔

تذکیب استعمال: آدھا چاول نہایت احتیاط سے پھولا پر لگائیں۔

فائدہ: اس کے استعمال سے سفیدی اور پوکو ابھر آتی ہے اور ککڑے ککڑے ہو کر نکل جاتی ہے۔

18- تریاق جالا

عنایت: جناب حکیم محمد ابوبکر شاہ صاحب خیر پور میرٹھ باب السلام سندھ

ہوالشافی: برگ سرس ایک تولہ اور کبوترن ماشہ پانی بقدر ضرورت

تذکیب تیاری: دونوں کو قدرے پانی لگا کر خوب رگڑیں اور صاف کپڑے سے چھان لیں
 جب پانی تھر جائے تو شیشی میں ڈال لیں۔

فائدہ: ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں اگرچہ سخت لگے گا مگر جالے کو نیست و نابود کر دے گا اس
 معمولی نسخے کے فوائد کا اندازہ بعد استعمال معلوم ہوگا بنا لیں اور دعائے مدینہ سے نوازیں۔

19- سرمہ پھولا

عنایت: جناب حکیم محمد ظفر اقبال صاحب ساہیوال

ہوالشافی: نوشادر ایک تولہ نمک سیندھا ایک تولہ الیوا ایک تولہ سرمہ سیاہ تین تولہ

تذکیب تیاری: تمام دواؤں کو کھول کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں۔

تذکیب استعمال: سلائی سے صبح و شام پھولا پر لگائیں۔

فائدہ: پھولا کو ختم کر دیتا ہے۔

20- سرمہ منور العین

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب گجرات

ہوالشافی: بورک ایسڈ ایک تولہ کوزہ معری ایک تولہ تخم نخل ایک تولہ تخم سرس تین ماشہ
 کیلوں چھ ماشہ۔

تذکیب تیاری: تمام کو نہایت باریک کر کے پارچہ بینز کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

تذکیب استعمال: رات کو سوتے وقت سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: ضعف بصر نگرے اور دھند جالا میں نہایت مفید ہے۔

21- سرمہ شانی

عنایت: حکیم سائیں نظیر حسین صاحب باب المدینہ کراچی

ہوالشافی: برادہ مس ایک تولہ قلمی نوشادر دس تولہ طوطیا زنگاری خالص ایک تولہ نمک سنگ
 ایک کلو۔

تذکیب تیاری: ایک آہنی کڑاھی میں پہلے نمک باریک شدہ میں تولہ فرش کریں پھر اس فرش

پر نصف نوشادر باریک شدہ کی تہہ لگادیں اس تہہ پر طوطیے کی سالم ڈلی رکھ دیں اور باقی نوشادر

باریک شدہ کی تہہ لگادیں بعد برادہ مس کو نوشادر کر لگادیں پھر ایک پیالہ مٹی کا ان ادویات پر

رکھ دیں مگر پیالہ بڑا ہوتا کہ دوا سے چسپاں نہ ہو اب باقی نمک کو پیالہ کے اوپر اچھی طرح جما

دیں تاکہ پیالہ کا منہ ہر طرف سے بند ہو جائے۔ اب اس آہنی کڑاھی کو آہنی انگلیٹھی پر رکھیں اور

نیچے دو گھنٹے درمیانی آگ جلائیں بعد حفاظت کے ساتھ پیالہ اٹھائیں پیالہ کے ساتھ جو دوا لگی

ہوگی نہایت احتیاط سے شیشی میں محفوظ رکھیں اور جو طوطیا کی سفید ڈلی برآمد ہو اکسیر آتشک ہے

یہ الگ باریک کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

تذکیب استعمال: سرمہ شانی رات کو سوتے وقت سلائی سے آنکھوں میں لگائیں اور اکسیر

آتشک تین رتی مکھن دو تولہ سے صبح و شام استعمال کریں۔

فائدہ: سرمہ شانی کے استعمال سے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاء اللہ عزوجل جالا و پھولا ختم ہو کر

آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ جبکہ اکسیر آتشک سے آتشک کا مرض ختم ہو جائے گا۔

پرہیز: دوران علاج ترشی اور سرخ مرچ سے پرہیز واجب ہے۔

22- پھولائل

عنايت: حکیم چوڑنگہ لکھا خولی پاک تین
هو الشافى: سوہن، پھلکوی، قلمی شورہ، سمندر جھاگ، چوڑی کانچ نیلی ہر ایک ایک تولہ، افون
چھ ماشہ، ایک پاؤ برگ نیم سبز کا پانی۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب نیم میں خوب کھل کر لیں اور خشک ہو جائیں تو باریک
کپڑے سے چھان کر بوتل میں محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: جالا و پھولا ختم کر دے اور پھر پیدا نہ ہونے دے۔

23- ریش چشم

عنايت: ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نور پور (کانگرہ)
هو الشافى: کشتہ جست، دھریک کی نازک کونپلیں، قلمی شورہ ہر ایک ایک تولہ، صدف سیا
ڈیڑھ تولہ، زمرہ زرد تین عدد، سمندر سوکھا سرد چینی ست لیوں، نمک سیدہ، غنچہ چینی، بلکتھ، ختم
سری ست پودینہ، نوشادر ہر ایک چھ ماشہ، پھلکوی نو ماشہ، ست الاپچی چار ماشہ
ترکیب تیاری: سب کو نہایت باریک مثل سرمہ کر لیں
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو سوتے وقت سلائی کے ساتھ آنکھوں میں ڈالیں۔
فائدہ: پھولا جالا گرے سرخی اور پانی آنے میں نہایت جید الاثر ہے۔

24- بیاض چشم

عنايت: زبدۃ الکماہ حکیم بشیر احمد صاحب حیدرآباد دکن (انڈیا)
هو الشافى: قرنفل تین تولہ، شیر عثر بقدر ضرورت، کانور چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: قرنفل کو شیر عثر میں ایک پہر کھل کر قرص بنا کر ایک سکورے میں رکھ کر
اوپر کانور ڈال دیں پھر گل حکمت کر کے نیچے چراغ جلائیں اور جوہر حاصل کریں۔
ترکیب استعمال: جوہر بقدر دانہ خشک سلائی سے آنکھوں میں ڈالیں۔
فائدہ: بیاض چشم کا آخری علاج ہے جو نہایت ہی مجرب ہے کبھی خطا نہیں ہوتی۔

25- اکسیر بیاض

عنايت: حکیم محمد احسان الہی صاحب کلکتہ (انڈیا)
هو الشافى: ختم سری سیاہ، ناخن نیل، سجد کونی، سنگ بھری ہر ایک پانچ پانچ ماشہ، زعفران

اصلی، قنفل دراز، قنفل ابیض، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ سیاہ، دانہ فرنگ، میسرہ چینی، ہر ایک تین
ماشہ، مارقیشائے خرمن، ختم کھرنی، پیٹال، کیوتر صحرائی ہر ایک چار ماشہ، قرنفل ایک ماشہ، لیوں کا
پانی بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو باریک پس کر آب لیوں میں تین دن تک کھل کر لیں پھر
شیاف بنالیں۔

ترکیب استعمال: یہ شیاف دو مرتبہ صبح اور دو مرتبہ شام آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: نزول الماء سل و بیاض، ناخنہ و ذمعه اور ضعف بصر میں اکسیر لاثانی ہے۔

26- مشتاق چشم

عنايت: حکیم محمد فضل کریم صاحب دلاور پور موگیئر
هو الشافى: پھلکوی بریاں ایک تولہ، کشتہ جست چار ماشہ، گل چینی چار سو عدد، گل کنجد چار
سو عدد، قنفل ابیض اسی عدد۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت باریک مثل سرمہ پس لیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو سوتے وقت دو دو سلائی آنکھوں میں لگائیں۔

27- اکسیر جالا و پھولا

عنايت: حکیم فقیر احمد صاحب حیدرآباد دکن (انڈیا)
هو الشافى: ناخن نیل، موگی، صابن لاہوری، چوڑی کانچ سبز ہر ایک ایک تولہ، سندھور چھ
ماشہ

ترکیب تیاری: سب اشیاء کو خوب کھل کر کے سرمہ کی مثل کر لیں اور سنبھال رکھیں۔
ترکیب استعمال: رات کو یا وقت ضرورت سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

28- اکسیر چشم

عنايت: حکیم محمد عبدالکریم صاحب معکر بنگلور (انڈیا)
هو الشافى: سنگہ کانچ کی سیاہ چوڑیاں، پچی چینی، ہر ایک دو تولہ، سرب ایک تولہ، نوشادر، قنفل
دراز چھ ماشہ، عرق گلاب، سہ آتشہ حسب ضرورت

ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت باریک مثل سرمہ پس لیں دوران کھل عرق گلاب
سہ آتشہ بھی ڈالتے رہیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: یہ سرمہ روزانہ رات کو آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: پھولا و جالا ختم کر دینے میں نہایت ہی مجرب ہے۔

عنايت: حکیم مرزا جان جانان نقشبندی مجددی صاحب حیدرآباد دکن (انڈیا)۔
ہو الشافی: پھنکوی سفید، قلمی شورہ، سمندر جھاگ، نمک سیندھا ہر ایک ایک تولہ، طوطیا بزر
 بریاں چھ ماشہ، آب برگ سرس حسب ضرورت
ترکیب تیاری: سب ادویات کو آب برگ سرس میں خوب کھل کر لیں کہ سرمہ ہو جائے اور
 سنبھال رکھیں جس قدر کھل زیادہ ہوگا اتنا ہی مفید ہوگا۔
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو ایک ایک سلائی سوتے وقت آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: جالا و پھولا، دھند، غبار، خارش، سرخی وغیرہ میں نہایت مفید الاثر ہے۔

30- پھولا گو

عنايت: حکیم پرمہاس صاحب سکھر (سندھ)۔
ہو الشافی: گندھک آلمہ سار، ایک تولہ، نوشادر، ایک تولہ، بڑا تانبہ چھ ماشہ، رس لیموں سات
 تولہ۔
ترکیب تیاری: سب ادویات کو شیشے کے صاف برتن میں ڈال کر رس لیموں بھی ڈال دیں
 عرق سوک جانے پر نہایت اچھی طرح مثل سرمہ ہیں لیں۔
ترکیب استعمال: ایک ایک سلائی روزانہ سوتے وقت آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: سفیدی چشم، پھولا وغیرہ خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو ایک ہفتہ کے استعمال سے دور
 ہو جاتا ہے۔

31- سرمہ پھولا چشم

عنايت: حکیم سید عزیز الدین صاحب لہرنی چر تھاول ضلع مظفر نگر
ہو الشافی: شیشہ چار تولہ، قلمی شورہ، سمندر جھاگ، نوشادر، قنفل، دراز، قنفل سفید، لوٹا کھار، حخم
 سرس، زنگار، نمک شیشہ، پھنکوی سفید ہر ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت باریک مثل سرمہ بنائیں اور محفوظ رکھیں
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: جالا و پھولا میں کمال درجہ کا تجربہ شدہ جید الاثر نسخہ ہے بنائیں اور دعائے مدینہ سے
 نوازیں۔

32- دوائے العین

عنايت: حکیم پی وکٹ سوری صاحب حیدرآباد دکن (انڈیا)۔
ہو الشافی: زعفران ایک ماشہ، انیون دو ماشہ، مصری دو ماشہ، شب یمانی چار ماشہ، کف دریا
 چار ماشہ، نوشادر چار ماشہ، نیلا تھوتھا چار ماشہ، زنگار چار ماشہ، صمغ عربی چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت احتیاط سے کھل کر لیں کہ مثل سرمہ بن جائے اور
 محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: رات کو ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: ضعف بصارت، ابتدائے نزول الماء، شب کوری، بیاض ناخنہ، پڑبال وغیرہ میں اکسیر
 مفت مجرب کمال ہے۔

33- دوائے اعلیٰ

عنايت: حکیم بلد پوراج صاحب بہاول پور
ہو الشافی: اسپرین پانچ تولہ (ایک ٹیوب کی شکل میں انگریزی دوا ہے) پانی 1/4 لیٹر
ترکیب تیاری: اسپرین لے کر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں جب حل ہو جائے تو کھلے منہ
 والی نیلی شیشے کی بوتل میں ڈال کر سنبھال رکھیں۔
ترکیب استعمال: صبح و شام ڈراپر سے دو دو قطرے ڈالیں۔
فائدہ: قروح قرینہ کے لئے نہایت ہی مفید ہے سرخی چشم کے لئے اکسیر الحاص بے خطا نسخہ
 ہے۔

34- سرمہ ولی

عنايت: حکیم سید محمد اسد علی صاحب جوڈہ پور انڈیا
مغربات: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب
ہو الشافی: سرمہ سیاہ دو تولہ، پارہ پانچ تولہ، سیسہ پانچ تولہ، سمندر جھاگ ڈیڑھ تولہ، حخم نیل
 ڈیڑھ تولہ، میسرہ چینی چھ ماشہ، قنفل سیاہ تین ماشہ، سرد چینی ایک تولہ، مغز حخم سرس سیاہ ایک تولہ،
 سنگ بھری خالص ایک تولہ، ورق نقرہ پچیس عدد، ورق طلا پندرہ عدد، مردارید ناسفتہ تین ماشہ،
 عرق بید مشک نصف بوتل 375 ملی لیٹر
ترکیب تیاری: سیسہ کو پگھلا کر پارہ میں ملا دیں پھر سرمہ ڈال دیں اور خوب کھل کر لیں پھر
 ایک ایک چیز ڈال کر خوب کھل کر لیں اور ساتھ ساتھ عرق بید مشک ڈالتے جائیں اور مثل غبار
 کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: ابتدائے موتیا بند نگرے، ناخونہ، سلی، خارش، دمہ، قرعہ چشم کے لئے نہایت ہی مجرب
 الجرب الحامس ہے۔ خوب بنائیں اور خیر خواہی کیجئے۔

نزول الماء (موتیا بند)

آنکھ میں پانی اُترنا۔ یہ ایک رطوبت ہے جو مقبہ غیبیہ کے اندر تھوڑی تھوڑی یا ایک ہی بار زیادہ مقدار میں اتر کر ٹھہر جاتی ہے اگر رطوبت غلیظ ہو تو تمام مقبہ بند ہو جاتا ہے اور پیناکی بالکل زائل ہو جاتی ہے اور اگر مقبہ کچھ کھلا رہے تو پیناکی کم ہو جاتی ہے۔ اگر نزول الماء کامل ہو تو پتلی کی حالت میں تغیر واقع ہو جاتا ہے رطوبت کی رنگت اور توام کے لحاظ سے اطباء نے اس کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا ہے:

1-	غماہی	ابر کی طرح
2-	زلیقی	پارہ کی طرح
3-	بھی	چونے کی طرح
4-	آسانجونی	آسمانی رنگ کی طرح
5-	زجاجی	کاج کی طرح
6-	اخضر	بزرنگ کی طرح
7-	ابین	سفید
8-	بردی	اولے کی طرح
9-	اصفر	زرد
10-	احمر	سرخ
11-	ذہبی	سونے کی طرح
12-	ارزق	سرخ
13-	اسود	سیاہ

نوٹ: اطباء جدید کے نزدیک رطوبت جلید یہ کا گدلا ہو جانا ہے۔

علامات: کبھی ایک آنکھ تو کبھی دونوں کے لینز چند لے ہو جاتے ہیں جس سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آنکھوں میں ایڑوہین ڈال کر دیکھیں تو پتلی کے نیچے نیلگوں سفید مائل یا ہاف دائرہ رنگ کی شے دکھائی دیتی ہے جو دراصل رطوبت جلید یہ ہوتی ہے۔

35- سرمہ موتیا بند

عنایت: حکیم عبید الرحمن سندھو مدینہ الاولیا ملتان شریف

ہوالشافی: سرمہ سفید ایک تولہ، ماہراں چینی ایک تولہ، زبسی چھ ماشہ، مرچ سفید ایک ماشہ، نمک شیشہ تین ماشہ، پھلکوی سرخ تین ماشہ، طوطیا ایک ماشہ، ست پودینہ ڈیڑھ ماشہ، ست لیموں تین ماشہ، آب زہرہ مچھلی رہو پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب زہرہ مچھلی رہو میں کھل کر کریں اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام پہلے ایک سلائی بھر کر سیدھی آنکھ میں پھر دوسری سلائی بھر کر الٹی آنکھ میں اور پھر تیسری سلائی بھر کر پہلے الٹی آنکھ میں اور وہی استعمال شدہ سلائی سیدھی آنکھ میں ڈالیں اور سنت کا ثواب لوٹنے کے ساتھ ساتھ شفا بھی پائیں یعنی کل تین سلائی سرمہ بھریں اور سیدھی آنکھ سے شروع کریں اور سیدھی آنکھ ہی پر ختم کریں۔

فائدہ: حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے انشاء اللہ الرحمن عزوجل سیاہ موتیا بھی دور دور تک نظر نہ آئے گا نیز جالا و پھولا، دھند، خارش، پانی بہنا، غبار اور ضعف بصر میں کامل العلاج لاجواب ہے۔

36- اکسیری روغن

عنایت: حکیم غلام محمد صاحب سری نگر مقبوضہ کشمیر

ہوالشافی: سرسوں کا خالص تیل پانچ تولہ، سرد چینی ڈھائی تولہ

ترکیب تیاری: کھل میں ڈال کر خوب زوردار ہاتھوں سے کھل کریں اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: رات کے وقت ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: موتیا سفید و سیاہ میں اکسیر صفت کا حامل ہے۔

37- اکسیر نزول الماء

عنایت: حکیم حازق محمد اسماعیل صاحب منارہ جہلم

ہوالشافی: زعفران چار رتی، ایون ایک ماشہ، شب یمانی دو تولہ، سمندر جھاگ دو تولہ، نوشادر دو تولہ، نیلا تھوٹا ایک ماشہ، زنگار چار رتی، گوند کیکر تین ماشہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو احتیاط کے ساتھ کھل کریں اور مثل غبار بنائیں۔

ترکیب استعمال: ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں کے سپرد فرمائیں خصوصاً رات کے

ہے۔ عموماً کثرت جماع کے باعث یا بچپن کی غلط کاریوں کے باعث شدید دماغی کمزوری، نزلہ و زکام، شدید دماغی محنت و مشقت، بلدیہ چیزوں کو بغور دیکھنا، تمباکو نوشی اور مسکرات کا کثرت استعمال اس کے اسباب میں شامل ہے۔

41- عینک توڑ

عنايت: زبده الحکماء استاد الحکماء جناب حکیم محمد افضل صاحب لاہور

هو الشافى: سرمہ سیاہ دس تولہ سرد چینی چھ ماشہ، تلمی شورہ چار ماشہ، کشتہ جست چھ ماشہ، کف دریا چھ ماشہ، صدف مرداریدی خالص ایک تولہ، مایراں چینی ایک تولہ، ست پودینہ دورتی، ست الاچھی دورتی، کافور خالص ایک ماشہ، عرق گلاب سہ آتشہ 750 ملی لیٹر۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دس دن تک عرق گلاب سہ آتشہ میں کھل کر رکھیں، پھر ست پودینہ ست الاچھی اور کافور ملا کر شیشی میں بحفاظت رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی لگائیں۔

فائدہ: ضعف بصارت، پانی آنا، ککرنے، شب کوری، دھند، جالا، غبار، سرخی چشم اور آنکھوں کی روشنی بڑھا کر تا عمر قائم رکھنے کے لئے بھرورہ کا نسخہ ہے متواتر استعمال کرنے سے عینک کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کی نظر نوجوانوں کی مانند ہو جاتی ہے نہایت ہی مفید اور لایا ثانی سرمہ ہے، بنا میں اور دعائے مدینہ سے نوازیں۔

42- مقوی چشم

عنايت: جناب حکیم عبدالغفور صاحب مظفر آباد آزاد کشمیر

هو الشافى: سرب مصفی سائیدہ سات ماشہ، سرمہ سیاہ، سرمہ سفید، قنفل دراز، چاکو مقشر، قلیبیا ہر ایک ساڑھے تین ماشہ، سونا مکھی، چینی سفید، مایراں، رسوت، مصفی، شب میانی، کستوری خالص (اگر مل جائے تو) انیون ہر ایک دو دو ماشہ، مردارید، ناسفہ، مایراں، رتن، جوت، نیلا تھوٹھا ہر ایک ایک ماشہ، ہلیلہ کا پانی پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کریں پھر پانی ہلیلہ ڈالتے جائیں اور کھل کرتے کرتے مثل غبار بنالیں اور سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: سلائی کے ساتھ روزانہ آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: ضعف بصارت، پانی آنا، شب کوری، غبار وغیرہ میں نہایت آزمودہ اور مجرب الجرب ہے۔

وقت۔
فائدہ: ابتدائے نزول الماء میں نہایت جید الاثر ہے بنا میں اور آزمائیں

38- دوائے موتیا بند

عنايت: زبده الحکماء حکیم قاضی عابد علی رضوی صاحب مراد آباد۔

هو الشافى: ریزہ الماس خالص سالم ککڑا بقدر پانچ رتی، سرمہ سیاہ بیس تولہ، عنکبوت کلاں ایک

ترکیب تیاری: ایک عنکبوت کلاں کو زمین پر الٹا لٹا کر ریزہ الماس بیس تولہ، شکر عنکبوت پر رکھ دیں فوراً ہی شکر پھٹ جائے گا اور یہ ریزہ اندر دن شکر چلا جائے گا پانچ منٹ کے اندر اندر رطوبات شکر عنکبوت کے احتیاج سے الماس کشتہ ہو جائے گا اس کو نہایت احتیاط کے ساتھ نکالیں اور کھل کریں ایک ہنڈیا میں ایک کلو نیم کے پتے لیں اور درمیان میں بیس تولہ سرمہ کی ڈلیاں رکھ کر اوپر تین کلو پانی ڈال دیں اور نیچے آگ جلا میں جب پانی خشک ہو جائے تو سرمہ نکال کر کھل کریں پھر الماس کا کشتہ بھی ملا دیں اور خوب کھل کریں کہ مثل غبار ہو جائے اور سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات کو ایک سلائی لگائیں۔

فائدہ: بے مثل اور لایا ثانی دوا ہے موتیا بند خواہ کتنا ہی پرانا ہو بغیر جراحت کے زیادہ سے زیادہ پندرہ یوم میں نظر صاف ہو جاتی ہے خوب بنا میں اور استعمال کر کے دعائیں لیں۔

39- کحل چشمی

عنايت: حکیم عبدالرحمن چشمی صاحب پیر گوٹھ سکھر سندھ۔

هو الشافى: خشک انیون، پھنکوی سفید ہر ایک چار ماشہ، طوطیا، خرد مھنور، حرمل قرنفل، قنفل دراز، عقاب، کباب چینی ہر ایک ایک ماشہ، عرق لیوں

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب لیوں میں خوب کھل کریں کہ خشک ہو جائے اور مثل سرمہ ہو جائے۔

ترکیب استعمال: رات سوتے وقت سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: نزول الماء اور دھند وغیرہ اور ضعف اجر میں اسم باسکی ہے۔

40- ضعف بصر

نظر کا کام کرتے وقت یا تھوڑی دیر لکھنے پڑھنے سے آنکھیں جلد تھک جائیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے سر میں معمولی درد یا آنکھوں سے پانی آجائے تو ضعف بصر کہا جاتا ہے۔

45- تریاق لکڑہ

عنایت: زبدۃ الحکماء خدا بخش صاحب سابقہ پرنسپل ابن سینا میڈیکل کالج ملتان شریف
ہوالشفا: ایون ایک ماشہ زعفران ایک ماشہ زنگار سرمہ سیاہ سمندر جھاگ لوگ سونا کھی
روپا کھی سبز کالج ہر ایک تین تین ماشہ کشتہ جست پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: سب ادویات کو عرق گلاب میں تین یوم تک خوب کھری کریں اور شیشی میں
محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ایک سلائی روزانہ رات کو یا بوقت ضرورت آنکھ میں لگائیں یا
پونے پلٹ کر چھڑکیں۔

فائدہ: لکڑے ختم کر کے آنکھوں کی بیماری ختم کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔

46- کاجل الشفاء

عنایت: حکیم سید احمد علی گیلانی صاحب گورداسپور (انڈیا)
ہوالشفا: برگ نیم سبز پانچ تولہ روغن سرشف حسب ضرورت
ترکیب تیاری: برگ نیم سبز پانچ تولہ سکورہ میں گل حکمت کر کے پانچ کلو ادیلوں کی آگ
میں اور راکھ کو خوب کھری کریں اور روغن سرشف بھی ملاتے جائیں ایک بہترین مرہم کاجل نما
بن جائے گی سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگائیں اور ایک گھنٹے بعد گرم
پانی سے دھوئیں۔

فائدہ: لکڑے کو ختم کرے اور سرخی چشم اور پانی آنے میں نہایت مفید الاثر کاجل ہے۔

47- دوائے لکڑے

عنایت: حکیم محمد بشیر احمد صاحب ضیا کوٹ سیالکوٹ
ہوالشفا: سرمہ سیاہ ایک تولہ ایون دو تولہ کشتہ جست دو تولہ زعفران پانچ ماشہ آب
برگ نیم ایک پاؤ سونف کا رس ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام دواؤں کو آب برگ نیم اور آب سونف میں باری باری کھری کریں
اور خشک کر کے مثل سرمہ بنالیں بس تیار ہے۔

ترکیب استعمال: ایک سلائی کے ساتھ آنکھوں کو زینت بخشیں

فائدہ: لکڑوں کو ختم کرنے میں مفید و لاجواب ہے۔

عنایت: جناب حکیم ہزاری لال صاحب ٹنن آباد بہاول پور
ہوالشفا: سرمہ سیاہ ایک تولہ مروارید ناسفہ تین رتی 'ریگ مانی تین رتی' چند بیدستر
رتی 'ورق نقرہ' دس عدد ورق طلا دس عدد کافور تین رتی 'عرق گلاب' سہ آتشہ پچاس گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں خوب کھری کریں اور مثل غبار بنالیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ رات کو ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگائیں۔
فائدہ: ضعف بصر اور آنکھ کی دیگر امراض میں مجرب و تجرب صدوری نسخہ ہے۔ جگر امراض میں
بھی استعمال کر کے فوائد حاصل کریں۔

44- کل افلاطون

عنایت: حکیم محمد جمید اعوان صاحب شمالی آرکٹ
ہوالشفا: سرمہ سفید ایک تولہ سرمہ سیاہ ایک تولہ مایراں زعفران دو دو ماشہ چند بیدستر
رتی آب سونف حسب ضرورت
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب سونف میں تین یوم کھری کریں اور پورڈر بنالیں جو
سرمہ ہو۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح و شام ایک ایک سلائی آنکھوں کے سپرد فرمائیں۔
فائدہ: بینائی کی کمزوری کے لئے اسے استعمال کرنا نہ بھولیں نہایت مفید الاثر ہے۔

لکڑے

اُردو نام	عربی نام	ڈاکٹری نام
لکڑے	جرب العین	ٹرے کوما

اس میں پونوں کی اندرونی جانب چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نکل آتے ہیں جو ریت
کی مانند آنکھ میں چبھتے ہیں اور خارش بے حد ہوتی ہے آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے اور متورم
ہو جاتی ہیں روشنی سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے اگر مرض پرانا ہو جائے تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔
گرد و غبار اور زیادہ پڑھنے لکھنے اور باریک چیزوں کو بغور دیکھنے کے علاوہ خشک اشیاء کا
بکثرت استعمال اس کے اسباب میں شامل ہیں۔

عنايت: حکیم رہتول صاحب منظر نگر
هو الشافى: طویلاً شب یمان سفید سوہا کہ سونا کھی زنگار ہیرا کیس ولایتی ہر ایک ایک
 کشتہ دست اور صمغ عربی چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پیس کر صمغ عربی میں ملا کر شیاف بنالیں اور دم
 رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوت ضرورت لکرون پر کھس دیا کریں۔
فائدہ: لکرون کو چند یوم میں نیست و نابود کر دیں گے۔

49- اکسیر لکرا

عنايت: جناب حکیم ہدایت حسین صاحب۔ جمال پور موئیر
هو الشافى: مہلکوی چار ماشہ 'قلبی شورہ آٹھ ماشہ' چاکسو مدبر چودہ ماشہ 'انیون سات
 سرمہ سیاہ تین تولہ زنگار چھ ماشہ سفیدہ کاشغری آٹھ ماشہ' کشتہ دست ڈیڑھ تولہ 'مصری کا
 آٹھ ماشہ' سمندر جھاگ دس ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک کھل کر کے سرمہ کی مانند بنالیں اور دم
 رکھیں۔

ترکیب استعمال: سلائی کے ہمراہ آنکھوں میں لگائیں یا پونے کو پلٹ کر چھڑکیں
 دونوں میں لکرون سے نجات مل کر شفا ہوگی۔

50- تریاق لکرا

عنايت: حکیم محمد احمد صدیقی صاحب دارالاسلام ٹوبہ یک سنگھ
هو الشافى: کشتہ دست 'مہلکوی سفید بریاں' کوزہ مصری ایک ایک تولہ
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کریں اور مثل فبار بنا کر شیشی میں محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: اگر لکرون پرانے اور سخت ہوں تو پلک الٹ کر دوایں چھڑکیں اور
 سلائی سے لگائیں۔

فائدہ: لکرون کو چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔

51- عرق لکرا

عنايت: ڈاکٹر متھرا داس آف موگا

هو الشافى: کلیسرین ایک اونس نیلا تھو تھامیں ملی گرام 'مہلکوی بریاں' پھتر ملی گرام 'زنگ
 سلفاس پچاس ملی گرام' کافور ایک سو پچاس ملی گرام 'بورک ایسڈ تین سو ملی گرام'۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیشے کی بوتل میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں پھر دو گھنٹے بعد
 نتھار کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: یہ عرق سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: لکرون کے لئے درجہ اول کی کامیاب ادویات میں سرفہرست نسخہ ہے جو لکرون کو فوراً
 ختم کر کے مریض کو سکون عطا کرتا ہے بنائیں اور دعا دیجئے۔

ناخونہ

اگریزی نام	طبی نام	اُردو نام
Pterygium	طرفہ	ناخونہ

یہ ایک ڈھیلہ چشم پر سرخ مثلث نما پردہ ہوتا ہے اس کی جڑ ناک کی طرف اور نوک پٹی
 کی طرف ہوتی ہے اور کبھی تمام قرنیہ کو ڈھانپ لیتا ہے جس میں نظر میں واضح فرق آ جاتا ہے۔
ناخونہ اور سبل میں فرق:

اگر آنکھ کی سفیدی سرخ نقطہ پیدا ہو جائے تو طرفہ کہلاتا ہے جب کہ آنکھ میں رگوں کا
 سرخ اور متلی ہو کر پردہ سا بن جائے تو سبل کہلاتا ہے۔


اسباب ناخونہ:

زور سے کھانسنے، تے کرنے اور زور زور سے چلانے یا آنکھ پر چوٹ لگ جائے یا کوئی
 ہار یک رگ کسی وجہ سے پھٹ جائے تو خون بہہ کر سرخ نقطہ بن جاتا ہے۔

اسباب سبل:

شدید چوٹ لگنے، زیادہ محنت کرنے یا کسی طبقہ چشم کی ورزش سے آنکھ کی رگیں سرخ اور
 خون سے بھر پور ہو کر پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات آتشک اور سوزاک وجع المفاصل اور
 نقرس وغیرہ کے باعث بھی سبل پیدا ہو جاتا ہے۔

ترکیب استعمال: دوا کا توام لے کر پلکوں پر لپ کریں اور عرق گلاب سے آتش میں توام الگ ملا کر آنکھوں میں دو دو قطرے ڈالیں۔
فائدہ: ناخونہ اور سبل سرخی چشم اور درد چشم میں مجرب ہے۔



شہس لقمانی فارمولے
نوٹ: آپریشن سے اگر ناخونہ کاٹ دیا جائے یا کاسٹک سے جلادیا جائے تو عموماً دو بار دوا
 ہو جاتا ہے۔

طبی کمالات:

الحمد للہ عزوجل طب کے اندر آج بھی ایسے کمال نسخہ جات ہیں کہ عقل دنگ رہتا ہے ڈاکٹری سوچ اختتام پذیر ہو جاتی ہے اور برٹش ذہن لوگ کرامت یا جادو تصور کرتے ہیں ہاں کرامتی سرمہ واقعی جادو ہے!

52- کرامتی سرمہ

عنایت: حکیم کرامت علی تاجی قادری۔ تاج بند اکھوڑا۔

ہو الشافی: سرمہ سیاہ ایک تولہ زہرہ گدہ ایک عدد عرق اورک پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: سرمہ سیاہ کو پہلے زہرہ گدہ میں خوب کھل کریں پھر عرق اورک ڈال جائیں اور کھل کرتے جائیں جب عرق اورک ختم ہو جائے اور سرمہ مثل غبار بن جائے مضبوط ڈھکن والی بوتل میں محفوظ رکھیں۔

نوٹ: ساتھ دو چند سرمہ سادہ الگ بنا کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: رات سوتے وقت ایک سلائی جھاڑ کر آنکھ میں لگائیں۔ دو بہت ہی خوب ہے لہذا کم مقدار میں استعمال کریں اور ایک دن کا نافع کر کے دوسرے دن پھر استعمال کریں۔ ناخونہ اور سبل کے علاوہ دیگر امراض میں سادہ سرمہ دو چند ملا کر استعمال کریں۔

فائدہ: ناخونہ اور سبل کے لئے تمام ادویات اس کے سامنے ”صفر“ ہیں چند دنوں میں آنکھ صاف شفاف اور نظر تیز کر دے گا جب کہ دھند، خارش، گگرے، جالا، دھولا، ضعف، بصر، پانی آنا، سرخی چشم اور آنکھوں کی دیگر امراض میں سادہ سرمہ کے ساتھ ملا کر استعمال تمام امراض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں لاثانی اور کرامتی ہے۔

53- اکسیر کرمانی

عنایت: حکیم حافظ محمد منیر کرمانی صاحب، کرمان الہ آباد

ہو الشافی: عرق بید انجیر، لودھ پٹھانی دس ماشہ، شب میانی کلفتہ ایک تولہ، نیلا تھوٹھا چھ ماشہ، روزنت دو تولہ، ہلیہ زرد دو تولہ، ہلیہ سیاہ دو تولہ، اجوائن دسکی نو ماشہ، ہلدی نو ماشہ، کون سفید چھ ماشہ، زعفران اصلی چار ماشہ، انیون خالص چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک پیس کر عرق بید انجیر ملا کر توام بنائیں اور محفوظ رکھیں۔

آنتوں کے امراض

ڈاکٹری نام	عربی نام	اردو نام
Intestines	امعاء	آنتیں

اقسام:

اطباء جدید اس کی تین اقسام بیان فرماتے ہیں:
(1) چھوٹی آنتیں (2) بڑی آنتیں (3) امعاء مستقیم اور قولون آنت

چھوٹی آنتیں:

لمبائی میں تقریباً 22 1/2 فٹ ہوتی ہیں اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ معدہ کے زیریں سوراخ سے شروع ہوتی ہیں تینوں حصوں کو درج ذیل ناموں سے یاد کیا جاتا ہے:

(I) اثنا عشری	(بارہ انگلی آنت)	Duodenum
(II) صائم	(خالی آنت)	Jejunum
(III) معادقین	(بچ دار آنت)	Illum

اثنا عشری:

یہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو معدہ کے بواب سے شروع ہوتا ہے اور معاصم تک جاتا ہے اس حصہ آنت میں مختلف کیماوی عمل ہوتے ہیں کیونکہ صرف اس نالی میں گرتا ہے اور لیلے کی رطوبت بھی اسی میں گرتی ہے۔

صائم:

اسے صائم اس لئے کہتے ہیں کہ بعد موت یہ خالی ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے سات فٹ ہوتی ہے۔

معادقین:

یہ چھوٹی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے کیونکہ یہ حصہ بچ دار ہوتا ہے یہ پتلی ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے گیارہ فٹ ہوتی ہے۔

بڑی آنتیں:

بڑی آنت کی لمبائی تقریباً پانچ فٹ ہوتی ہے یہ چھوٹی آنت کے آخری حصہ سے شروع ہو کر قولون آنت تک جاتی ہے یہ آنت حجم میں بڑی اور ساخت میں دبیز ہوتی ہے یہ آنت چھوٹی آنت کے آخری حصہ سے ایک دم بڑی ہو جاتی ہے۔

اعور:

بڑی آنت کے شروع میں زائدہ اعور ہوتا ہے زائدہ اعور سے بڑی آنت سیدھی اوپر اٹھتی ہے بڑی آنت کا یہ حصہ تقریباً ڈھائی انچ لمبا ہوتا ہے یہ حصہ پیڑو کی دائیں طرف رہتا ہے معادقین اور اعور کے جائے ملاپ پر ایک کواڑ ہوتا ہے جس میں ایک لمبا اور تنگ سوراخ ہوتا ہے یہ کواڑ بڑی آنت سے غذا اور ہوا کو چھوٹی آنتوں میں واپس نہیں جانے دیتا۔ بڑی آنت اعور سے شروع ہو کر اوپر جاتی ہے اور جگر سے مس کرتی ہوئی طحال کی طرف جاتی ہے اور قولون آنت سے ملتی ہے۔

قولون آنت:

یہ طحال سے نیچے شروع ہوتی ہے اور مبرز کے مقام پر ایک دم باریک ہو جاتی ہے اور امعاء مستقیم کے نام سے مقعد کے ساتھ مل جاتی ہے اسی آنت میں اکثر قونج ہوتا ہے مستقیم آنت تقریباً آٹھ انچ لمبی ہوتی ہے یہ قولون کے آخر سے شروع ہو کر مبرز پر ختم ہو جاتی ہے۔

اسہال (دست)

اگر کسی وجہ سے غذا آنتوں میں نہ رکے اور جلد خارج ہو جائے تو اسے اسہال کے نام سے یاد کرتے ہیں عموماً دست غذا کے کسی وجہ سے اضم نہ ہونے سے آتے ہیں۔

اسباب:

قلیل و بادی کثرت مصالح دار اغذیہ آنتوں کے اورام یا خراش دار چیز کا استعمال ضعف جگر ضعف معدہ آنتوں کی قوت ماسکہ کی کمزوری کبھی بے جوڑ غذاؤں کے باعث مثلاً کھیرے یا خربوزہ کے ساتھ لسی یا دودھ کا استعمال وغیرہ۔

54- حب حابس

عنایت: راس الاطباء حکیم سید محمد قاسم شاہ صاحب لکھنو

هو الشافی: جدوار فطالی تین تولہ افتیون تین تولہ رب السوس تین تولہ صمغ عربی تین تولہ

دانہ الاچھی تین تولہ، طہاشیر ایک تولہ، زعفران ایک تولہ، جند بید ستر دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیں اور عرق سونف سے نخودی گولیاں تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ آب سرد لیں۔

فائدہ: اسہال کو ختم کر کے اعضاء کو طاقت و رہائی ہے قوت ماسکہ پیدا کرتی ہے نیز نزلہ کو بھی ختم کرتی ہے۔

پرہیز: نرم غذا کے علاوہ ہر قسم کی خوراک بند کر دیں۔

55- حب اسہال بند

عنایت: زبدۃ الحکماء لقمان الملک حکیم غلام حسین شیرانی تونسوی صاحب ڈی جی خان

ہوالشافی: طہاشیر، معطلی رومی، زہر مہرہ، ناریل دریائی، شکر، ایون سہاگہ، بریاں، زنگ آکسائیڈ، سونف نیم بریاں، تمام ادویہ ہم وزن

ترکیب تیاری: تمام ادویات نہایت باریک کر کے چونے کے پانی کی مدد سے نخودی حب بنا لیں۔

ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام ہمراہ شربت انار یا آب سرد سے دیں۔

فائدہ: ہر قسم کے دست دو تین دنوں میں بند ہو جائیں گے خواہ وہ کتنے ہی سخت حالت میں کیوں نہ ہوں۔

پرہیز: تمام قابض اور ثقلی اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

56- سفوف لاجواب

عنایت: حکیم محمد حبیب اللہ صاحب۔ سرگودھا

ہوالشافی: زہر مہرہ، خطائی، سنگ یشب، صدف مرواریدی، ہر ایک ایک تولہ، طین مغرا تین تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی تین ادویات کو عرق گلاب میں کھل کر لیں اور پندرہ کلو اوپلوں کی آگ دیں بعد طین مغرا ملا کر خوب کھل کر لیں کہ مثل غبار ہو جائے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے دو ماشہ شربت انجبار یا شربت مندلی یا آب سرد سے پلائیں۔

فائدہ: ہمہ اقسام کے دستوں کے لئے نہایت ہی لاجواب ہے پہلی خوراک ہی اثر دکھاتی ہے۔

57- سفوف ہمدرد

عنایت: زبدۃ الحکماء حکیم غلام قادر صاحب ہوشیار پور

ہوالشافی: پوست خشخاش ڈھائی تولہ، نپال پانچ تولہ، کوڑا سک پانچ تولہ، رال سفید ڈھائی تولہ، کشتہ مرجان ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ آب سرد لیں

فائدہ: مزمن اسہال اور سگرہنی میں نہایت ہی مجرب ہے۔

نوٹ: پرہیز واجب ہے۔

58- حب فیروز

عنایت: زبدۃ الحکماء حکیم سید محمد فیروز شاہ صاحب شاہ پور

ہوالشافی: مازو نو تولہ، مائیں نو تولہ، شقیقل خالص چار تولہ، صمغ عربی ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: 250 ملی گرام دن میں تین وقت ہمراہ آب خالص سرد دیں۔

فائدہ: تمام اقسام کے اسہال میں اسم باسکی ہے آزمائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔

پرہیز: ثقل اور بادی و سخت اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

59- حب شفیق

عنایت: جناب حکیم محمد ربیر بکھروی صاحب شاہ پور

ہوالشافی: مغز تخم نیب، گوگل بھلیا، ازراقی مدبر، ہم وزن

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر کر کے عرق سونف کی مدد سے نخودی حب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ شیر گاؤ یا آب سرد سے کھلائیں۔

فائدہ: ہوا سیر بادی و ریاحی، قرقر معدہ، سلسل البول، اسہال ریاحی اور ریاح شکم میں تھکے سے کم نہیں۔

60- دوائے سرخ

عنایت: جناب حکیم لیش پال صاحب ضلع انبالہ

ہوالشافی: سنگ جراحی، گیرؤ برابر وزن

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک مثل غبار کر لیں۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ شربت کوکنار دیں یا شربت قابض دیں۔

فائدہ: خونی اسہال، بواسیر خونی، نفث الدم، کثرت حیض کے لئے مجرب ہے۔

61- اسہالی

عنايت: جناب حکیم عبدالجید صاحب امرتسر

هو الشافی: اسپنول، تخم ریحان، نشاستہ، حماض، گل ارمنی، صمغ عربی، طباشیر
ترکیب تیاری: پہلی تین ادویات کے علاوہ تمام ادویات کو باریک کر کے روغن گل میں چرب کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ عرق گلاب دیں۔
فائدہ: پیش مزہ کے لئے نہایت ہی اعلیٰ فوائد کی حامل دوا ہے۔

62- سفوف شافی

عنايت: جناب حکیم جوہر علی ویلوری صاحب گوشہ گل حیدرآباد دکن۔

هو الشافی: طباشیر نقرہ، کشیز، صندل سفید، دانہ الاچھی، خورد زہر مہرہ، کہرباشمعی، کوزہ معری
ہر ایک پانچ پانچ تولہ، نارجل دریائی تین تولہ، کشتہ عقیق دو تولہ، کشتہ مرجان ایک تولہ، ورق چاندی
تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیں اور کشتہ جات ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ آب انار یا بھٹی یا شربت وغیرہ سے
کھلائیں۔ بھگی کے لئے مکھن میں ملا کر چٹائیں تقویت دماغ کے لئے علی الصبح نہار منہ مکھن میں
کھلائیں۔

فائدہ: الحمد للہ عزوجل ہمہ اقسام کی گرم امراض ایک ہی خوراک سے سکون میں تبدیل ہو جاتی
ہیں ہیضہ، طاعون، مکی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن، ہر قسم کا جریان خون مثلاً خونی بواسیر، نکسیر، نفث
الدم، خونی پیش، کثرت حیض وغیرہ کو فوراً بند کرتا ہے ہر قسم کے اسہال اطفال اور حمیات میں
معمول طب ہے سینکڑوں مرتبہ کا آزمودہ اور مجرب ہے بھگی اور تقویت قلب میں بے مثال ہے۔

63- دوائے اسہال

عنايت: جناب حکیم سید نذر حسین بخاری صاحب۔ ایک

هو الشافی: طباشیر، اقاتیا، دم الاخرا، گل ارمنی، گوند کیکر، انجبار، مرد ز پھلی، گل سرخ، مائیں
www.pdfbooksfree.pk

شام لقمانی فارمولے

کھتہ سفید، افیون، دانہ الاچھی، گلنار سب ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو سے تین ماشہ ہمراہ آب سرد دن میں تین وقت دیں۔

فائدہ: پیش اور دستوں کے لئے نہایت مفید ہونے کے ساتھ ساتھ زیادتی حیض اور جگر کی
کمزوری کے لئے بھی لاثانی ہے۔

64- برائے اسہال دموئی

عنايت: جناب حکیم محمد عبدالجلیل سہارنپوری صاحب گنپت سرائے سہارنپور یوپی۔

هو الشافی: زخم حیات ایک تولہ، فلفل سیاہ چار عدد، پانی بارہ تولہ

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب گھوٹیں اور پانی ملا کر اس میں شربت انجبار اور شربت
حب الاس تین تین تولہ ملا کر رکھ لیں یہ ایک خوراک ہے۔

ترکیب استعمال: ایسی روزانہ دو خوراک ایک صبح اور ایک شام لیں۔

فائدہ: تین دن کے اندر اندر اسہال دموئی خواہ کتنے ہی پرانے ہوں اللہ عزوجل کے فضل سے
ختم ہو جائیں گے۔

پرهیز: دہی چاول، کھجوری دہی، دال چاول، دال موگ اور ہلکی غذائیں دیں۔

65- حب اسہال

عنايت: جناب حکیم مولا بخش صاحب چک نمبر 126 چنیوٹ

هو الشافی: شکر، مصطکی رومی، کشتہ مرجان، طباشیر نقرہ، کہرباشمعی، افیون سب ادویات ہم
وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر خوب بخودی بنا لیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی دیں۔

فائدہ: عرصہ دراز سے لاعلاج مریض جن کو دن رات میں تقریباً ستر ستر مرتبہ دست آتے ہیں
اس کے استعمال سے صحت یاب ہو گئے۔

پرهیز: لطیف اور سادہ غذا دیں۔

66- عرق کافوری

عنايت: جناب حکیم محمد عصمت اللہ قریشی صاحب پٹیالہ گورداسپور

هو الشافی: کافور دو تولہ، سپرٹ چار تولہ۔

ترکیب تیاری: کافور کو پس کر بوتل میں ڈال لیں اور اوپر سے سپرٹ ڈال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو قطرے سے تین قطرے کوزہ مصری یا بتاشہ پر ڈال کر ہر دو گھنٹے بعد دیں بیضہ کے لئے تین قطرے ایک چمچ پانی میں ملا کر دیں۔
فائدہ: بیضہ میں اگر مریض کا بدن سرد اور ٹانگن نیلے ہو جائیں اور جسم میں تشنج واقع ہوا جائے تو اس کی ایک خوراک سے مریض آنکھیں کھول لیتا ہے اس کے علاوہ کثرت حیض نفث الدم، خونی بواسیر، خونی اسہال یا پھیپھڑوں سے خون آنے میں نہایت ہی اکسیر الاثر ہے۔

67- تریاق شکر ہنی

عنایت: جناب حکیم عزیز علی صاحب پیوٹ

ہوالشافی: سگم پانچ تولہ آب لیموں پاؤ

ترکیب تیاری: سگم کے اندر تھوڑا تھوڑا آب لیموں ڈال کر کھل کرتے رہیں یہاں تک کہ آب لیموں ختم ہو جائے تو محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح دوپہر شام تین تین ماشہ ہمراہ آب سرد سے دیں۔

فائدہ: اس نسخے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے سگر ہنی جیسے عمر العلاج اور اسہال کہنے کو چند خوراکیں سے صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ بتائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔

68- حب حابس

عنایت: جناب حکیم محمد شفیع صاحب سادھو کا انبالہ

ہوالشافی: شکر فہاگہ، انیون، معطلی رومی برابر وزن

ترکیب تیاری: تمام ادویات باریک کر کے خودی گولیاں تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح و شام ایک ایک حب ہمراہ آب تازہ دیں۔

فائدہ: خونی اسہال اور مڑوڑ میں پہلی خوراک اثر دکھاتی ہے۔

69- اکسیر اسہال

عنایت: جناب حکیم ایشر داس شرما صاحب بھوآ گورداسپور

ہوالشافی: صمغ عربی، گوند کثیر، طہاشیر سنگ، جراحت ہم وزن

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح دوپہر شام چار ماشہ ہمراہ شربت خشک چار تولہ یا شربت انجبار چار تولہ دیں۔

فائدہ: ہر اقسام کے اسہال میں مفید ہے۔

70- سفوف بے مثال

عنایت: جناب حکیم محمد عبدالکیم صاحب برہان پور (سی پی)

ہوالشافی: گندھک آملہ ساز، سیماب، موچرس، گل دھاوا، لودھ پٹھانی، بیلگری، ناگرموتھا، اندر جو شیریں، انیون برابر وزن لیں۔

ترکیب تیاری: پہلے دونوں اجزاء کو کچی بنا لیں پھر دیگر باریک کر کے پورڈر بنا لیں۔

ترکیب استعمال: 250 سے 500 ملی گرام دوا چاولوں کے پانی کے ہمراہ دن میں دو مرتبہ دیں۔

فائدہ: اسہال کہنے و جدید اور پچیس میں مفید و مجرب ہے۔

71- کشتہ فولاد سیمابی

عنایت: جناب حکیم ودھایا رام صاحب بلوال شاہ پور

ہوالشافی: برادہ فولاد پانچ تولہ، سیماب تین ماشہ

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو آب کنوار گندل میں ایک گھنٹہ کھل کریں اور نکیہ بنا کر پانچ

کلو ادپلوں کی آگ دیں یہ عمل پانچ بار کریں اس کے بعد آگ کے دودھ میں ایک گھنٹہ کھل

کریں اور نکیہ بنا کر پانچ کلو ادپلوں کی آگ دیں پھر ڈنڈا تھوہر کے آب میں ایک گھنٹہ کھل

کریں اور پانچ کلو ادپلوں کی آگ دیں پھر مولی کے پانی میں ایک گھنٹہ کھل کریں اور پانچ کلو

ادپلوں کی آگ دیں یعنی ہر بوٹی کے پانی سے پانچ بار عمل کریں اور ہر بار تین تین ماشہ سیماب

مالتے جائیں بس کشتہ تیار ہے۔ سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورنی مکھن یا ملائی میں پیٹ کر دیں۔

فائدہ: ضعف جگر، یرقان، سولقینہ، استقاء، اسہال، خونی، بواسیر، خونی اور دمہ میں نہایت ہی

مجرب اور متعدد مرتبہ کا تجربہ شدہ خاص نسخہ ہے۔

72- سفوف داسن

عنایت: جناب حکیم درشن داس صاحب گڑھاٹھل سنگھ (ظہیر آباد شہید) ضلع دہاڑی

ہوالشافی: پودینہ خشک دو تولہ، قنفل، اسود آٹھ ماشہ، ساق نمک طعام ہر ایک ایک تولہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: اسہال میں تین ماشہ صبح تین ماشہ شام شندے پانی سے کھائیں جب

کہ دیگر امراض میں گرم پانی سے دیں۔

فائدہ: اسہال، ہضم طعام، مقوی معدہ، درد معدہ، مغلل ریاح، تونج ریکی میں مفید ہے۔

عنايت: جناب حکیم پنڈت بھگت رام صاحب راج پور بھائیال ہوشیار پور
ہوالشافی: ناگرموتھا، موچس، لودہ پٹھانی، گل دھاوا، بیلگری، اندر جو شیریں، فیون، پارہم
گندھک آملہ سارہم وزن۔
ترکیب تیاری: گندھک آملہ سار اور پارہ کی کجلی تیار کریں باقی ادویات باریک کر کے
میں ملا کر تین کھٹے کھل کریں دوا تیار ہے۔
ترکیب استعمال: 250 ملی گرام صبح دوپہر شام ہمراہ لسی دیں۔
فائدہ: ہمہ اقسام کے دستوں کی اکسیر دوا خصوصاً سنگرہنی کے لئے جید الاثر ہے۔

74- دوائے انتخاب

عنايت: جناب حکیم محمد ندیم کالھیا ضلع ساہیوال
ہوالشافی: پوست سنگدانہ مرغ ایک تولہ، سنڈھ دس تولہ، غنچہ انار ترس تازہ پانچ تولہ،
چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: سنڈھ کو بھون لیں پھر باریک پیس لیں پھر فیون اور سنگدانہ مرغ پوڈر کر
کس کر لیں بعدہ غنچہ انار ڈال کر خوب کھل کریں کہ گولی بندہ جائے۔
ترکیب استعمال: دو سے چار گولی دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب سرد دیں بعدہ مقدار
کرتے جائیں حتی کہ ایک ایک گولی رہ جائے۔
فائدہ: یہ ایک کامیاب نسخہ ہے جو پرانے سے پرانے اسہال جو کسی بھی دوا سے ٹھیک
ہوتے ان اسہال کو ٹھیک کرنا اس کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔
پڑھیز: دلی دال مونگ اور چاول کی کھجڑی کے علاوہ دیگر اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

75- بر شعشا

عنايت: جناب حکیم محمد زبیر قادری ڈنڈے وال جھنگ
ہوالشافی: قنفل، اسوز، قنفل ایض، اجوائن خراسانی، ہر ایک سات تولہ، فیون چار تولہ، زعفران
ڈیڑھ تولہ، باجھڑ، عتر قرھا، فرنیون ہر ایک پانچ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو الگ الگ پیس لیں پھر سہ چند شہد میں ملا کر تین ماہ کے
گندم میں دبا دیں پھر نکال کر استعمال کریں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے ایک ماشہ تک بوقت ضرورت استعمال کریں۔
فائدہ: ہمہ اقسام امراض میں نہایت ہی مفید الاثر ہے مگر تجربہ ان میں نہایت ہی لاجواب۔

مثلاً نزلہ و زکام نئی پرانی کھانسی بے خوابی خصوصاً ہر قسم کے اسہال میں بے عدیل ہے۔

پچیش

پچیش کی دو اقسام معروف ہیں جنہیں صادق اور کاذب کے نام سے پکارتے ہیں:

پچیش کاذب:

پچیش کاذب میں جگر سے صفرا کا اخراج رک جاتا ہے جس کی وجہ سے سدے پیدا
ہو جاتے ہیں۔

پچیش صادق:

اس میں جگر سے صفرا کے کثرت اخراج کے باعث انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے
جس سے مردڑ اور کھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پاخانہ بار بار آتا ہے۔

اسباب مرض:

عموماً دیر ہضم غذاؤں کا کثرت استعمال، سڑی باسی اغذیہ کا استعمال، بار بار مسہل لینا، صاف
اور بلغم شور کے باہم مل کر آنتوں پر گرنے سے یا کسی غلیظ لیسدار چیز یا خشک سدوں کے آنتوں
میں پیدا ہو جانے یا آنتوں کا درم ہوتا ہے عموماً موسم برسات میں یہ مرض عام ہوتا ہے۔

76- حب پچیش

عنايت: زبدۃ الحکماء رئیس الاطباء جناب حکیم غلام کبریا خان صاحب دہلی
ہوالشافی: پوست بلیلہ زرد پوست آملہ، مازو ہر ایک تولہ، زعفران چھ ماشہ
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں کھل کریں اور نخودی خوب تیار کر لیجئے
ترکیب استعمال: ایک سے تین گولی ہمراہ آب تازہ دن میں تین مرتبہ دیں۔
فائدہ: آنتوں میں کثرت صفرا کے گرنے کے باعث سوزش کو ختم کرتی ہے اور دیگر پچیش میں
بھی اعلیٰ فوائد کی حامل ہے۔

77- عرق حیات

عنايت: جناب حکیم سید ممتاز علی قادری صاحب چک نمبر 21 نواب شاہ سندھ
ہوالشافی: سپرٹ ایٹھرناٹروسائی ایک ڈرام، کلورڈین دو ڈرام، اڑتالیس منم چکر کارڈم کو
ایک ڈرام میں منم، سپرٹ کیملر میں منم۔

81- دوائے انمول

عنايت: جناب حکیم خوشی محمد قادری چک مغلانی جالندھر (انڈیا)

هو الشافی: مغز بادام شیریں پانچ عدد لگا کر پودینہ، کھوی، سونف، انار دانہ ہر ایک چھ ماشہ، گل قند دو تولہ، مصری پانچ تولہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو گھوٹ کر شیرہ نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام دونوں وقت پلائیں البتہ یہ ایک خوراک ہے جو صبح پلائیں گے۔

فائدہ: پیش خواہ کتنے ہی دیرینہ ہوں اس دوا سے صحت یابی ہو جاتی ہے۔

82- سفوف ہرڑ

عنايت: جناب حکیم محمد فضل الہی راولپنڈی

هو الشافی: ہلیلہ سیاہ حسب ضرورت

ترکیب تیاری: ہلیلہ سیاہ کو روغن زرد میں بریاں کر کے پوڑ بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین تین ماشہ صبح و شام اور دوپہر ہمراہ آب سرد دیں۔

فائدہ: زحیر صادق میں نہایت ہی لاجواب ہے آزمائیں اور دعا مدینہ دیں۔ خون آنے کی حالت میں بھی لاجواب ہے۔

83- زحیری ٹانک

عنايت: سید الاطباء جناب حکیم محمد عبداللطیف صاحب گجرات

هو الشافی: مغز خستہ انبیہ تین ماشہ، رال سفید چھ ماشہ، بادیاں مقشر نو ماشہ، لودھ پٹھانی ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام تین تین ماشہ ہمراہ لسی دیں۔

فائدہ: خونی پیش ہوں یا مروڑ ہر وقت کی معمول مطب لاجواب ٹانک ہے۔

84- دوائے خاص برائے پیش

عنايت: جناب حکیم عبدالرحیم قادری بنگلور (انڈیا)

هو الشافی: ہلیلہ سیاہ، سونف ہم وزن

ترکیب تیاری: دونوں کو الگ الگ روغن گاؤ میں بریاں کر لیں اور پوڑ بنا کر رکھیں۔

ترکیب تیاری: سب کو ملا کر رکھ لیجئے۔
ترکیب استعمال: آٹھ سے اکیس منم بتاشہ میں ڈال کر دیں۔
فائدہ: بد ہضمی، درد شکم، نزلہ و زکام، کھانسی، اسہال و پیش میں بھی مفید ہے۔

78- حب پیش

عنايت: جناب حکیم قاضی حمید احمد صاحب سندر چک لور بیاں گورداسپور (انڈیا)

هو الشافی: معطل روئی، شکر روئی، جدوار خطائی، افیون ہر ایک چھ تولہ، سہا کہ سفید

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے دانہ ماش برابر حب تیار کر لیں اور رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح و شام ایک ایک گولی سے دو دو گولی ہمراہ شربت انار شربت انار یا تازہ پانی دیں۔

فائدہ: پیش خواہ کتنے ہی پرانے ہوں نہایت ہی مفید الاثر ہے۔

79- شربت پیش

عنايت: جناب حکیم لاہارام صاحب گلزار طیبہ سرگودھا۔

هو الشافی: بیدانہ، اسپنول، عناب، لوزیاں، گل نیلوفر، بنفشہ، تخم خطمی، گل خطمی، ریو، سونف ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے بیدانہ اور اسپنول کا الگ لعاب نکال لیں اور دوسری ادویہ کا جوڑا تیار کر لیں پھر دونوں کو ملا کر چینی تین پاؤ ڈال کر قوام تیار کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ دو دو تولہ شربت عرق سونف میں ملا کر استعمال کریں۔

فائدہ: لاعلاج پیش کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔

80- سفوف درویشی

عنايت: جناب حکیم حضرت صاحبزادہ محمد عمر صاحب سجادہ نشین پیر بل شریف شاہ پور۔

هو الشافی: شاخ مرجان پچاس گرام

ترکیب تیاری: شاخ مرجان پچاس گرام کو اچھی طرح کوٹ چھان کر سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ہزار ملی گرام کپسول دن میں دو مرتبہ دیں ہمراہ آب سرد خالص۔

فائدہ: خواہ زحیر صادق میں کتنا ہی درد اور خون آ رہا ہو اس کے استعمال سے مرض نابود ہو جاتا ہے۔

ترکیب استعمال: تین تین ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب سرد خالص دیں۔
فائدہ: پچیس خواہ سدی ہوں یا غیر سدی نہایت ہی مفید الاثر ہے۔

85- سفوف زحیر

عنايت: جناب حکیم رحمت علی صاحب دہار پوال گورداسپور (اٹلیا)
هو الشافی: ہیلگری دو تولہ، مٹھلی آم، موچس، زیرہ سفید، پوست خشخاش، ہرڑ، گل دھارا، گل

سفید ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام دو سے تین ماشہ ہمراہ آب سرد یا دہی والی دیں۔

فائدہ: زحیر صادق و کاذب میں نہایت ہی تیز بہدہ ہے۔

86- اکسیر سنگرہنی

عنايت: جناب حکیم عبدالکیم صاحب محلہ جھواٹی ٹولہ لکھنؤ (ہند)

هو الشافی: موچس، گل سرخ، گل دھارا، مٹھلی رومی، ہیلگری، کوکنار، دال چنے ہر ایک

وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام چار چار ماشہ ہمراہ آب تازہ دیں۔

فائدہ: ہر اقسام کے پچیس خصوصاً سنگرہنی کے لئے مجرب ہے۔

87- حب اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم صاحب کوٹ غازی کلاں گوجرانوالہ

هو الشافی: شحم حنظل، مبر زرد، ریوند چینی ہر ایک ڈیڑھ تولہ، کتیرا چار ماشہ، زنجبیل چار ماشہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر لعاب سے گھیکوار سے خوب تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی رات کو سوتے وقت ہمراہ شیر گاؤ استعمال کریں۔

فائدہ: نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی قبض کشا ہے گھبراہٹ بے چینی وغیرہ بالکل پیدا نہیں کرتی۔

88- سفوف رضوی

عنايت: جناب حکیم سید آل نبی رضوی صاحب فرخ آباد یوپی (ہند)

هو الشافی: خرمبرہ، آئے خورد، پانچ تولہ، برگ نیم ایک پاؤ، زخم حیات ایک پاؤ

ترکیب تیاری: برگ نیم اور زخم حیات کا نغدہ بنا کر خرمبرہ ہائے خورد پانچ تولہ کو ملفوف کر کے دس کلو اوپلوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار ربلی سے ایک ماشہ ہمراہ شہد کے استعمال کریں۔

فائدہ: خونی پچیس بوا سیر خونی اور جریان وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔

89- برائے پچیس

عنايت: جناب حکیم محمد فرحت اللہ قادری صاحب فراشخانہ بلند (ہند)

هو الشافی: کالا کوڑا، کاکڑا سگی برابر وزن

ترکیب تیاری: دونوں کو پورڈر کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ سے چھ ماشہ صبح و شام دہی سے دیں اگر تکلیف زیادہ ہو تو دن میں تین مرتبہ بھی دے سکتے ہیں۔

فائدہ: پچیس ہمہ اقسام میں لاثانی و بے نظیر دوا ہے۔

90- دوائے سیاہ

عنايت: جناب حکیم عبدالصمد صاحب چین پور مظفر پور (ہند)

هو الشافی: ہلیلہ سیاہ چار تولہ، پلو اپیکاک چار ماشہ، بسمتھ نائٹراس دس ماشہ

ترکیب تیاری: ہلیلہ کو پیس کر دونوں دواؤں کو ملا کر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ صبح و شام ہمراہ آب سرد دیں۔

فائدہ: پچیس سدی ہوں یا خونی جدید ہوں یا قدیم ہمہ اقسام کے لئے جید الاثر ہے۔

91- اکسیری دوا

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم فضل حق نور صاحب بٹالہ گورداسپور (ہند)

هو الشافی: سنگجراحت پانچ تولہ، برگ نیم سبز پاؤ

ترکیب تیاری: برگ نیم کے نغدہ میں سنگجراحت رکھ کر اوپر کپڑا لپیٹ دیں اور سات کلو جنگلی

اپلوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: نصف ماشہ سے ایک ماشہ ہمراہ شربت انجبار دیں۔

فائدہ: پچیس خونی، قے الدم، نفث الدم، بوا سیر خونی و استخاضہ میں مفید ہے۔

92- تریاق الدم

عنايت: جناب حکیم سید لیاقت حسین رانی منڈی الہ آباد (ہند)

96- سفوف سنگرہنی

عنايت: رئیس الاطباء جناب حکیم بشیر احمد صاحب بیگوالہ سیالکوٹ۔

هو الشافی: زنجبیل ایک پاؤ

ترکیب تیاری: زنجبیل کو آہنی توے پر بریاں کریں جب سرخ ہو جائے تو باریک کر کے سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: دن میں تین مرتبہ تین تین ماشہ ہمراہ لسی گائے دیں جب پیاس لگے تو

لسی ہی دیں لسی پلاتے وقت بھی تین ماشہ دوا کھلا دیں نہ ہی کوئی غذا دیں اور نہ ہی پانی دیں۔

فائدہ: یہ سفوف سنگرہنی کے لاعلاج مریضوں کے واسطے پیام شفا ہے خواہ وہ کتنے ہی سخت حالت میں کیوں نہ ہوں لاجواب ہے بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔

97- تریاق سنگرہنی

عنايت: جناب حکیم عنایت علی صاحب نور محل جالندھر (ہند)

هو الشافی: کوڑا مسک پانچ تولہ گوند کیکر ڈھائی تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو باریک پیس لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ لعاب چاول دیں۔

فائدہ: سنگرہنی خواہ کتنی ہی پرانی ہو یہ دوا سو فیصد مجرب ہے۔

پرہیز: سخت و قلیل اغذیہ سے پرہیز کروائیں۔

98- اکسیر کامیاب

عنايت: جناب عبدالکبیر خان صاحب دہلی (ہند)

هو الشافی: بکری کی مستعمل ہڈی پانچ کلو (جو پکانے کے بعد کھا کر عموماً پھینک دی جاتی

ہے) خرما مصفی ڈیڑھ کلو، الاچھی کلاں پانچ چھٹانک۔

ترکیب تیاری: ایک روغنی گھڑا لیں جس کے پیندے میں سوراخ کر کے تانبے کی باریک

تاروں کا کچھالگا دیا گیا ہو اب سب چیزوں کے دودھ سے کریم پہلے ایک حصہ ہڈی پھر اور خرما

اور اوپر الاچھی رکھ کر اوپر ایک نالی دار ہڈی میں چھ ماشہ لفار بھر کر اس کے دونوں طرف منہ

ہڈیوں سے بند کر دیں اور رکھ کر اوپر الاچھی پھر خرما اور پھر باقی ماندہ ہڈیاں رکھ دیں منہ اچھی

طرح بند کر دیں اور دس سیرادپلوں کی آگ دس تاکہ روغن کشید ہو جائے نہایت خوش رنگ اعلیٰ

درجہ کا تقریباً آدھ پاؤ تیل برآمد ہوگا سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک یا دو قطرے چینی پر ڈال کر صبح و شام کھلائیں۔

هو الشافی: چڑا کہ سوختہ ہلدی عمدہ سوختہ ہم وزن

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ آب ساغی کا شربت انجبار دیں

فائدہ: ہر قسم کے خون بند کرنے کے لئے اکسیر کثرت الدم، کثرت طمث، نکسیر قے الدم، خرا

چپش غرض کہیں سے بھی خون آتا ہو مجرب الجرب ہے۔

93- آسنہ مطب

عنايت: جناب حکیم منوہر لعل صاحب بے نگر اجیر شریف (ہند)

هو الشافی: انجبار مائیں، مازد، گوند کتر، ارال سفید برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیں۔

فائدہ: خونی چپش، کثرت الدم وغیرہ کے لئے معمول ہے۔

94- حب پچش

عنايت: جناب حکیم محمد امین علی صاحب ضیا کوٹ (سالکوٹ)

هو الشافی: پوست ہلیہ زرد، مازد، ہبز، کافور، آملہ، ہر ایک دو دو تولہ زعفران ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: سب کو باریک کر کے عرق گلاب میں بخودی گولیاں تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دن میں تین وقت ایک ایک گولی ہمراہ آب سرد دیں۔

فائدہ: ہر اقسام کے پچش میں لاجواب ہے۔

95- سنگرہنی

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
پرانے دست	اسہال	سپرد

اسہال و پچش کے پرانے ہونے پر انتڑیوں کے اندر کا پردہ پھل جاتا ہے اور اس کی قوت مائلہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ ہضم ہوئے بغیر ہی دستوں کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے عموماً صبح کے وقت پانچ متعفن قسم کے دست آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض روز بروز کمزور ہو جاتا ہے بسا اوقات آنتوں میں ورم ہو کر بخار بھی ہو جاتا ہے۔

موٹاپا، عصبی امراض، صفرا کی کمی یا پیدا نہ ہونا وغیرہ اسباب میں شامل ہیں۔

اقسام:

اس کی دو اقسام ہیں دائمی قبض اور عام قبض۔

دائمی قبض کو عموماً لوگوں کو سالہا سال رہتی ہے جب کہ عام قبض کسی ثقل غذا وغیرہ سے ہو جاتی ہے۔

درج ذیل نسخہ جات میں سے بنا کر آزمائیں اور خدمت خلق کرتے ہوئے دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کریں۔

101- ازرائی پلر

عنايت: جناب حکیم کریم بخش صاحب آڑھ اکبر شاہ مظفر گڑھ

هو الشافى: ازرائی مدبر دس تولہ زعفران چھ ماشہ جلوتری ایک تولہ دارچینی ایک تولہ دانہ الاچھی کلاں دو تولہ سرنجاں شیریں تین تولہ زنجبیل دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں یا گولی کی شکل دے دیں۔

ترکیب استعمال: نخودی ایک گولی صبح و شام مناسب بدرقہ دیں۔

فائدہ: اعصابی امراض، فاج، لقوقہ، دائمی قبض، خرابی معدہ و جگر، ضعف دماغ و باہ اور ضعف اعضائے رئیسہ کے لئے مفید اور مجرب ہے۔

102- سفوف قبض

عنايت: جناب حکیم بشیر احمد قریشی صاحب چناکوٹ (میاںکوٹ)

هو الشافى: پوست بلیلہ زرد برگ سناکی مصفیٰ گل سرخ ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین سے چھ ماشہ گرم پانی یا گرم دودھ کے ساتھ کھلائیں تجارتی اور راز کا نسخہ ہے۔

فائدہ: قبض کے لئے بہت مفید ہے درد سر، زلہ و زکام کو بھی دفع کرتا ہے۔ ✓

103- افزائش قوت باہ

عنايت: جناب حکیم کیسر داس صاحب ساہیوال

هو الشافى: مغز بادام، زیرہ سفید، چہار مغز ہر ایک ایک تولہ، مغز پستہ، چھ ماشہ، سونف، چھ ماشہ، زعفران چار رتی، الاچھی خورد دو ماشہ، دودھ آدھا کلو۔

شہاس لقمانی فارمولے
فائدہ: سگریٹ، عام کمزوری، ضعف باہ، کمزوری دماغ اور عضلات کی کمزوری میں نہایت ہی
آزمودہ بے مثل مجرب الجرب نسخہ ہے۔

99- دافع سگریٹ

عنايت: جناب حکیم عبدالغنی قیصر صاحب خیر پور بہاولنگر۔

هو الشافى: اندر جوج، مغز کدو، مصطلی، طباشر ہر ایک ایک تولہ، گل دھادا، تخم بھنگ دو تولہ، سونف بریاں ایک تولہ، پوست سماق، انیون ہر ایک تین ماشہ، کچلا مدبر چھ ماشہ، کشتہ فولاد ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر نگاہ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ دہی کے ہمراہ دن میں دو مرتبہ دیں۔

فائدہ: سگریٹ کے لئے نہایت مفید چیز ہے بہت سے مریضوں پر تجربہ ہو چکا ہے اس سے
بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں دیکھا آپ بھی آزمائیں۔

100- دوائے نعمت

عنايت: جناب حکیم فقیر محمد صاحب ضیاکوٹ (سیالکوٹ)

هو الشافى: شکر، انیون، لوبان، کوڈیہ، کافور، جلوتری ہر ایک ایک تولہ، مونگ دو تولہ، جانفل، دارچینی ہر ایک دو ماشہ، زعفران تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے نگاہ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کریں اساک کے لئے ایک
رتی دو گھنٹے پیشتر دودھ کے ہمراہ کھائیں اور قدرے لعاب دہن میں گھس کر عضو پر مالش کریں۔

فائدہ: اسہال، ہمد، اقسام کھانسی، تپ، بلغمی اسہال مبارکی تپ دموی کے لئے مفید ہے اور مقوی
باہ، مسک و ملذذ بھی نہایت اعلیٰ ہے۔

قبض

اگر پاخانہ معمول کے مطابق نہ آئے یعنی روزانہ حاجت ہونے کی بجائے دوسرے
تیسرے روز آیا کرے یا روزانہ آتا ہو مگر تھوڑا تھوڑا کئی بار آئے اور با فراغت نہ آئے تو دونوں
صورتوں کو قبض ہی کہیں گے عموماً درد سر، زلہ و زکام، نظر کی کمزوری، بھوک کی کمی، دل کی گھبراہٹ،
بواسیر، درد کمر وغیرہ قبض کے باعث لاحق ہوتی ہیں۔

اسباب:

قابض و ثقل اغذیہ کا کثرت استعمال، حقہ نوشی، سگریٹ، انیون کا استعمال، رجمی امراض

ترکیب تیاری: تمام چیزوں کو سردائی کی طرح گھوٹ کر چھان کر دودھ ملا کر آگ پر پکانا
جب تیرا حصہ رہ جائے تو نیچے اتار کر قدرے شیریں کر کے پلائیں۔
ترکیب استعمال: یہ ایک خوراک ہے روزانہ ایسی ایک خوراک بنا کر پلائیں نیز اگر موسم
گرم ہو تو آگ پر نہ چڑھائیں۔
فائدہ: عورتوں کا دودھ بڑھانے کے لئے نہایت ہی اعلیٰ ہے بے شمار عورتوں کے علاج میں
فیصد کامیابی ہوئی قبض کشا بھی ہے اور قوت باہ کے لئے بھی عجیب الاثر ہے۔

104- اکسیر اعلیٰ

عنایت: جناب حکیم گورنچن صاحب پٹیالہ (ہند)
ہوالشافی: ازرائی مدبر تین تولہ شکر، روئی الیوا، قنفل اسود ہر ایک ایک تولہ، آب ادراک
حب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب ادراک میں حب نخودی بنالیں اور
مخفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی دن میں دو مرتبہ ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم استعمال کریں۔
فائدہ: بد ہضمی، کھانسی، قبض، بندش حیض، درد کمر، ضعف باہ، گنٹھیا اور جوڑوں کے دردوں میں
سکنا نہایت ہی مفید الاثر ہے۔

105- عرق مشکل کشا

عنایت: جناب حکیم منظور احمد میجوری چشتی صاحب جہلم
ہوالشافی: نوشادر ٹھکری پانچ تولہ سہا کہ دو تولہ مسمر، ریوند خطائی، سوڈا خوردنی، آملہ سار
گندھک، کشتہ فولاد ہر ایک تولہ، کنوار گندل کا گودہ ایک کلو پودینہ، سونف پچاس پچاس گرام
الابچی خورد ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دو بڑی بوتلوں میں بھر کر اور پانی ڈال کر دھوپ میں رکھیں
جب تمام ادویات حل ہو جائیں تو عرق کشید کر لیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
فائدہ: داغ قبض، ریح شکن، مقوی جگر، مصلح طحال، مقوی معدہ، ہیضہ و بد ہضمی، فواق، درد منہ و معدہ
درد تکی درد تکی کی خون سوائتینہ اور درد شکم میں نہایت ہی مفید ہے۔

106- سفوف اوجاع

عنایت: حکیم رام لہمایا صاحب جہلم

ہوالشافی: سورنجاں شیریں، سناکی، سونف، اسپند، زنجبیل ہر ایک دو تولہ، پوست تر پھلا، مغز
بادام ایک ایک تولہ، زعفران تین ماشہ، قند سفید دس تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پوڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ گرم دودھ دیں۔
فائدہ: وجع الفاصل، قبض وغیرہ میں مفید ہے۔

107- حب خاندانی

عنایت: جناب حکیم عبدالقادر قریشی صاحب صوبہ بوبانی جلندھر (ہند)
ہوالشافی: اجوائن دیسی ایک تولہ، سہا کہ دو تولہ، جما لکڑی ایک تولہ، املی تین تولہ، نمک دیسی چھ
ماشہ، گودہ کوار گندل تین تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے تمام خشک اجزاء کو باریک کریں بعدہ زلال املی میں کھرل کریں اور آخر
میں کنوار گندل کے پانی میں خشک کریں اور نخودی خوب تیار کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دو دو گولی ہمراہ شیر گاؤ گرم سے لیں۔
فائدہ: قبض، درد سر، بد ہضمی، نفخ، درد شکم، درد ریح وغیرہ کے لئے صدوری اور معمول مطب نسخہ
ہے۔

108- حب لاثانی

عنایت: جناب حکیم بشیر الدین صاحب اورنگ آباد دکن (ہند)
ہوالشافی: قرانی کار بوناس ایک تولہ، مسمر ایک تولہ، ست اجوائن تین ماشہ، ست بادیاں تین
ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے لعاب صمغ عربی سے حب نخودی تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک حب صبح و شام ہمراہ شربت اسٹین تین تولہ و عرق گلاب پانچ تولہ
دیں۔
فائدہ: قبض سوء ہضم، مایجولیا مرقی کے لئے مفید الاثر لاجواب ہے۔

109- حب ملین

عنایت: جناب حکیم سید محمد علی شاہ صاحب الکوہا اور جالندھر (ہند)
ہوالشافی: مسمر، ریوند عصارہ، نوشادر دو تولہ، مصطلی روئی ایک تولہ
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر نخودی خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ گرم دودھ دیں۔

113- حب دائمی قبض

عنايت: جناب حکیم ٹھاکر متوال چند صاحب لڈن ملتان

ہوالشافی: مغز سونف پانچ تولہ، گودہ گھیکوار پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کریں یہاں تک کہ خوب بننے کے قابل ہو جائیں نخودی خوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔

فائدہ: دائمی قبض کو دور کرنے کے لئے سو فیصد مجرب و آزمودہ ہے۔

114- حب ملین

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکیم محمد عامر صاحب لاہور۔

ہوالشافی: گل بنفشہ پانچ تولہ، بییدانہ پانچ تولہ، سناکی پانچ تولہ، گل سرخ پانچ تولہ، پوست ہلیہ زرد چار تولہ، مغز جمال گوٹہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر خوب بمثل چار رتی بنالیں اور محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی رات کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

فائدہ: قبض پرانی ہو یا نئی زکام موکی ہو یا بخار ہو یہ گولیاں نہایت مفید ہیں یہ اشتہاری نسخہ ہے۔

115- حب امرت

عنايت: جناب حکیم مزہ عطا محمد صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔

ہوالشافی: مصر پانچ تولہ، مرج سیاہ تین تولہ، سہاگہ بریاں ایک تولہ، دیسی اجوائن چار تولہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو باریک کر کے گھیکوار کے گودے میں کھل کریں پھر قدرے کسٹر آئل میں چرب کر کے چار رتی کی گولیاں بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی رات گرم دودھ سے استعمال کریں۔

فائدہ: آہستہ آہستہ دائمی قبض دور ہو جاتی ہے بھوک کھل کر لگتی ہے امعاء کے افعال اور قوت بصارت و سماعت بحال ہو جاتی ہے ہسٹریا اور احتباس طمث میں بھی مفید الاثر ہے نیز حیض کی بے قاعدگی دور ہو جاتی ہے۔

110- جوارش مراقیہ

عنايت: جناب حکیم کرم الہی صاحب بیچ گرائیں راجوری جموں کشمیر

ہوالشافی: مرہ ہلیہ سات عدد، مرہ سب پانچ تولہ، رب آملہ سات تولہ، رب ہلیہ سات تولہ، معطل سات ماشہ، الاچھی خورد سات ماشہ، زیرہ سفید نو ماشہ، دانہ الاچھی کلاں پانچ ماشہ، گل سرخ پانچ ماشہ، مرج سفید پانچ ماشہ، مرج سیاہ تین ماشہ، گل سرخ پانچ ماشہ، گل سیوتی تین ماشہ، گل گاؤ زبان پانچ ماشہ، انگوزہ سات ماشہ، پودینہ سات ماشہ، مصری دس تولہ، عرق گلاب دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کا پوڈر بنالیں اور رب ہلیہ رب آملہ اور مرہ ہجائے اور مصری کا عرق گلاب میں توام بنالیں اور مذکورہ دوائیں ملا کر جوارش تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ دن میں دو وقت ہمراہ آب تازہ دیں۔

فائدہ: ضعف، ہضم، ریح، ایوایسیر، باؤ، گولا اور دائمی قبض کے لئے نہایت ہی مفید الاثر ہے نیز درداغ کو طاقتور بناتی ہے۔

111- قبضی

عنايت: جناب حکیم ابراہیم قادری کچا باغ لدھیانہ (ہند)

ہوالشافی: مغز بادام مقشر سو عدد، سونف تین تولہ، برگ سنا مصفی تین تولہ، چہار مغز دو تولہ، الاچھی خورد دو تولہ، نبات سفید دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پوڈر تیار فرمایئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ رات سوتے وقت گرم دودھ سے دیں۔

فائدہ: دائمی قبض اور اتفاقیہ قبض میں مفید ہے چہرے کو بارونق بناتا ہے فعل امعاء کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جسم کو تقویت دے کر وزن بڑھاتا ہے اپنے فوائد میں اسم باسکی ہے۔

112- دوائے قبض

عنايت: جناب حکیم مہتہ دھن راج دت صاحب سکھو راو پلنڈی

ہوالشافی: ہلیہ سیاہ دو تولہ، مقشر مغز بادام شیریں دو تولہ، شہد چار تولہ۔

ترکیب تیاری: سب کو الگ الگ کوٹ کر شہد ملا کر مجوں بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ روزانہ رات کو گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔

فائدہ: دائمی قبض کو دور کرنا، یوایسیر ریح اور بخیر کو ختم کرنا اسکا ادنی کرشمہ ہے۔

اسباب:

خشک اور قابض اشیاء کے کثرت استعمال کے باعث غلیظ مادے آنتوں میں رک کر تکلیف کا سبب بنتے ہیں بعض اوقات بادی اشیاء کے کثرت استعمال سے بھی یہ نوبت آجاتی ہے اس مرض میں شدید درد شکم ہوتا ہے جسے دبانے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے اور اگر اس شکایت کے ساتھ پیشاب بھی بند ہو جائے تو مریض کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

118- کشتہ فولاد

غنايت: جناب حکیم محمد خان صاحب پہلاں میانوالی

هو الشافی: برادہ آہن مصفی سوگرام آب بلہل قدرے ضرورت۔

ترکیب تیاری: برادہ آہن کو آب بلہل میں اس طرح چینی کے برتن میں رکھیں کہ چار انگل پانی اوپر رہے چالیس دنوں تک اس طرح رکھیں پھر خشک کر کے کشتہ محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو سے تین رتی مناسب بدرقہ سے دیں۔

فائدہ: ریاح لفتح درد قونج، بوا سیر ریحی کے لئے تجربہ شدہ بے مثال نسخہ ہے۔

119- حب شانی

غنايت: جناب حکیم حاجی محمد وزیر صاحب جونا مارکیٹ کراچی

هو الشافی: سیماب گندھک آملہ سار، میٹھا تیلیلہ ایک ایک تولہ، قفل سیاہ، قفل دراز زنجبیل

آٹھ آٹھ تولہ ازراقی مدبر، سرنجاں شیریں، گوگل بھنسیا چار چار تولہ، آب ادراک ایک کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیں اور پارہ و گندھک کی بجلی تیار کر کے ملا کر آب ادراک میں خوب کھول کر لیں اور بخودی گولیاں تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ گرم دودھ دیں۔

فائدہ: درد قونج، ذات الریہ، ذات الجنب، درد گردہ، وجع الفاصل، درد کمر، گنٹھیا، نزلہ و زکام میں تیز بہد ف ہے۔

120- دافع قونج

غنايت: جناب حکیم رام صاحب چک نمبر 56 سہا ہوال۔

هو الشافی: جلابہ ہرز، گل سرخ، سناکی ایک ایک تولہ، شہد خالص تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے شہد ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ ہمراہ آب گرم دیں۔

غنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد صفت اللہ پیر محل فیصل آباد۔
هو الشافی: ستونیا دلایتی دو تولہ، چینی آدھ کلو، روغن بادام پانچ تولہ، شیرہ مربہ ہیکل

ضرورت

ترکیب تیاری: ستونیا کو باریک پیس کر چینی میں ملا کر روغن بادام ڈال کر خوب کریں
شیرہ مربہ ہیکل بالکل تھوڑا سا ڈالیں جس سے زنگین ہو جائے البتہ معجون نہ بنے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ میٹھی موج ایک پاؤ گرم دودھ میں ڈال کر نوش کریں۔

فائدہ: قبض دائمی ہو یا عارضی نہایت ہی لاجواب ہے کرسٹل نسخہ ہے بنالیں اور موج کریں۔

117- دوائے سیمابی

غنايت: حکیم ضیاء الرحمن سندھو ملتان

هو الشافی: پارہ مصفی دو تولہ، گندھک آملہ سار دو تولہ، مغز جمال گوٹہ پانچ تولہ، قفل دراز

قفل سیاہ، سوٹھ سہا ہر ایک ایک تولہ، مغز تخم ارٹھ تین تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی بجلی تیار کر لیجئے بعدہ دیگر ادویات کو ملاتے جائیں

کھول کر تے جائیں نہایت باریک کھول کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے ایک ماشہ ہمراہ گرم دودھ دیں۔

فائدہ: بالکل بے ضرر اور اعلیٰ درجہ کی دوا ہے سب سے اہم بات یہ ہے جتنا دودھ گرم ہو

اتنے جلاب آئیں گے کسی قسم کی گھبراہٹ بھی نہ ہوگی مگر تے اور کمزوری بھی نہیں ہوگی سرد پانی

پینے سے اسہال بند ہو جائیں گے۔

قونج

اردو نام	پتی نام	انگریزی نام
قونج	قونج	Colic

قونج سے مراد قونون آنت میں رکاوٹ یا سدہ یہ رکاوٹ چاہے براز کے خشک ہوا
سدے کی شکل میں ہو یا ہوارکنے سے یا اس حصہ آنت میں درم ہو یا سوزش اسے قونج ہی سے
موسوم کرتے ہیں۔

فائدہ: درد قونج کو یہ نسخہ ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور میرے تجربہ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔
آپ بھی آزما کر دعائیں دیں۔

121- اکسیر قونج

عنايت: جناب حکیم عبدالرحیم جلیل صاحب خان گڑھ۔
هو الشافى: جو کھار ایک تولہ شربت کا ایک گلاس شحم حنظل ایک تولہ پانی دس تولہ

ترکیب تیاری: جو کھار باریک کو ایک گلاس شربت میں ملا دیں جب کہ شحم حنظل باریک محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: پہلے جو کھار ملا شربت پلا دیں پندرہ منٹ بعد شحم حنظل کا پورڈر سے کلا دیں۔

فائدہ: درد قونج سے خواہ مریض کتنا ہی تڑپ رہا ہو انشاء اللہ عزوجل اس ایک خوراک سکون مل جاتا ہے۔

پیٹ کے کیڑے

دیدان امعاء کی تین اقسام ہیں:

(1) کدو دانے

(2) کچھوے

(3) چنونی

کدو دانے:

جو کیڑے پیچ دار آنت یا کانی آنت میں پیدا ہوتے ہیں انہیں کدو دانے کہتے ہیں۔
کیونکہ یہ اسی آنت کی جسامت کے مطابق ہوتے ہیں۔

کچھوے:

امعاء صائم اور بارہ انگشتی آنت میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں انہیں کچھوے کہتے ہیں۔
کیونکہ یہ آنتیں لمبی اور سیدھی ہوتی ہیں اس لئے اسی سائز کے کچھوے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔
چنونی:

یہ آنتوں کے آخری حصے میں پیدا ہوتے ہیں اس حصہ آنت کو مستقیم آنت کا نام ہے۔
کیونکہ یہ آنتیں چھوٹی اور سیدھی ہوتی ہیں اس لئے یہاں پیدا ہونے والے کیڑے

تھوٹے ہوتے ہیں۔

نوٹ: جدید تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ آنتوں کے اندر جو رطوبات متعفن ہو جاتی ہیں وہی اسی مقام کے کیڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

122- حب کرم کش

عنايت: شیخ الرئیس زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد عطاء اللہ گیلانی رابو سال ملتان
هو الشافى: انسٹین، کیلا، باؤ بڑنگ، پلاس پا پڑا، مسمر، آڑو کے تھے ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر حبوب جنگل پیر بنائیں۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح، دو گولی شام ہمراہ عرق سونف دیں۔

فائدہ: ان گولیوں سے کیڑے مر کر خارج ہو جاتے ہیں۔

123- تریاق دیدان

عنايت: جناب حکیم مرزا الف دین صاحب ہری پور دیوانان جموں کشمیر

هو الشافى: مسمر، کیلا، سنو نین، کیلول سب برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بچوں کو دورتی اور بڑوں کو ایک ماشہ ہمراہ شیر شیریں دیں۔

فائدہ: ہمہ اقسام کے کیڑے مار کر خارج کرنے میں معمول مطب بے خطا لا جواب نسخہ ہے۔

124- مسہل عجیب

عنايت: استاد الاطباء جناب حکیم احمد دین صوبہ موجد طب جدید شاہدرہ۔

هو الشافى: سقمونیا دلائی ایک تولہ، جلابہ ہرڑ تین تولہ، جوہر سیماب چھ ماشہ، روغن بادام تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: جلابہ ہرڑ کو کوٹ کر سقمونیا ملا دیں اور خوب کھرل کریں بعدہ جوہر سیماب اور بادام روغن ملا کر خوب کھرل کریں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ ہمراہ عرق مکو کے ساتھ استعمال کریں خوراک حسب ضرورت کم دیش کر سکتے ہیں۔

فائدہ: ہر موسم اور ہر مزاج اور ہر عمر میں نہایت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے تے گھبراہٹ وغیرہ نہیں آتی اعلیٰ درجہ کا مصفی خون ہے۔

عنايت: زبدۃ الکماء جناب حکیم عبدالرحمن صاحب صدر بازار راولپنڈی۔
هو الشافى: جما لگوٹہ پانچ تولہ، قفل سیاہ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر پانی جلی جائے تو بخودی جوب تیار فرمایا جائے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی گلتقد میں لپیٹ کر استعمال فرمائیں۔

فائدہ: مسهل بے ضرر ہے تمام فاسد مادوں کو خارج کرنے میں اسم باسکی ہے اگر دوسرے نہ ہوں تو کھانڈ ملا شربت نوش فرمائیں۔

126- حب جدید

عنايت: جناب حکیم مشتاق احمد صاحب احمد نگر، گوجرانوالہ
هو الشافى: سہاگہ پانچ ماشہ، اجوائن خراسانی چھ ماشہ، صبر سقطری چار تولہ آٹھ ماشہ، سیاہ چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب گھیگوار میں کھل کر کے جوب بخود بنالیں۔
ترکیب استعمال: دو گولی گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔
فائدہ: دائمی قبض اور وقتی فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بھروسہ کا نسخہ ہے۔

127- اچھارس

عنايت: جناب حکیم پنڈت گوردھن داس سرما پٹیل (ہند)
هو الشافى: پارہ گندھک آملہ ساڑھ سہاگہ زنجبیل، قفل سیاہ ہر ایک ایک تولہ، جما لگوٹہ دو تولہ
ترکیب تیاری: پہلے پارہ و گندھک کی بجلی تیار کر لیں پھر دیگر ادویات ملا کر خوب کھلا اور دو روٹی کی گولیاں بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ مصری ایک تولہ کے کھانیں اوپر سے جتنے گونڈ پانی پیئیں گے اتنے اسہال آئیں گے۔
فائدہ: امیرانہ جلاب ہے اس سے جسم ہلکا ہلکا ہو جاتا ہے اور طبیعت میں تازگی آ جاتی۔
پرهیز: کھانے میں دہی اور چاول دیں۔

128- اکسیری جلاب

عنايت: جناب حکیم محمد فضل اللہ صاحب گل نگر خانہ اجیر شریف (ہند)
www.pdfbooksfree.pk

هو الشافى: تروی عمدہ دو تولہ جلاب ہرڑ دو تولہ، کتیر ارب السوس ہر ایک دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پوڈر بنالیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ ہمراہ مغز بادام پندرہ عدد سونف سات ماشہ، مصری تین تولہ ڈیڑھ پاؤ پانی میں گھوٹ کر چھان کر استعمال کریں۔
فائدہ: بے ضرر نہایت مفید مجرب المجر ب مطلب ہر موسم ہر مزاج ہر عمر میں مفید ہے۔

129- مفید جلاب

عنايت: جناب حکیم محمد شریف رضا صاحب پاک پتن شریف
هو الشافى: مغز جما لگوٹہ، مغز بادام شیریں، تلمی شورہ، قفل دراز۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر پانی جلی جائے پھر روغن زرد میں بریاں کریں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی نیم گرم دودھ کھلائیں ہر اجابت کے بعد دو گھونٹ گرم پانی پی لیا کریں اگر دست بند کرنا ہوں تو ٹھنڈا دودھ مصری ملا پلا دیں۔
فائدہ: نہایت ہی مفید جلاب ہے جو ہر موسم میں یکساں فائدہ مند ہے۔

130- مسهل مغلاں

عنايت: جناب حکیم میاں عبداللہ خان صاحب کوٹ مغل شیخوپورہ۔
هو الشافى: جلابہ ہرڑ، گل سرخ، ترنجبین، گل بنفشہ، سناکی مصفی، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ پوست آملہ ہر ایک ایک تولہ، مغز، جما لگوٹہ تین تولہ، شہد، سہ چند روغن گاؤ ملا کر گھوٹیں اور محفوظ رکھ لیں۔

ترکیب تیاری: پہلے تمام ادویات کو باریک پس لیں پھر شہد ملا کر پھر آخر میں روغن گاؤ ملا کر گھوٹیں اور محفوظ رکھ لیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام مرغن کچھڑی کھلا کر اگلی صبح یہ مسهل نازک مزاج کو ایک ماشہ اور سخت مزاج کو ڈیڑھ ماشہ ہمراہ دودھ کھی ملا شیریں سے دیں اگر اسہال بند کرنا مقصود ہو تو شربت چینی ملا میں اسپغول ایک تولہ ملا کر دیں۔ مرض قونج میں تین ماشہ ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔

فائدہ: ہر موسم اور ہر مزاج کے لئے نہایت ہی مفید الاثر مسهل ہے بدن کو پھول کی مانند کر دیتا ہے قونج میں سرج الاثر ہے۔

عنایت: جناب حکیم قادر علی الدین صاحب نئی منڈی بنگور (ہند)
 ہواشافی: گدھک آملہ مارو تولہ پارہ ایک تولہ سہاگہ دو تولہ قنفل سیاہ تین تولہ زنجبیر
 پانچ تولہ بلبلہ زرد چھ تولہ مغز عم ارغہ سات تولہ جمبالگوندہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے گدھک و پارہ کی بجلی تیار کر لیجئے پھر دیگر ادویات ملا کر کھول کر لیا
 پوڈر ہو جائے پھر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو سے تین رتی ہمراہ شیر گاؤ دیں۔
 فائدہ: مسہل بے ضرر ہے اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔




بچوں کے امراض

چھوٹے بچے صحت مند ہوں گے تو صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا چھوٹے بچے ہی مستقبل کی باگ دوڑ سنبھالتے ہیں لہذا ان کی صحت کی طرف خصوصی توجہ دینا ضروری ہے نیز ننھے بچے چونکہ اپنی تکلیف کو اپنی زبان سے نہیں بتا سکتے پس انہیں جب کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے چہرے زبان پاخانہ اور پیشاب وغیرہ دیکھنے ہی سے ان کی تکلیف کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

صحت کی صورت میں چہرہ ہشاش بشاش ہوتا ہے بچہ خوب نیند کرتا ہے مگر مرض کی صورت میں بے چین اور اکثر روتا رہتا ہے اور نیند کی حالت میں چونک پڑتا ہے۔

تشخیص الامراض اطفال:

- (1) اگر بچہ اکثر روتا ہے اور دن بدن کمزور ہوتا جائے تو معمولی بخار کا شکار ہوگا۔
- (2) اگر بچے کے ماتھے پر لہریں پڑ جائیں اور سوتے میں چونک پڑے اور رونے لگے یا کسی وقت سسکیاں لینے لگے تو وہ سینہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔
- (3) بچے کو کھانسی ہو سانس لینے میں جلدی ہو اور منہ کھول کر سانس لیتا ہوناک کے نتھنے پھول جاتے ہوں اور زیادہ روتا ہو اسے ذات الجنب (نمونیا) سمجھنا چاہئے۔
- (4) بچہ روئے اور اپنا ہاتھ کان کی جانب لے جائے تو درد کان سمجھنا چاہئے۔
- (5) بچے کی زبان میلی ہو اور پاخانہ بدبودار سیاہی مائل قدرے خشک اور منہ کے قریب بل پڑتے ہوں تو خرابی معدہ تصور کرنا چاہئے۔
- (6) اگر بچہ روتے وقت گھٹنے سکیڑے اور بھوس چڑھائے تو سمجھنا چاہئے کہ درد پیٹ ہے۔
- (7) اگر پیشاب میں سفید رسوب بیٹھ جائے تو ہاضمے کی خرابی کی دلیل ہے۔
- (8) اگر بچہ نیند کی حالت میں دانت پیسے ناک کھجائے پاخانہ یا پیشاب کی جگہ کو ملتا ہے تو پیٹ کے کیڑے ہونے کی دلیل ہے۔
- (9) چھوٹے بچوں کو بات بات پر دوا نہیں دینی چاہئے بلکہ غذائی تدبیر اختیار کرنا چاہئے یا احتیاط سے کام لینا نہایت ضروری ہے البتہ شکایت رفع نہ ہونے کی صورت میں علاج کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔
- (10) بچوں کی دوا خوش ذائقہ خوش رنگ اور مناسب مقدار خوراک ہونا چاہئے۔



132- اکسیر اطفال

عنايت: رئیس الاطباء حکیم محمد حسن قرشی صاحب پرنسپل طبیہ کالج لاہور۔

هو الشافی: مردارید ہنفتہ چھ ماشہ ریوند خطائی ایک تولہ ہلیلہ زرد دو تولہ پودینہ جنگلی چار تولہ تریب سفید مصفی چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے پورڈر بنالیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورتی سے ایک ماشہ ہمراہ آب خالص دن میں دو وقت دیں۔

فائدہ: بد ہضمی، قبض، ہرے پیلے اسہال، سوکڑا وغیرہ میں نہایت ہی مفید الاثر ہے۔

133- سفوف بخشی

عنايت: جناب حکیم بخشی حاکم رائے صاحب راجہ بازار راولپنڈی۔

هو الشافی: برنج ساٹھی چار تولہ ناریل دریائی دو تولہ زہر مہرہ خطائی دو تولہ برگ نیم درک سونف چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی دن میں تین مرتبہ دیں ہمراہ شیر مادر۔

فائدہ: بچوں کے ہنر دستوں کو روکتا ہے پیاس اور کمزوری کے لئے خاص چیز ہے۔

134- تریاق اطفال

عنايت: جناب حکیم سید عباس علی شاہ صاحب رام باغ امرتسر (ہند)۔

هو الشافی: برگ بانسہ، چھڑ، برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنالیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے ایک ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں۔

فائدہ: بخار، کھانسی، اسہال، عطاش اطفال میں اسم باسکی ہیں۔

135- سفوف بال

عنايت: جناب حکیم گوگل چند صاحب سکندر آباد ملتان۔

هو الشافی: زہر مہرہ خطائی، ماجو، کھنہ گلابی، ناریل دریائی، زیرہ سیاہ، بڑی الاچھی، طباشیر، گلو، ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پورڈر کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ڈیڑھ سال تک کی عمر میں نصف ماشہ تین سال کی عمر کے لئے ایک

ماشہ ہمراہ آب تازہ دیں۔

136- زندہ پڑیا

عنايت: جناب حکیم ڈاکٹر محمد حسین صاحب بہانپورہ (اندور)۔

هو الشافی: کیلول یا ہیڈرا جرائی پرکلورائیڈ (ایک مشہور انگریزی دوا ہے)

ترکیب تیاری: اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت کولوں پر نصف ماشہ دوا ڈال کر بچے کو دھونی دیں صرف ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔

فائدہ: اکثر پیدائش کے بعد بچہ روتا نہیں اور سارا جسم بھی سبز رنگ کا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں بچے کو مردہ سمجھ کر زیر گور کر دیا جاتا ہے حالانکہ بچہ جلدی نہیں مرتا۔ ایسے موقع پر ایک زندہ پڑیا کی دھونی انشاء اللہ عزوجل بچہ زندہ ہو جائے گا جسم کی سبزی زائل ہو کر سرخی نمودار ہو جائے گی سو فیصد مجرب اور متعدد تصدیقات بھی آچکی ہیں یہ ایک راز کی بات ہے جس سے لاکھوں کا بھلا ہوگا۔

137- طفلی تریاق

عنايت: جناب حکیم احمد دین صاحب کھیدہ گجرات۔

هو الشافی: برگ نیم، کیسر، فلفل دراز، فلفل سیاہ، قرنفل ہر ایک ایک ماشہ آملہ ایک دانہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو باریک پیس لیں اور آب حنا کے ساتھ گولیاں دانہ موٹھ بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی شیر مادر میں گھس کر پلائیں۔

فائدہ: تمام امراض اطفال میں اکسیر ہے۔

138- دوائے بال

عنايت: جناب حکیم تر بخشی رائے صاحب خاندانی طبیب کوئٹہ۔

هو الشافی: تریب مصفی، پودینہ باغی، پوست ہلیلہ زرد تمام برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیں۔

ترکیب استعمال: ایک سال تک کے ایک ماشہ اور دو سال کے بچے کو دو ماشہ علی ہذا

القیاس ہمراہ عرق سونف یا شیر مادر دیں۔

فائدہ: ام الصبیان، ڈبہ، سرسام، درد سر، پیش، قبض، تونج، بد ہضمی، اسہال وغیرہ میں مفید الاثر ہے۔

142- تریاق اطفال

عنايت: جناب حکیم لدھارام صاحب نواب شاہ سندھ
هو الشافی: دانہ الہنجی خورد، لمبا شیر، قنفل دراز، کاکڑا سکی، آتس، ہم وزن
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک چنگلی میں شہد ملا کر چٹائیں۔
فائدہ: بچوں کی کھانسی دمنہ بخار کے لئے لاجواب ہے۔ ✓

143- اکسیرام الصبیان

عنايت: جناب حکیم تاج الدین احمد صاحب شاہدرہ لاہور۔
هو الشافی: سیماب، گندھک، گوکھرو، ترید سفید، حب السالمین، مغز حتم، بید انجیر، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: اول سیماب و گندھک کی کچی تیار کریں پھر دیگر ادویات ڈال کر خوب باریک پورڈر بنالیں اور موگ کے برابر گولیاں تیار کر لیں۔
ترکیب استعمال: ایک ماہ کے بچے کے لئے آدھ گولی چار ماہ کے بچے کے لئے ایک گولی اسی طرح عمر کے مطابق بڑھائیں مگر دو گولی سے زائد بالکل نہ دیں ہمراہ مادر شیر۔
فائدہ: ڈبہ اطفال میں نہایت ہی مفید الاثر ہے۔

144- حب مرگی

عنايت: جناب حکیم سید خورشید عالم صاحب حافظ آباد گوجرانوالہ۔
هو الشافی: صبر زرد، کند، جند بید ستر برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس لیں اور گولیاں موگ برابر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: بچوں کو ایک گولی ماں کے دودھ میں کھس کر دیں۔
فائدہ: بچوں کی مرگی اور ڈبہ میں نہایت ہی مفید ہے۔

145- اکسیر ڈبہ

عنايت: جناب حکیم شمس الاسلام صاحب رہنگ۔
هو الشافی: پلاس ٹائٹراس دو تولہ، چینی دو تولہ، کیلول چھ ماشہ، اپکا دانہ ایک تولہ، انٹی مونی پوڈر چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پوڈر بنالیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے ڈیڑھ رتی ہر تین گھنٹے بعد دیں۔

139- چائلڈ کیسر

عنايت: جناب حکیم حبیب اللہ صاحب جکراؤں لدھیانہ (ہند)۔
هو الشافی: ہنگ ایک تولہ، کھتہ گلابی سات ماشہ، ایون تین ماشہ، قنفل سیاہ، ہنگ ہم وزن۔
ترکیب تیاری: ہنگ کو روغن گاد میں بریاں کریں اور دیگر ادویات کو پورڈر بنا کر کھس کر لیں۔
ترکیب استعمال: چھ ماہ کے بچے کو نصف رتی ایک سال کے بچے کو ایک رتی اسی طرح بتدریج مقدار خوراک بڑھائیں ہمراہ شیر مادر۔
فائدہ: اسہال، چھارڈ، پاکہ سرخ بادہ، جملہ امراض جو فساد خون و فساد معدہ سے ہوں نہایت ہی الاثر ہے۔

140- حب ڈبہ

عنايت: جناب حکیم فضل محی الدین صاحب آواں شریف۔
هو الشافی: شتر حظل چار کلو پختہ، سہاگہ سیاہ پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: شتر حظل کو اس قدر پکائیں کہ گداز ہو جائیں پھر سرد ہونے پر مل کر ماڑ کریں پھر دوبارہ اس رس کو آگ پر غلیظ کریں تو سہاگہ سیاہ بھی ملا دیں جب گولیاں بانڈ کے لائق ہوں تو گولیاں دانہ ماش برابر بانڈ کریں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی سادہ پانی سے دیں۔
فائدہ: اسہال ہو کر مرض ڈبہ نیست و نابود ہوگا اکسیر لاجواب ہے۔

141- شربت مسیحا

عنايت: جناب حکیم قاضی سید شاہ صاحب قریش بہاری ترستی (ہند)۔
هو الشافی: بادیان پانچ تولہ، سہاگہ بریاں چھ ماشہ، قد سفید ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: بادیان پانچ تولہ کو ایک کلو پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو قد سفید پاؤ ڈال دیں جب پھر نصف رہ جائے تو سہاگہ بریاں ملا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام بچے کو پلا دیا کریں۔
فائدہ: بچوں کی جملہ امراض میں نہایت مفید ہے بچے کو مضبوط اور قوی و فریب کرتا ہے بتائیں اور دعائیں دیجئے۔

صحت بال
146-

عنايت: جناب حکیم نذر محمد انصاری صاحب مکھیانہ (ہند)
ہوالشافی: کا کڑا سٹی، پتیل دراز دو ماشہ، طباشیر چھ ماشہ، آتیس ایک ماشہ، مغز کنوار گندل ایک
تولہ، تخم الاچھی کلاں تین ماشہ، سہاگہ چوکیہ بریاں دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کا پورڈر بنالیں۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سادہ پانی سے استعمال کروائیں۔
فائدہ: بچوں کے دست تے، بخار، کھانسی وغیرہ میں نہایت مفید معمول طلب ہے۔

حب دق الاطفال
147-

عنايت: جناب حکیم مرزا منظور حسین صاحب کوہ ڈلہوزی
ہوالشافی: مردارید ہاسفہ چار رتی، زہر مہرہ خطائی چھ ماشہ، ناریل دریائی، طباشیر، حیرالہ
پوست، ہلیہ زرد، زرد دانہ الاچھی خورد، مغز کنول گھونٹہ ہر ایک چھ ماشہ، کہر یا شمشی چار ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں کھل کر کے گولیاں دانہ مونگ بنالیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر مادر دیں۔
فائدہ: دق الاطفال خصوصاً بچوں کی کمزوری تے، اسہال کا حکمی علاج ہے۔

148- اکسیر ڈبہ

عنايت: جناب حکیم سید شمت علی صاحب بالا کوٹ۔
ہوالشافی: جانگل، جادری، زعفران، مرچ سیاہ، ہر ایک تین تین ماشہ، قنفل دراز ایک لہ
حب السلاطین چار ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر بہن کے پانی میں مونگ برابر گولیاں بنالیں اور
مخفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی بمطابق عمر ہمراہ شیر مادر دیں۔
فائدہ: ڈبہ اطفال اور دیگر علامات میں نہایت ہی سریع الاثر ہے۔

149- حب لعل طفل

عنايت: جناب حکیم عبدالعلیم صاحب شور کوٹ۔
ہوالشافی: برنج سانھی چار ماشہ، نارچیل دریائی دو ماشہ، زہر مہرہ دو ماشہ، برگ نیم دو ماشہ

بادیان چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو باریک پیس کر مونگ کے برابر خوب تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی شیر مادر گھس کر دیں۔

فائدہ: سبز اسہال، پیاس، کمزوری میں ایک ہی گولی فوری نفع دیتی ہے۔

150- اکسیر ام الصبیان

عنايت: حکیم محمد یوسف صاحب سکندر آباد دکن (ہند)

ہوالشافی: قنفل سیاہ، شیر تھوہر قدرے مناسب۔

ترکیب تیاری: قنفل سیاہ کو شیر تھوہر میں بھگو دیں بعد ازاں خشک کر کے پورڈر بنا کر محفوظ
رکھیں۔

ترکیب استعمال: مذکورہ پورڈر کی نسوار دیں۔

فائدہ: ہزار ہا مرتبہ کا مجرب نسخہ ہے مرض مذکورہ شرطیہ ختم ہوگا اور پھر عود بھی نہ کرے گا انشاء
اللہ عزوجل۔

151- حب ڈبہ

عنايت: جناب حکیم لالہ ہر چند رائے سورام صاحب۔ باغ روڈ کراچی۔

ہوالشافی: جدوار خطائی، عود صلیب، زہر مہرہ، غبر اشبہ ہر ایک برابر وزن، عرق بید مشک
حسب ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق بید مشک میں کھل کر کریں تقریباً ڈھائی گھنٹے بعد حب
بقدر دانہ مونگ بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی سے دو گولی ہمراہ شربت عناب یا عرق سونف دیں۔
فائدہ: سریع الاثر بے خطا نسخہ ہے اور ڈبہ کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔

152- تریاق دق الاطفال

عنايت: جناب حکیم نادر خان صاحب۔ ڈھڈی تھل، جہلم۔

ہوالشافی: طباشیر، دانہ نیل خورد، کہر یا شمشی، ست گلو، مغز تخم کدو، تخم کانسی، خرفہ سیاہ، تخم لیموں
کانڈی، زرد دانہ، اعلیٰ ہر ایک چھ ماشہ، زہر مہرہ، نارچیل دریائی ہر ایک ایک تولہ، عرق بید مشک حسب
ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق بید مشک میں کھل کر کے پورڈر بنالیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ تین ماشہ دن میں تین مرتبہ پانی میں گھس کر یا حل کر کے

شام لقمائی فارمولے

عنايت: ہوا الشافی: پوست ہلیلہ زرد، پودینہ خشک، تربد سفید، برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک سال کی عمر تک چار رتی دو سال تک کے لئے ایک ماشہ پھر بتدریج دیں ہمراہ عرق سونف یا شیر مادر۔

فائدہ: امراض معدہ اور ام المصیبان میں مفید ہے۔

157- اکسیر چھارو

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم رحمت علی قریشی صاحب جلدھر (ہند)

ہوا الشافی: گندھک آملہ ساڑا لاپچی خورد گل سرخ ہر ایک ایک تولہ نیلا تھو تھا ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب کو خوب باریک پیس لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک چاول سے دو چاول ملائی میں استعمال کریں۔

فائدہ: مرض چھارو میں نہایت ہی مفید ہے خرابی خون اور ضعف ہضم کے لئے نہایت مجرب ہے۔

158- اسپہالی پورڈر

عنايت: جناب حکیم حکم چند صاحب صبوی مظفر گڑھ۔

ہوا الشافی: ریوند خطائی، پوست ہلیلہ زرد، کچور ہر ایک دو تولہ سوڈیم بائی کارب ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو سفوف بنالیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے ایک ماشہ ہمراہ شیر مادر دیں۔

فائدہ: ہاضمہ کو درست کرنا اس کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے دستوں میں بھی مفید ہے۔

159- گریمالٹ سیرپ

عنايت: ڈاکٹر و حکیم جناب راجندر سنگھ صاحب سمر اکلن کاری آسٹریلیا

ہوا الشافی: ہائپو فاسفائٹ آف لائم 160 گرین یا 2400 گرام ڈسٹلڈ واٹر 60 گرام کوزہ

مصری 250 گرام ہائپو فاسفورس ایسڈ 20 قطرے، پتھر کو جی انخدا

ترکیب تیاری: پہلی دونوں دواؤں کو ملا کر فلٹر کریں اور کوزہ مصری ڈال کر قوام شربت تیار کریں پھر باقی دونوں دواؤں کو ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک اونس دن میں تین مرتبہ دیں۔

فائدہ: سرفہ و کمزوری بدن کے لئے کمال درجہ کی دوا ہے۔

پائیں۔
فائدہ: اگر بچہ دن بدن کمزور اور سوکھتا جاتا ہو پانی کی طرح پھٹے ہوئے دست آئیں اور بھی بہت زیادہ آئے پیاس کا غلبہ ہو تو بہت ہی مفید اثر ہے۔

153- ہیلتھ کیئر

عنايت: جناب حکیم مقصود احمد خان صاحب موئی بارہ بنگی۔

ہوا الشافی: گل دیگ دان سوختہ، سم اسپ مٹکی سوختہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو باریک پیس کر دانہ موگ برابر گولیاں تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماہ کے بچے کے لئے ایک گولی روزانہ ایک سال کی عمر کے لئے

گولی روزانہ ایک صبح ایک شام دیں۔

فائدہ: اس کے استعمال سے بچہ دن بدن موٹا ہوتا جائے گا عجیب الاثر فوائد کی حامل دوا ہے۔

154- نسوار مرگی

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم سید اخلاق حسین رضوی صاحب نالکنڈہ حیدر آباد دکن (ہند)

ہوا الشافی: چمکنی، کشمیری پتر، اسٹو خودوں، ہر ایک ڈھائی تولہ، نوشادر سات ماشہ، چمکلا ریز

پانچ ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بطور نسوار استعمال کر دیں۔

فائدہ: ام المصیبان، مرگی، درد شقیقہ و عصابہ میں نہایت مفید اثر ہے۔

155- اسپہالی

عنايت: جناب حکیم برتھوی چند صاحب پنڈی گھیب انک۔

ہوا الشافی: سب کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب تیاری: سب کو پورڈر کر لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک سال تک کے لئے ایک رتی دو سال کے لئے دو رتی ہمراہ عرق

سونف یا سادہ پانی دیں۔

فائدہ: اسپہالی اطفال میں مجرب ہے۔

156- اکسیر اطفال

عنايت: جناب حکیم عبدالحق صاحب شاہ پور۔

عنايت: جناب حکیم سنت لعل۔ باغ ڈھل جھنگ۔

هو الشافی: الماس کی پھلی، شہد حسب نشا۔

ترکیب تیاری: الماس کی پھلی جلا کر راکھ کر لیجئے اور پیس کر محفوظ رکھیئے۔

ترکیب استعمال: شہد میں ملا کر تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔

فائدہ: جس وقت بچے کی پھلی چلنے لگے اور گڑھا پڑ کر موت کا خوف ہو تو اس وقت دوا کا حکم رکھتی ہے بتائیں اور دعائیں دیجئے۔

161- حب پیش

عنايت: جناب حکیم سید حسین علی شاہ صاحب حیدر آباد دکن (ہند)

هو الشافی: سہاگہ تین ماشہ، ایون ڈیڑھ ماشہ، شکر ایک ماشہ، مصطکی دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر آب لیموں میں حب دانہ موٹھ بنالیں اور رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی گھس کر دیں۔

فائدہ: بچوں کے اسہال میں نہایت ہی مفید تجربہ شدہ دوا ہے۔

162- تریاق چھارو

عنايت: جناب حکیم محمد سمیع اللہ صاحب گوجر گڑھی مردان۔

هو الشافی: برگ چبہ، برگ آڑو، کھتہ سفید، مرج سیاہ، نوشادر۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو پورڈر کر لیجئے اور سنبھال کر رکھیئے۔

ترکیب استعمال: شیر خوار بچے کو نصف ماشہ دو سال تک کے لئے ایک ماشہ پان دیں۔

فائدہ: مرض چھارو اطفال میں سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ خاص معمول مطب ہے۔

163- دوائے نعم

عنايت: حکیم بیوں رام صاحب میانوالی۔

هو الشافی: سہاگہ سیاہ، سہاگہ تیلیہ، مٹوی، ریوند چینی، ریوند خطائی، ہر ایک تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر کر لیں اور آب برگ لوندی میں دو پہر کھل کر یا خودی خوب بنالیں۔

ترکیب استعمال: بچوں کو نصف گولی شیر مادر میں دیں جب کہ بڑوں کے لئے مناسب

بدرتہ دیں۔
فائدہ: تشنج، نسیان، لقوہ، قانج، کھانسی، صدع، دمہ، سستی، دماغ، بچوں کی کھانسی، ام انبیان اور سینے سے بلغم کو صاف کرنے کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔

164- مشتاق اطفال

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم احمد علی صاحب سمت مگر پرچینی دکن (ہند)

هو الشافی: سہاگہ بریاں تین ماشہ، نوشادر ڈیڑھ ماشہ، بیگ بریاں ایک ماشہ، قلمی شورہ چھ رتی، نمک سیندھا دو ماشہ، زخمیل ڈیڑھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پورڈر بنا کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: بچوں کے لئے بمطابق عمر ایک رتی سے ایک ماشہ تک دیں۔

فائدہ: بچوں کی قبض، درد شکم، بد ہضمی، کالر ریاح، غرض ہر مرض کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔

165- سعال طفل

عنايت: جناب حکیم خان محمد صاحب میرا شریف جہلم۔

هو الشافی: نشاستہ، صمغ عربی، رب السوس، خشخاش سفید، ہر ایک چھ ماشہ، ایون تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے لعاب بیدانہ میں حب خود تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی پانی میں گھس کر دیں۔

فائدہ: بچوں کی کھانسی اور اسہال میں مفید الاثر لاجواب دوا ہے۔

166- اکسیر ڈبہ اطفال

عنايت: جناب حکیم طاہر حسین صاحب ڈل بازار شملہ

هو الشافی: نوشادر دو ماشہ، توپتا تین ماشہ، گیر و ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر دانہ موٹھ کے برابر گولیاں بنالیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ماں کے دودھ میں گھس کر دیں۔

فائدہ: ڈبہ اطفال میں نہایت مجرب دوا حاضر خدمت ہے۔

167- دوائے سعال

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حضرت علامہ مفتی حکیم محمد فاروق صاحب کراچی۔

هو الشافی: نوشادر دو تولہ، جو کھار دو تولہ، سہاگہ دو تولہ، نمک سوچل دو تولہ، اجوائن خراسانی

ترکیب استعمال: ایک گولی شیر مادر میں کھس کر دیں۔

فائدہ: دست تے، اچھارہ، سوکھا مسان کا اکیسری علاج بے مثل ہے۔ یہ ایک خاص راز کا نسخہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

171- قلندری پورڈر

عنايت: جناب حکیم محمد سیف الرحمن سندھو ملتان۔

هو الشافی: مصطلکی روئی، طباشیر کیوڈ، الاچی، خورد، پودینہ، خشک، ہم وزن۔

ترکیب تیاری: بطریقہ معروف پورڈر بنا کر احتیاط سے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے تین رتی تک دیں۔

فائدہ: ہمہ اقسام کے دست تے، اچھارہ، سوکھا مسان کا اعلیٰ اور کم خرچ بالائشیں اور سرخ لالہ اثر کا حقیقی مصداق نسخہ پیش نظر دانا ہے۔

172- شربت ہیلتھی

عنايت: جناب حکیم پنڈت کرشن کنوردت صاحب (ہند)

هو الشافی: برگ اڑوسہ ایک کلو، گاؤ زبان 250 گرام، گل بنفشہ 250 گرام، خوب کلاں ایک سو بیس گرام، مٹھھی ایک سو بیس گرام، سرطان نہری تیس گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو چار گنا پانی میں بھگو دیں پھر چوبیس گھنٹے بعد بذریعہ قرع انبیق عرق کشید کریں مزید کافور کی پوٹلی بوتل کے منہ پر باندھ دیں تاکہ عرق کے قطرے کافور کی تاثیر سمیت بوتل میں جمع ہوں جب پانچ کلو عرق کشید ہو جائے تو بطریقہ معروف شربت تیار کر لیجئے اور ایک بوتل میں عرق ایک تولہ چونا ملا کر نتار لیں پھر شربت تیار کر لیجئے۔ مزید لطیف و خوش رنگ بنانے کے لئے روز کلر کے چند قطرے ملا دیں تاکہ شربت کا رنگ سرخ ہو جائے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے چار ماشہ بمطابق عمر صبح و شام دیں۔

فائدہ: بد ہضمی، دودھ الٹنا، دست خصوصاً ہرے پیلے دست وغیرہ کا کامیاب علاج ہے نیز اس کے استعمال سے دانت باسانی نکلتے ہیں مروڑ پچش کا حتمی علاج ہے سوکھا مسان، کھانسی، بخار کی بھروسہ کی دوا ہے۔ گویا طبیب کی عزت بڑھاتا ہے اور مرتبے کی حفاظت کرتا ہے۔

173- حب سرخبادہ

عنايت: زبدۃ الحکماء استاد الاطباء جناب حکیم محمد رمضان صاحب گڑھا موڑ ملتان۔

هو الشافی: رسونت خالص مصفی، مغز انمولی نیم، ہر ایک دو تولہ، صندل سرخ، چراستہ، شاہترہ، مغز چاکسو، زکچور، برگ نیم، سیرگ، بکائن، گل حنا، کھتہ سفید، گل نیم، فلفل سیاہ، زرد چوب ہر ایک

شام لقمانی فارمولے
ایک تولہ، شریلی خورد ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پس لیں پھر ایک ہنڈیا میں ڈال کر گل حکمت کریں اور ہونے پر دس کلو اولیوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی مناسب بدرتہ بمطابق عمر بچے کو دیں۔

فائدہ: کال کھانسی کو دور کرنے سوہ ہضم، قبض، گیس، بد ہضمی، عسر البول اور پیٹ کے کینڑ مار کر خارج کرنے میں سرخ لالہ بے نظیر ہے۔

168- کھانسل

عنايت: جناب حکیم محمد مدیم صاحب چیچہ وطنی ساہیوال

هو الشافی: میوہ ساکھ، نوشادر، سہاگہ، رب السوس، ہر ایک ایک تولہ، مرکی، گوند کیکڑ، ہر ایک ماشہ، انون، زعفران ہر ایک تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر لعاب اسپغول سے فلفل سیاہ برابر چوبہ کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک حب صبح ایک شام ہمراہ تازہ پانی۔
فائدہ: کھانسی خشک ہو یا تر دوا کی پہلی خوراک بنی سے دفع ہو جاتی ہے۔

169- حب أم الصبیان

عنايت: جناب حکیم قیصر نوید صاحب، سرور سیالکوٹ

هو الشافی: مغز جالگوڈ، مغز کرنجہ، فلفل اسود، سوٹھ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو نہایت باریک پس کر عرق سونف میں دانہ مونگ برابر چوبہ کر لیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی صبح ایک شام شیر مادر میں دیں۔
فائدہ: اس سے اسہال با فراغت آ کر مرض رفع ہو جاتا ہے۔

170- حب موتی

عنايت: جناب حکیم پیر عبدالرحیم جلیل صاحب دہلی (ہند)


هو الشافی: مروارید ناسفہ چار رتی، زہر مہرہ خطائی، دانہ الاچی خورد، مغز کنول گھوٹ، طباشیر، حجر الیہوڈ، زرد چوبہ، ناریل دریا کی ہر ایک چھ ماشہ، پوست ہلیہ زرد پانچ ماشہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت باریک پورڈر کر کے عرق سونف کی مدد سے حب مونگ بنا لیجئے۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر حب دانہ ماش برابر گولیاں بنا لیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام اور ایک دوپہر شیر مادر میں گھس کر دیں۔
فائدہ: سرخبادہ اطفال میں درجہ کمال کی مفید دوا ہے پھوڑے پھنسیوں کے لئے بہت مفید ہے۔

174- حب صانی

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد تنویر احمد شاہ صاحب سلطان
هو الشافى: نمکوز رسوت، چاکو، مردار سنگ، دھما، صندل، سرخ، ہلیلا، سیاہ برگ، منڈی، پریم ڈنڈی، گنکلی، نیل، برگ نیم، برگ بکائن، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے برگ حنا کے پانی سے حب دانہ بنا لیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام شیر مادر میں گھس کر دیں۔
فائدہ: پھوڑے پھنسیوں اور دانوں کے لئے یا سرخبادہ اطفال میں نہایت ہی جید اثر ہے۔
 یعنی مجرب نسخہ پیش خدمت ہے۔



بالوں کے امراض

گنج

اگرزی نام	لبنی نام	اردو نام
نے دن	سند	گنج

اسباب:

جوانوں اور بوزھوں کے اکثر سر سنبھے ہو جاتے ہیں یہ مرض کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے عموماً یہ مرض حرارت مزیزی کی کئی داڈ خارش، پھنسل وغیرہ کے باعث عام جسمانی کمزوری دماغی کمزوری، کثرت دماغی مشقت وغیرہ یا اعصابی حصے کا کمزور ہونا اسباب ہیں۔

علامات:

عموماً شروع شروع میں بال باریک قدرے بھورے رنگ کے اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری کا شکار ہو کر گرنا شروع کر دیتے ہیں اور جلدی مسامات کے ساتھ ساتھ بند ہو کر گھبے پن کا باعث بنتا ہے جہاں سے گھبے پن کا اظہار ہوتا ہے وہاں پر جلد مائٹ اور چمکدار ہو جاتی ہے۔

175- روغن گنج

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم سید اقبال حسین شاہ صاحب رام نگر بنارس (ہند)
هو الشافى: آب برگ گومہ دو کلو آب گل نارنجی آدھ کلو قلمی شورہ ایک سوٹیس گرام روغن ناریل خالص ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: قلمی شورہ کو آب گومہ میں ڈالیں اور روغن بھی ڈال کر نرم آگ پر رکھ دیں جب تمام عرق خشک ہو جائے تو روغن فلٹر کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دن میں دو مرتبہ کاربالک سوپ اور نیم کے تھوں کے جوشاندے سے سرد کو دھوئیں اور روغن لگا لیا کریں۔
فائدہ: چند روز میں جلد پر کھرٹ آ کر خود بخود چھڑ جائے گا خشکی اور سکری خواہ عمر کے برابر حصہ سے ہو ختم ہو جائے گی بال تراشنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کچھ دنوں بعد بال نئے آنا شروع

پستانوں کے امراض

یہ دو ایسے امراض ہوتے ہیں جن سے بچوں کی پرورش کے لئے دودھ کے جھٹے پھوٹتے ہیں یہ امراض مردوں میں برائے نام جب کہ عورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی امراض عورت کے دہن کو دوہلا کرتے ہیں اور کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ ان امراض کے درمیان ایک سیاہ مائل چھوٹا امراض ہوتا ہے جس میں تقریباً بیس سے پچیس باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جن سے دودھ کے جھٹے پھوٹتے ہیں ان چھوٹے امراض کو پچیل کہتے ہیں۔

کثرت لبن

اگر دودھ بکثرت پیدا ہو تو پستانوں میں تناؤ پیدا کر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ پستانوں میں دوران خون کی زیادتی سے دم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کثرت لبن کے باعث مگر دودھ خود بخود بہنا شروع ہو جاتا ہے۔

اسباب:

جسم میں کثرت خون اور رقت خون ایسی اغذیہ و ادویہ کا استعمال جو کثرت پیدا کرائے باعث بنیں، محبت اولاد کی زیادتی، بے لگاری، فراغت، دودھ چھوڑنا وغیرہ وغیرہ۔

181- ضما و قلت لبن

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم بابا محمد حسین بورے والا ملتان

هو الشافی: مردار سنگ، زیرہ سیاہ، میتھی، سرکہ، تمام ادویات ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر سرکہ سے لیپ بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دن میں دو مرتبہ ضما کر لیا کریں۔

فائدہ: بغیر کسی تکلیف کے دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اور پستانوں میں سختی بھی پیدا ہوتی ہے۔

مفرد علاج:

پھلکڑی سفید پستانوں پر لگانا بھی قلت لبن کا باعث بنتا ہے۔

قلت لبن

اس مرض میں پستانوں میں دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے جس سے بچے کی پرورش میں کمی آ جاتی ہے اور وہ سیر نہیں ہوتا۔

اسباب: جسمی خون، کثرت غم و فکر و رنج، پستانوں کی قوت جاذبہ کی کمزوری، دودھ پلانے کے زمانے میں کثرت مباشرت، گرم جگہوں پر کام کاج کرنا، بچے سے عدم محبت، جسم سے کثرت اخراج خون، ایسی اغذیہ و ادویہ کا استعمال جو قلت لبن کا باعث بنیں وغیرہ۔

توجہ:

اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے تدارک کی تدابیر اختیار کرنا طبیب کی اہم ذمہ داری ہے۔

182- پورڈر افزائش لبن

عنايت: جناب حکیم پیر محبوب عالم صدیقی صاحب گوجرانوالہ۔

هو الشافی: تودری سرخ، ستاور ہم وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو باریک پیس لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ پورڈر روزانہ صبح گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل چند ہی دنوں میں دودھ کی نہریں بہہ نکلیں گی نیز کثرت مادہ منویہ بھی پیدا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں غلظت بھی پیدا ہو جاتی ہے بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوی کرتا ہے۔

183- ضما و پیدائش لبن

عنايت: جناب حکیم پنڈت حکم چند صاحب شیخوپورہ۔

هو الشافی: آرد باقلہ، گل بنفشہ، گل عظمیٰ، جو مقشر، آرد برنج ساٹھی ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے چقندر کے پانی میں گوندھ کر قدرے روغن کنجد ملا لیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت نیم گرم کر کے پستانوں پر لگائیں۔

فائدہ: اس ضما سے عورتوں کے پستانوں میں دودھ کی کثرت ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔

ہیں تھانی فارمولے
تذکیب استعمال: بوقت ضروری پستانوں پر طلاء کیجئے۔
فائدہ: اندر کی رسولیوں کو تحلیل کر کے اور سدوں کو خارج کر کے دودھ کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔

187- ٹنگور جلالی

عنایت: جناب حکیم جلال الدین جلالی میر پور سندھ۔
ہو الشافی: کل بابونہ پودینہ میٹھرے حکمی اسی ہر ایک ایک تولہ پانی ایک کلو۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک کلو پانی میں پکائیں۔
تذکیب استعمال: گرم گرم پانی سے پستانوں پر لگور کریں مفید الاثر لاجواب ہے نیز اس کے نقل کو روغن بابونہ میں ملا کر لپ کریں۔
فائدہ: دودھ کو رقیق کر کے سدوں کو خارج کر کے دودھ کو جاری کرتا ہے۔

مفرد علاج:

مکین گرم پانی کا بہنا مفید الاثر ہے۔

پستانوں کا ڈھیلا ہونا

اس مرض میں عورت کے پستان ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں جس سے عورت کا حسن برباد ہو جاتا ہے عورت احساس کتری کا شکار ہو جاتی ہے۔

اسباب:

کمی خون بچوں کو لمبے عرصے تک دودھ پلانا پستانوں کی رگوں کا خون سے خالی ہونا بلغم کی کثرت وغیرہ۔

188- روغن جامن

عنایت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم ابوعلی صاحب نواب سنج دہلی۔

ہو الشافی: پوست درخت انار پوست درخت بکائُن پوست کیکر پوست درخت جامن ہر ایک ایک پاؤ پوست ہلیہ زرد دس تولہ اجوائن خراسانی پانچ تولہ آب افشردہ ثمر بکائُن دس تولہ آب افشردہ ثمر کیکر دس تولہ آب خالص تین کلو روغن سرسوں آدھا کلو۔

تذکیب تیاری: تمام ادویات کو آب خالص تین کلو خوب پکائیں جب آدھا پانی جل جائے تو ہن چھان کر تیل سرسوں ڈال کر نرم آگ پر پکائیں جب پانی جل جائے تو آئل کو فلٹر کر لیں اور پھر اس میں صحرائی کبوتر کی سوختہ ہڈیاں ثمر بکائُن سوختہ گلنار سوختہ ہر ایک ایک تولہ شامل کر کے

ہیں تھانی فارمولے

184- مجنون کثرت دودھ

عنایت: جناب چوہدری حکیم محمد شریف ملتان صاحب ملتان۔
ہو الشافی: تودری سر تودری سفید تخم ششاش سفید مغز بادام مغز چلتوزہ مغز چروٹی مغز نذق مغز صندل مغز انار۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے گائے کے گھی میں چرب کر کے سہ چتر چھٹکا توام بنا کر پورڈر کس کر کے مجنون تیار کریں اور محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام ہمراہ شیر گاؤ میں۔
فائدہ: عورت کی بھرپور جوانی کو لٹاتی ہے اور جسم میں طاقت کا خزانہ پیدا کر کے دودھ کی کثرت کر دیتی ہے لٹائی بچرب ہے۔

185- طغرے

- (1) مغز بنولہ ایک تولہ ایک پاؤ دودھ میں کھیر بنا کر کھانا بے
- (2) زیرہ سفید تین ماشہ صبح اور تین ماشہ شام ہمراہ دودھ کھانا مفید و مجرب ہے۔
- (3) کشہ فولاد کا استعمال بھی یہی فوائد کا حامل ہے۔
- (4) کثرت سے دودھ پینا بھی بے حد مفید ہے۔

دودھ کا جم جانا

اس مرض میں دودھ پستانوں میں جم جاتا ہے اور بعض اوقات نالیوں میں رک کر متعفن ہو کر پیر کی مانند جم کر پستانوں کو سخت کر کے درد کا باعث بنتا ہے۔

اسباب:

دودھ کی نالیوں میں بلغم کا جمنا نالیوں میں سدے بننا پستانوں کے عضلات کا رگوں پر دباؤ دودھ کا زیادہ دیر تک پستانوں میں رکے رہنا نالیوں میں رسولیاں پیدا ہونا بعض اوقات کوئی زہریلی کیفیت کا پیدا ہونا وغیرہ۔

186- طلاء چنبیلی

عنایت: جناب حکیم محمد اکمل قادری صاحب فیصل آباد۔
ہو الشافی: خراطین مصفی پچاس گرام روغن چنبیلی پچاس گرام۔
تذکیب تیاری: خراطین مصفی کو پورڈر بنا کر روغن چنبیلی ڈال کر محفوظ رکھیں۔

جگر کے امراض

باب: 6

جگر کی مختصر تشریح:

جگر اعضاءے ریشہ میں سے ایک عضو ہے جو سرخ مائل بہ سیاہی بینگنی شکل کا عضو ہے جسم میں دائیں جانب پھیلوں کے نیچے اور معدے کے اوپر ہوتا ہے اس کا وزن عموماً تندرست

جوان آدمی میں ڈیڑھ سیر سے دو سیر ہوتا ہے۔ جگر کے اندر شریانیں، وریدیں اور صفراوی نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اعصاب و عضلات بھی ہوتے ہیں اخلاط مثلاً بلغم، سودا، صفرا وغیرہ جگر ہی میں بنتے ہیں جو صفرا پیدا ہوتا ہے پتہ میں سٹور ہوتا رہتا ہے اور بوقت ضرورت آنتوں پر گرتا ہے خون میں شامل ہو کر نطف اعضاء کی خوراک بنتا ہے وغیرہ۔ حالت صحت میں چوبیس گھنٹے میں صفرا تقریباً سو گرام سے ایک سو بیس گرام آنتوں پر گرتا رہتا ہے۔ جگر کی اہمیت مسلمہ ہے اگر اس میں خرابی آجائے تو تمام اعضاءے جسم کے افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کی پرورش اور تقدیر کے افعال وغیرہ اس کے ذاتی افعال ہیں۔

ضعف جگر:

جب جگر کے افعال میں سستی آجائے تو اسے ضعف جگر کا نام دیں گے اطباء کرام کے نزدیک جگر کی چاروں یا کوئی ایک قوت مثلاً قوت ماسکہ، قوت دانعہ، قوت جاذبہ یا قوت ہاضمہ میں سستی یا خرابی سے ضعف جگر واقع ہو جاتا ہے۔

اسباب:

مباشرت اور شدید محنت و مشقت اور دھوپ میں زیادہ رہنے کے فوراً بعد پانی پی لینا، ٹھنڈے مشروب یا برف کا کثرت استعمال، مرطوب غذاؤں کی زیادتی، بندش حیض، سدہ جگر ورم، جگر تدرات و مسہلات کا کثرت استعمال وغیرہ ضعف جگر کے اسباب میں شامل ہے۔

علامات:

بدن کمزور، جسم کا رنگ سفیدی یا زردی مائل نیلگوں، بلغم کی کثرت، ہونٹ اور زبان کی رنگت سفیدی مائل، بدن میں سستی اور ڈھیلا پن، چہرے پر بھر بھراہٹ، پیشاب گاڑھا، نبض قدرے شرف اور عریض بعض اوقات نبض ست اور آہستہ چلتی ہے پاخانہ غسالی یعنی گوشت کے دھوں

کمرل کریں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: پستانوں کو دو وقت مل کر سینہ بند باندھ لیں۔
فائدہ: پستانوں کو چھوٹا گول اور سخت کرتا ہے بشرطیکہ عرصہ تک استعمال کریں۔

189- برسٹنگ آئل

عنایت: جناب حکیم حیات علی عطار صاحب بہاولپور۔
ہوالہ شافی: پوست درخت کیلا، پوست درخت انجیر، پوست درخت انار، ہر ایک ایک تولہ زرد چوب تین تولہ روغن گاد تین تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو روغن زرد میں جلا دیں اور فلٹر کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دن میں دو وقت نیم گرم مالش کریں اور بریزر چڑھالیں۔
فائدہ: چند دنوں میں پستانوں کو مثل شباب آور بنادے اور سخت بنا کر بڑھاپے کو جوانی کی صورت میں پیش کرے مجرب ہے۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

پس تقالی فارمولے پہلے حبث الحدید کو کڑھی میں ڈال کر شیر مدار ڈال دیں اور ہلکی ہلکی آنچ دیں
تذکیب تیاری: پہلے حبث الحدید کو کڑھی میں ڈال کر خشک کریں پھر سرکہ انگوری ڈال کر یکے بعد دیگر خشک
 کر کے خشک ہو جائے پھر دودھ کی لسی ڈال کر خشک کریں پھر سرکہ انگوری ڈال کر یکے بعد دیگر خشک
 کریں مگر دودھ کی لسی اور سرکہ انگوری تھوڑا تھوڑا ڈال کر خشک کرنا ہے پھر محفوظ رکھ لیں۔

تذکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی مکھن میں ملا کر کھلائیں۔
فائدہ: ضعف جگر کے لئے اہمول تھو جو مجرب ہے۔
 193- کشتہ قلعی

عنایت: جناب حکیم حبیب الرحمن صاحب لاہور
ہو الشافی: قلعی مصفی چار تولہ دودھی خورد کا نغہ ایک کلو۔
تذکیب تیاری: قلعی کے باریک پترے بنا کر دودھی خورد کے نغہ میں دے دیں یہ پترے
 الگ الگ رکھنے ہیں اور اوپر کاشن کے کپڑے کی پٹی آدھ کلو لپیٹ دیں اور گل حکمت کر دیں پھر
 پندرہ کلو اولیوں کی آگ دیں کشتہ تیار نکلے گا محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: ایک رتی مکھن میں رکھ کر نگل جائیں۔
فائدہ: ضعف جگر کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یرقان میں بے حد مفید ہے

194- اکسیر اعظم

عنایت: زبدۃ الحکماء حکیم تاج دین صاحب دھرمیہ شاہ پور
ہو الشافی: گندھک آملہ سار پانچ تولہ روغن زرد سو گرام دودھ گائے ایک کلو۔
تذکیب تیاری: گندھک آملہ سار کو آگ پر پکائیں پھر چھوٹا ججج دسی تھی ڈال دیں جب
 گندھک چرخ کھائے تو اٹھا کر ایک پاؤ دودھ میں ڈال دیں پھر نکال کر یہی عمل پھر دہرائیں
 ہر تین مرتبہ کے بعد دودھ پاؤ تبدیل کر لیں یہ عمل بارہ مرتبہ کریں اور محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی صبح نہار منہ مکھن میں رکھ کر کھائیے۔
فائدہ: مقوی معدہ و جگر ہے مصفی خون اعلیٰ درجہ کا ہے سرعت انزال کا مرض دور کرنے میں
 کامیاب ہے نیز دافع ریاح بھی ہے۔ اکسیر الاثر معمول مطب نسخہ ہے بنائیے اور دوا دیجئے۔

195- تریاق لیور

عنایت: جناب حکیم ہابورام صاحب حسن پور مراد آباد (ہند)
ہو الشافی: گل سرخ ایک تولہ زرشک لک مغول ہر ایک تین ماشہ تخم حمص پانچ ماشہ
 زعفران چار رتی کا نور ایک ماشہ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

پس تقالی فارمولے جیسا دغیرہ میثاب سرخ زردی یا سفیدی مال منہ کا ذائقہ قدرے تلخ خون قدرے کاڑھا
 دغیرہ دغیرہ۔

علاج: روح ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر استعمال کیجئے۔
 190- جگری مطبوخ

عنایت: جناب حکیم پیر سید مشتاق شاہ صاحب جہانیاں ملتان۔
ہو الشافی: بنشہ ککو ملٹھی، تخم کٹوت، سونف، بنج کاسنی، گاؤ زبان، بنج بادیاں، مویز، جن
 بادیاں خطائی ہر ایک چھ ماشہ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو اچھی طرح پاؤ پانی میں ابال لیں پھر گلقتہ ملا کر محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: روزانہ دو مرتبہ صبح و شام نوش فرمائیں۔
فائدہ: اس جو شامدے سے سدا خواہ جگر میں ہو یا ماساریقا میں ہو تحلیل ہو جاتا ہے سوائقیہ اور
 استقاء میں بھی جید الاثر ہے۔

191- معجون کبد

عنایت: جناب حکیم محمد ممتاز صاحب دہاڑی ملتان
ہو الشافی: پوست آملہ اٹھائیس ماشہ، پوست ہلیہ اٹھائیس ماشہ، پوست بلیہ چودہ ماشہ، قنفل
 سیاہ چودہ ماشہ، قنفل سفید چودہ ماشہ، ملٹھی چھن ماشہ، نمک سنگ سات ماشہ، طباشیر چودہ ماشہ،
 تاسفیت آف لائم چودہ ماشہ، روغن گاؤ سات تولہ، شہد خالص بارہ ماشہ، کوزہ مصری پندرہ تولہ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے روغن گاؤ میں چرب کریں پھر مصری کا قوام تیار
 کریں اور شہد ڈال کر باقی چرب شدہ پورڈر ملا کر معجون بنائیے۔
تذکیب استعمال: تین ماشہ صبح، تین ماشہ شام، ہمراہ شیر شتر جو شیدہ دیں۔
فائدہ: مولد خون ہے مقوی دل و دماغ جگر و معدہ ہے بھوک خوب لگاتی ہے مقوی باہ بھی ہے
 کسی حنفی سے کم نہیں۔

192- اکسیر جگر

عنایت: جناب حکیم غوث محی الدین صاحب حیدر آباد دکن (ہند)
ہو الشافی: حبث الحدید مصفی ایک پاؤ، شیر مدار ایک کلو گرام دودھ کی لسی پانچ کلو سرکہ انگوری
 دو کلو گرام۔

199- سفوف ریوندی

عنايت: جناب حکیم سراج الدین صاحب شادیوال، گجرات
هو الشافی: ریوند چینی حسب حاجت
ترکیب تیاری: اسے باریک پورڈر بنالیں۔
ترکیب استعمال: دو ماشہ پورڈر ایک تولہ گلقتد میں ملا کر عرق سونف کے ہمراہ لیجئے۔
فائدہ: ابتدائے استقاء اور ضعف جگر میں مفید الاثر کامیاب دوا ہے۔

200- سفوف احمر

عنايت: جناب حکیم وڈاکٹر عبدالاحد صاحب گوہر کنج بھوپال (ہند)
هو الشافی: تخم خرسہ چھ ماشہ، سمندر سوکھ، پگھان بید، صمغ عربی ایک ایک تولہ، کشتہ عقیق،
 کشتہ قلعی درہنگ تین تین ماشہ، کشتہ بیضہ مرغ، ہفت آتش در شیر مدار تین ماشہ، کشتہ فولاد
 در جان ایک ماشہ، کشتہ سنگ در با تھو تین ماشہ، کشتہ مرجان در مسک تین ماشہ، کالپی مصری ڈیڑھ
 تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: چار رتی مکھن میں لپیٹ کر نہار منہ نکل لیجئے۔
فائدہ: پرانے سے پرانا جریان و احتلام اور ذکات حس کو ختم کرتا ہے، جگر و مثانہ کو طاقتور بناتا
 اور خون کو صاف کرتا ہے نیز مادہ منویہ کی مقدار کو زیادہ بڑھاتا ہے پہلی خوراک ہی فائدہ دکھاتی
 ہے۔

201- عرق کیمیا

عنايت: زبدۃ الحکماء شاہین الاطباء جناب حکیم مرزا اختر حسین اختر صاحب کپورتھلا (ہند)
هو الشافی: راکھ برگ جھاؤ، چھ کلو برادہ آہن ایک پاؤ، میگنیشیا آدھ کلو، آب جامن دو کلو،
 آب پورینہ دو کلو، نوشادر سہاگہ، لوٹا جی، جوکھار پانچ پانچ تولہ، ہیرا کسب ایک تولہ، سبز کونین ایک
 تولہ، تیزاب گندھک ڈھائی تولہ، پانی خالص آٹھ کلو گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں ڈال کر خوب بند کر کے اچھی طرح ہلائیں۔ پھر بیس
 یوم کے لئے رکھ چھوڑیں پھر فلٹر کر کے بوتلوں میں بھر کر رکھ دیں۔
ترکیب استعمال: ایک ایک اونس دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
فائدہ: معدہ و جگر کو تقویت دینے میں سربلج الاثر ہے۔ ضعف جگر، سدہ جگر، ورم طحال، سولقینہ،
 استقاء اور یرقان میں نہایت ہی اکسیر ہے۔

شامس لقمائی فارمولے
ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں دو یا تین مرتبہ ہمراہ عرق کھو دیں۔
فائدہ: صفرا کی کثرت کو رکتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔

196- لیور ایکس ٹب

عنايت: زبدۃ الحکماء حکیم عنایت اللہ صاحب دریا سنج دہلی (ہند)
هو الشافی: برگ کوسبز، برگ سنبلالو، برگ کسوندی، سبز، مرج سیاہ ہر ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس لیں اور حب نخود تیار کر لیں۔
ترکیب استعمال: پہلے دن صبح نہار منہ ایک گولی ہمراہ آب تازہ دیں دوسرے دن دو
 گولی اسی طرح چودہ ویں دن چودہ گولیاں کھلا دیں پھر ایک ایک گولی کم کرتے ہوئے اٹھائیس
 روز کے بعد دوا کھانا موقوف فرمادیتے۔
فائدہ: ہر قسم کا استقاء خاک میں مل جائے ضعف جگر کا قلع قمع کر دینے میں سربلج الاثر ہے۔
پرهیز: موٹھ کی روٹی اور موٹھ اور موگ کی دال دیں۔

197- جگری

عنايت: جناب حکیم عبدالجید قریشی بھنگالہ ہوشیار پور (ہند)
هو الشافی: ریوند خطائی، نوشادر ایک ایک تولہ، قلمی شورہ دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر کر لیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: چار چار رتی صبح و شام ہمراہ آب خالص دیں۔
فائدہ: جگر کا شانی علاج ہے۔

198- اکسیری روغن

عنايت: جناب حکیم غلام علی شاہ صاحب چوہال گجرات۔
هو الشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، رتیاں سفید دو تولہ، مہو کڑی دو تولہ، شیر گاؤ دس کلو۔
ترکیب تیاری: پہلی تینوں ادویات کو نہایت باریک کر کے شیر گاؤ دس کلو ہلکی ہلکی آٹھ پر
 پکائیں جب دودھ آدھا حصہ رہ جائے پھر جغرات لگا دیں صبح مکھن حاصل کریں پھر کھی بنا کر
 محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح نہار منہ دو قطرے مکھن میں لپیٹ کر نکل جائیں۔
فائدہ: دافع جریان و احتلام، ضعف جگر اور ضعف معدہ و مثانہ وغیرہ کے لئے اکسیری دوا پیش
 نظر ہے۔

صد ہا بار کا آزمودہ اور مجرب الجرب بے خطا نسخہ ہے۔
 برہیز: ٹیبل اور دیر ہضم اتذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

202- تریاق کبد

عنایت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم اکبر علی صاحب 'جہلم'
 ہو الشافی: اجوائن دسکی آٹھ ماشہ ہلیلہ زرد دو تولہ لوہا چون ڈھائی تولہ آب سرسکی آٹھ

ترکیب تیاری: تمام ادویات سے آٹھ گنا زیادہ آب سرس میں ڈال کر اور مٹی کے
 منہ اچھی طرح بند کر کے گرم جگہ پر دن کر دیں بیس دن بعد نکال کر محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: چھ رتی دماغ عرق گلاب اور عرق سونف میں ڈال کر دن میں دو
 استعمال کریں۔
 فائدہ: ضعف جگر میں نہایت ہی مفید الاثر ہے خون پیدا کرتی ہے اور جسم کو مضبوط بناتی ہے۔

203- کشتہ چاندی

عنایت: جناب حکیم شیخ محمد امین صاحب سکندر آباد دکن (ہند)
 ہو الشافی: چاندی خالص ایک تولہ آب ستیاناسی ایک پاؤ اجوائن خراسانی ایک تولہ

دو تولہ بریم ڈنڈی کا تھوہ ایک پاؤ۔
 ترکیب تیاری: پہلے چاندی کو پھلائیں اور آب ستیاناسی میں بجھاوا دیں تقریباً ایکس مہینہ
 اجوائن خراسانی کو شیر مدار میں کھل کر دیں اور پترے پر لپ کر کے خشک کریں اور بریم
 کے تھوہ میں دے کر گل حکمت کیجئے خشک ہونے پر پندرہ گلو اوپلوں کی آگ دیں اور
 پر نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک چاول سے دو چاول ہمراہ مسکھ دیں۔
 فائدہ: جریان سرعت انزال احتلام میں جید الاثر ہے۔ دل و دماغ و جگر کو طاقتور بنا کر
 مزید برائیخیز کرتا ہے۔

204- لیورین

عنایت: زبدۃ الحکماء استاد الاطباء جناب حکیم کفایت علی قریشی بجنور۔
 ہو الشافی: نوشادر دو تولہ آسنخین ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے ڈیڑھ ماشہ ہمراہ آب تازہ یا نیم گرم۔
 فائدہ: ملب جگر و طحال سوائیہ، ضعف جگر وغیرہ میں نہایت جید الاثر ہے۔ نیز جگر کی

شمس لقمانی فارمولے
 تیار کرتی ہے۔

ورم جگر / ہیپاٹائٹس

اس مرض میں جگر میں ورم پیدا ہو کر افعال جگر کو متاثر کرتا ہے۔

اسباب:

عموماً سانپ کا زہر، سپٹو نین، ایٹوفان، سنکیا وغیرہ کا کثرت استعمال، شدید بخاروں مثلاً
 لیریا، کالا آزار، محرقة، پلگ، انفلوئنزہ، پچش، شدید آتشک، جگر کو چوٹ، شدت گرمی، شراب نوشی کی
 کثرت، گوشت و مصالحہ جات کا کثرت استعمال، تیز گرم ادویات کی بھرمار وغیرہ سے یہ مرض
 لاحق ہو جاتا ہے۔

اقسام:

- ورم جگر کی دو اقسام ہیں:
- (1) ورم جگر
 - (2) ورم غلاف جگر

علامات:

اگر ورم غلاف جگر میں تنہا ہو تو جگر کے مقام پر درد ہو گا سانس میں تنگی افعال جگر میں
 نقص ہو گا۔ اگر جگر میں ورم ہو تو بخار لازم ہوتا ہے جگر کے مقام پر دائیں جانب درد ہو گا سانس
 لینے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے ورم جگر اگر گہرا ہو تو قبض ہوتی ہے ہچکیاں آتی ہیں ہاتھ پاؤں
 ٹنڈے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی غشی ہو جاتی ہے۔ اگر ورم ابھرے حصے میں ہو تو سانس میں مشکل
 ہوگی کھانسی ہوگی بسا اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے۔
 اگر ورم دونوں جانب ہو تو علامات مشترک ہوں گی اور یہ قسم نہایت ہی شدید خطرناک

علاج:

درج ذیل نسخہ جات میں سے استعمال کیجئے۔

205- حب ورم

عنایت: جناب حکیم محمد یوسف خان صاحب 'سندری فیصل آباد'
 ہو الشافی: مہر ستوٹری، بزر لاج سفید، جو کھار، مصطلکی روی، فلفل سیاہ ہم وزن۔

اس میں لغتانی فارمولے

استسقاء لحمی:

یہ بھی استسقاء کی قسم ہے اس میں پانی پردوں میں جمع نہیں ہوتا بلکہ سیلز اور ٹشوز میں یعنی گوشت کے ذروں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خلیات وغیرہ پھول کر بڑھ جاتے ہیں یہ قسم خطرناک نہیں ہوتی۔

استسقاء طبعی:

یہ بھی استسقاء کی قسم ہے اس قسم میں نہ ہی پانی پردوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی خلیات پیٹ میں ہوتا ہے بلکہ ریاح ہوتی ہے یہ خلیات پیٹ میں رطوبت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اکثر رطوبت میں عمل تبخیر ہونے سے پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے پیٹ پھول کر ڈھول کی مانند ہو جاتا ہے اور ہاتھ مارنے سے ڈھول کی مانند آواز دیتا ہے۔

علاج:

درج ذیل نسخہ جات میں سے علاج کیجئے۔

207- اکسیر یرقان

عنایت: جناب حکیم شرف الدین صاحب شورکوٹ۔

ہوالشافی: پھلکودی سفید تین تولہ، گودہ بینگن دس تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک پیس کر نخودی خوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت بزوری دیں۔

فائدہ: یرقان میں نہایت مفید الاثر ہے مرض استسقاء کا خاتمہ کرنا اس کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔

پرهیز: تمام آکل والی اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

208- اکسیر استسقاء

عنایت: جناب حکیم قادر بخش صاحب لکھا حویلی پاکستان۔

ہوالشافی: سیماب گندھک آملہ ساز تر بد سفید کیلا نمک نلی ہر ایک ایک تولہ، چار تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے سیماب و گندھک کی کجلی بنالیں پھر دیگر ادویات کو نہایت باریک ملا لیں اور آب میکھوار سے خوب نخودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک حب دن میں تین مرتبہ ہمراہ عرق مکو دیں۔

فائدہ: مرض استسقاء کا قلع قمع کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔

اس میں لغتانی فارمولے

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو الگ الگ باریک کر کے عرق گلاب میں نخودی پیس کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی سے چار گولی نیم گرم پانی سے دن میں تین مرتبہ لیں۔

فائدہ: مفاسلی اور ام میں مفید ہے نیز ورم جگر و طحال کے لئے نہایت کامیاب ہے۔

206- جگرین

عنایت: جناب حکیم شرف علی صاحب نارنول پٹیالہ (ہند)۔

ہوالشافی: گل سرخ، قلع، سنبل الطیب، مصطکی رومی ہر ایک ایک تولہ، ریوند چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح، چھ ماشہ شام ہمراہ عرق بادیان استعمال کریں۔

فائدہ: جگر کی امراض میں نہایت مفید ہے۔

استسقاء

اس مرض میں جسم کے اعضاء میں کسی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا ہے۔

اقسام:

اس کی تین اقسام ہیں:

(1) استسقاء زتی

(2) استسقاء لحمی

(3) استسقاء طبعی

استسقاء زتی:

حقیقت میں یہی استسقاء ہے ایسے مریض کو پہلے پہل یرقان ہوتا ہے پھر تھوڑا

اور بعد میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ استسقاء زتی کے مریض کا پیٹ پھول کر نمک کا

پھولا ہوا اور کچھا ہوا ہوتا ہے۔ حرکت کرنے سے پانی چھلکتا ہے۔ یہ پانی صفاق اور رتبہ

کے درمیان ہوتا ہے چونکہ یہ خالص صفراوی رطوبت ہوتی ہے اسی لئے اس کا رنگ لردا

ہوتا ہے اور گرمی و خشکی کی انتہا کے باعث ہوتا ہے۔

استسقاء زتی خطرناک ہوتا ہے۔

209- تریاق استسقاء

96

عنايت: جناب حکيم محمد اسحاق صاحب جالندھر (ہند)

ہو الشافى: کيلا چھ ماشہ تر بد سفيد چھ ماشہ شیر تھوہر بقدر حاجت۔

ترکيب تيارى: دونوں دواؤں کو شیر تھوہر میں کھل کر لیں اور دانہ ماش برابرہ خوب کر لیجئے۔

ترکيب استعمال: ایک گولی روزانہ رات بہرہ عرق سونف، عرق گلاب اور عرق کلمہ تین تولہ دیں۔

فائدہ: انشاء اللہ عذوجل چند دنوں میں استسقاء زقی و لحمی نابود ہو کر کلی صحت ہو جاتی ہے۔

210- حب استسقاء

عنايت: جناب حکيم امرت لعل صاحب جنید (ہند)

ہو الشافى: دارچینی، مقل ہندی، جوزبوا، سعد کونی، خردل، زیرہ سفید ہر ایک برابرہ وزن بقدر ضرورت۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر شہد میں خوب تیار فرمایجئے۔

ترکيب استعمال: روزانہ صبح دوپہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ عرق مکو دیں۔

فائدہ: استسقاء میں مفید الاثر دوا ہے۔

211- اسرار استسقاء

عنايت: جناب حکيم شمس الدین صاحب دھنوت کبیر والا ملتان۔

ہو الشافى: سہاگہ بریاں، قلقل سیاہ، گندھک آملہ، سار، لک مغسول، جوکھار، پارہ، ہلہ، بلیلہ، آملہ، لوٹا کھار، نمک سیاہ، زخمیل، نمک لاہوری، نمک سانہر ہر ایک تین ماشہ، جما لگوں، دوا تولہ۔

ترکيب تيارى: پہلے گندھک و پارہ کی کچی بنا لیں پھر دیگر ادویات ڈال کر عرق لیوں، اکتالیس دن تک خوب کھل کر لیں اور دانہ مونگ برابر گولیوں کی شکل دے دیں۔

ترکيب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ شیر بکری شہد ملا دیں۔

فائدہ: صرف پانچ دن کے استعمال سے استسقاء جسم انسانی سے کوسوں دور کہ نظر نہ آئے، شرط یقین کامل۔

97

212- دافع استسقاء زقی

عنايت: جناب حکيم عبدالشکور قادری گڑھا موڑ ملتان

ہو الشافى: مرچ سرخ کے سبز پتے پچیس عدد، مرچ سیاہ گیارہ دانے، نوشادر ایک ماشہ، نمک بقدر ضرورت۔

ترکيب تيارى: تمام چیزوں کو سردائی کی مانند گھوٹیں اور چھان کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: یہ صرف ایک ٹائم کی خوراک ہے صبح و شام تازہ بنا کر پلائیں۔

فائدہ: استسقاء زقی میں اسم باسکی بدرجہ اولیٰ مفید الاثر ہے۔

213- تریاق استسقاء طبلی

عنايت: زبدۃ الحکماء استاد الحکماء جناب حکيم غلام مرتضیٰ قادری گلڈار باغ آزاد کشمیر

ہو الشافى: بلیلہ سبز تین تولہ، بلیلہ سیاہ تین تولہ، اجوائن تین تولہ، سونف تین تولہ، سونٹھ تین تولہ، جانفل تین تولہ۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: صبح و شام چھ ماشہ پورڈر ہمراہ پانی دیں۔

فائدہ: استسقاء طبلی میں نہایت اعلیٰ درجہ کی مفید دوا ہے۔

214- تریاق استسقاء لحمی

عنايت: جناب حکيم احمد دین صاحب، کورنگی کراچی

ہو الشافى: کیکر کا پوست دس تولہ، پانی دو کلو۔

ترکيب تيارى: چھلکے کے باریک باریک ٹکڑے کر کے پانی میں اچھی طرح پکالیں جب پانی سو گرام رہ جائے تو اتار کر آدھ پاؤ گائے کی چھاچھ ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: یہ ایک خوراک ہے اسی طرح روزانہ دن میں دو مرتبہ یعنی صبح و شام دیں۔

فائدہ: جسم کے کسی حصے میں سوجن ہو گلیاں ہوں یا استسقاء لحمی ہو تمام علامات کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینکنے میں کمال درجہ رکھتی ہے۔

پہنچ: گائے کی چھاچھ کے علاوہ کچھ نہ دیں۔

215- حیات رس

عنايت: جناب حکيم کمال الدین کمال، جالندھر (ہند)

226- ناقری

عنايت: جناب حکیم گورچین سنگھ صاحب فیروز والا (ہند)
ہو الشافی: اہلی دو تولہ پانی آدھا لیٹر ختم بلنگو چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: اہلی کو پانی میں بھگو کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: زلال اہلی سے چھ ماشہ ختم بلنگو مسلم کھائیں۔ یہ ایک خوراک ہے روزانہ

صبح و شام ایسی دو خوراکیں دیں۔
فائدہ: پندرہ یوم میں مرض تابود ہوگا۔ بارہا مرتبہ کا مجرب نسخہ ہے چند روز کے استعمال سے
ذائقہ میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے یرقان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے میں لاجواب ہے۔

227- کشتہ قلعی

عنايت: جناب حکیم محمد رمضان شاہ صاحب اسٹیشن دریام جھنگ
ہو الشافی: قلعی تین تولہ سیماب تین تولہ قلعی شورہ دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے قلعی کو پھلائیں اور سیماب اس میں ڈال دیں اور قلعی شورہ تھوڑا تھوڑا
ڈال کر خوب کھل کرتے جائیں جب تمام قلعی شورہ ختم ہو جائے تو اچھی طرح گل حکمت کر کے
بارہ گلو اولیوں کی آگ دیں مگر سکورے کے منہ پر کوئی پانچ گلو تک وزنی چیز ضرور رکھ دیں تاکہ
منہ نہ پھٹے۔ سرد ہونے پر نکال کر بہت سے پانی میں دھو دیں تاکہ قلعی شورہ کا ذائقہ اور تیزی ختم
ہو جائے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پانی ڈال کر رکھ دیں جب پانی نکل جائے تو پانی نکال
دیں اسی طرح پانچ چھ مرتبہ کریں اور خشک کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی مکھن میں رکھ کر صبح و شام دیں۔

فائدہ: یرقان میں نہایت مفید ہے جریان و احتلام ذکات حس جريان الرحم سوزاک وغیرہ میں
جید الاثر ہے۔

228- دوائے اصلی

عنايت: جناب حکیم امیر علی صاحب کبیر والا ملتان

ہو الشافی: لوہ چون ہلیہ زرد ہلیہ سیاہ آملہ ہلیہ ہر ایک ایک پاؤہ دہی گائے ترش ڈیڑھ گلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نیم کوفتہ کر کے دہی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں خشک ہونے
پر پورہ بنا کر محفوظ رکھیں اب اس میں تر کٹا ایک سو پچاس گرام ملا کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ ادھ رڈ کہ سے روزانہ ایک ٹائم دیں۔

فائدہ: سات دن کا استعمال ہی کافی ہے۔ یرقان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں نہایت ہی ترقی

223- پرویو

عنايت: حکیم جنکا ورام سنگھ پور ہشیار پور۔
ہو الشافی: اہلی کالی زیری چھ ماشہ قلعی شورہ ایک تولہ سہا کہ بریاں چھ ماشہ زلال
اہلی حسب ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے زلال اہلی سے گولیاں بنا لیجئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ عرق کاسنی دیں۔
فائدہ: نصف جگر و دم جگر بد ہضمی بدن کی زردی یرقان وغیرہ میں معجزہ نما اثرات کی حامل ہے۔

224- سفوف یرقان اسود

عنايت: حکیم ابن ایسا صاحب مکتومول پٹوالہ

ہو الشافی: ریوید خطائی ہلدی برابر وزن۔
ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو نیم کوفتہ کر کے نیم آج پر بریاں کر لیجئے۔ بعدہ باریک پورہ بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام چھ ماشہ ہمراہ شربت دینار تین تولہ عرق مکو بارہ تولہ دیں۔
فائدہ: یرقان سیاہ جس میں بدن آٹھکھیں ناخن وغیرہ سیاہ ہو جائیں نہایت ہی جید الاثر ہے۔

طغرہ

* پرانے یرقان میں پھلکوی کلفتہ ایک ماشہ دس تولہ دہی میں ملا کر نہار منہ کھائیں
دوسرے دن دو ماشہ اسی طرح ساتویں روز تک پانچ ماشہ کھلائیں اسی طرح کم کرنے
جائیں۔ یہ تیر بے خطا ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔

225- برائے یرقان اصفر

عنايت: جناب حکیم محمد یعقوب چشمی صاحب چک نمبر 379 گ ب ٹوبہ ٹیک سنگھ فیصل آباد۔
ہو الشافی: کانور ایک تولہ شب یرمانی خام ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو باریک کر کے شیشی میں ڈال کر غلہ جو میں چالیس یوم کے لئے رکھ
دیں بعدہ کام میں لائیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے تین رتی ہمراہ مکھن کھلائیں۔

فائدہ: پرانے سے پرانے یرقان میں جید الاثر ہے۔

232- دوائے جگری

پس تقانی فارمولے


جناب حکیم سید محمد تقی شاہ صاحب لوہد گڑھ امرتسر (ہند)

عنايت: جناب حکیم سید محمد تقی شاہ صاحب لوہد گڑھ امرتسر (ہند)
هو الشافى: پانچوں نمک، تربد سفید، ہللیہ سیاہ، قد سیاہ کہنہ، ہر ایک پچاس پچاس گرام اجوائن
دسی، کالی سبز، سہاگہ بریاں دو دو تولہ، نوشادر، کشتہ حبث الحدید، تین تین تولہ، گودہ حنظل حسب
ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک چین کر گودہ حنظل میں کھرل کر کے گولیاں
تھوڑی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین گولی صبح و شام ہمراہ عرق مکوکاسنی دس تولہ دس تولہ دن میں صبح و شام
دیں۔

فائدہ: جگر کے تمام امراض میں اکسیر لاثانی ہے۔



229- تریاق جنڈس

پس تقانی فارمولے
یا نہ لہو ہے۔

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن تلکد دیدار سنگھ گوجرانوالہ۔
هو الشافى: زہر مہرہ، خطائی سبز دس تولہ، عرق بید مشک و روح کیوڑہ ایک بوتل (150)
لیٹر۔

ترکیب تیاری: عرق میں سخن بلخ سیجے اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گرام ریوند چینی پانی میں ڈال کر آب اتار سے شیریں کر کے
ایک ماشہ دوا دن میں تین مرتبہ کھلائیں۔
فائدہ: سو فیصد کامیاب نسخہ ہے ایک ہفتہ کے اندر سخت سے سخت یرقان نیست و نابود ہو جاتا ہے۔

230- سفوف اعداد

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم ہرنس لال صاحب کام جالندھر (ہند)
هو الشافى: زیری سیاہ، اجوائن دسی، فلغل سیاہ، نمک سیاہ، ہللیہ زرد برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا لیجئے اور نگاہ رکھیے۔
ترکیب استعمال: دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد چھ چھ ماشہ ہمراہ عرق کوروز
دیں۔
فائدہ: ضعف، ہضم، تپ لرزہ، دلہنی تپ، یرقان، کثرت ریاح وغیرہ میں آزمودہ نوٹ ہے۔

231- کشتہ ایشٹ

عنايت: حکیم افلاطون زمانہ جدید جناب حکیم عبدالعزیز صاحب، فیصل آباد
هو الشافى: ایشٹ بزرے داغ پانچ تولہ، عرق گلاب دس تولہ، عرق گاؤ زبان پندرہ تولہ،
سرخ ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: پہلے ایشٹ کو گرم کر کے دونوں عرقوں میں تین تین مرتبہ بجھاوا دیں بعد
سرخ کے نقدہ میں دے کر بارہ کلو اوپلوں میں جھونک دیں۔ سرد ہونے پر باریک پس کر لیں
ہو جائیں۔
ترکیب استعمال: پانچ سو ملی گرام سے سات سو پچاس ملی گرام کے کپسول بھر کر روز
صبح و شام دودھ کے ساتھ دیں۔
فائدہ: ضعف قلب، خفقان، اختلاج قلب، یرقان وغیرہ میں خاص کشتہ ہے۔

جوڑوں کے امراض

جسم انسانی میں جوڑوں کا اہم کردار ہے اس کی دو اقسام ہیں ایک متحرک جوڑا اور ایک غیر متحرک جوڑا۔ جوڑوں کے درد کا نام مقامات کے لحاظ سے الگ الگ ہے چنانچہ اگر ہم جسمانی جوڑوں میں درد ہو تو وجع المفاصل سرین کے جوڑوں میں درد ہو تو عرق النساء کہنے کے درد وجع الرقبہ چھوٹے جوڑوں میں درد ہو تو نقرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اسباب:

بارش میں بھیگنے، سردی لگنے، سرد و بادی اشیاء کے کثرت استعمال، یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا، رطوبات بلغمیہ کے باعث، سوزاک و آتشک کے مادے کے باعث، نظام انہضام کے ہونے سے امراض رجم کے باعث وغیرہ وغیرہ۔

وجع المفاصل:

بڑے جوڑوں کے درد کو وجع المفاصل یا گنٹھیا کہتے ہیں۔

اسباب:

سرد و تر اشیاء یا سرد و خشک اشیاء کے کثرت استعمال سے وجع المفاصل ہو جاتا ہے، رطوبات بلغمیہ کے جوڑوں میں اجتماع کے باعث درد پیدا ہو جاتا ہے اور سخت درد محسوس ہوتا ہے، سوزاک و آتشک کے باعث بھی یہ مرض دامن گیر ہو جاتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے علاج کیجئے۔

233- روغن مالش

عنايت: جناب حکیم فرمان الہی، بمیرہ
ہو الشافی: لوگ، دارچینی، قسط شیریں، قسط تلخ، سرنجیاں تلخ، مالکینی، جاتنل، جلوتری، کلا، لوبان، کوڑیہ ہر ایک پچاس گرام، روغن کبجد ایک کلو۔
تذکب تیاری: تمام ادویات کو روغن کبجد میں ہلکی آٹھ پر جلادیں اور روغن کو فلٹر کر کے محفوظ رکھیں۔

تذکب استعمال: روزانہ رات متاثرہ مقام پر مالش کر کے روٹی بانٹھ دیں تاکہ ہوا نہ

گمے۔
فائدہ: پہلے دن ہی درد کا فور ہو جائے گا میں اسے بنا کر خوب استعمال کرتا ہوں اس کے ساتھ کمانے کے لئے بھی دوا دیں تو سونے پر سہاگہ ہے۔

234- پورڈر اکسیری

عنايت: جناب حکیم محمد انعام اللہ صاحب، خانوال ملتان
ہو الشافی: سورنجاں تلخ ایک تولہ، انٹی فیرین ایک تولہ، سوڈا اسلی سلاس تین تولہ، میٹھا تیلیہ تین

باش۔

تذکب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
تذکب استعمال: دورتی سے پانچ رتی ہمراہ شیر گرم تین مرتبہ روزانہ۔
فائدہ: جوڑوں کے دردوں میں نہایت مفید ہے کمر درد کو نافع ہے۔

235- آتشکی درد

عنايت: جناب حکیم محمد اشفاق صاحب، ڈھرکی سندھ
ہو الشافی: پوٹاشیم آیوڈائیڈ پینتالیس ملی گرام، ڈکاشن آف سارپیر پلا ایک اونس۔

تذکب تیاری: دونوں کو ملا کر محفوظ رکھیں۔
تذکب استعمال: یہ ایک خوراک ہے ایسی تین خوراکیں روزانہ دیں۔
فائدہ: جوڑوں کے دردوں میں اکسیر ہے۔

236- حب آرام

عنايت: زبدۃ الحکماء استاد الحکماء جناب حکیم وحید احمد عباسی صاحب، راولا کوٹ آزاد کشمیر
ہو الشافی: دانہ الاچھی کلاں، شکر کٹائی خورد، تخم دھتورہ، تخم حبل، تخم سویا، تالمکھانہ، سمندر سوکھ، کرس، ازرقی مدبر، گوگل، سوٹھ، فلفل دراز، فلفل اسود، عققرحہ، مویز منقی، تمام ادویات ہم وزن۔

تذکب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھل کریں اور خوب بخودی تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔

تذکب استعمال: بلغمی مزاج کے حامل کو لوگ و دارچینی کے قبوے کے ساتھ جب کہ مغزادی مزاج میں دودھ کے ساتھ روزانہ دو گولی صبح دو گولی شام دیں۔
فائدہ: ریاتی دردوں وجع المفاصل اور کمر درد وغیرہ میں لا جواب نسخہ ہے۔

عنايت: جناب حکیم محمد نعیم قادری صاحب سب بلوچستان۔
هو الشافی: بچھناک مدبر چھ تولہ شکر ف روی چھ تولہ مرچ سیاہ چھ تولہ انیون تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک و سیماہ کی کجلی تیار کریں اور دیگر ادویات کو ڈال کر اورک میں کھل کر کے خودی خوب بنالیں۔
فائدہ: ہر قسم کے درد خواہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہوں تیز چوٹ وغیرہ کے لئے بھی اکسیری فائدہ ہے نہایت آسان اور ہر مطب کی زینت ہونی چاہئے ایک قابل قدر تجارتی ذریعہ ہے۔

طغره

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد عزیز صاحب ہنگو بازار کوہاٹ
هو الشافی: انیون خالص ایک تولہ پوست بیخ مدار ایک تولہ فکمی شورہ آٹھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دورتی سے پانچ رتی ہمراہ دودھ پتی یا گرم پانی دیں صبح و شام دیں۔
فائدہ: نزلہ و زکام کھانسی ضیق النفس کے لئے آب حیات ہے ہر قسم کے درد معدہ میں بے عمل ہے۔ ذات الجنب اور ذات الریہ کے ادائل میں مفید ترین دوا ہے نیز وجع الفاصل میں زبانی ہے۔

240- سفوف حیات

عنايت: جناب حکیم محمد انور خان صاحب ڈرو میر پور سندھ
هو الشافی: سم الفار سفید دو تولہ آب کریلہ دس تولہ آب لہسن دس تولہ۔
ترکیب تیاری: سم الفار کو پہلے آب کریلہ میں خوب کھل کر پھر آب لہسن میں کھل کریں اور دانہ ماش برابر گولیاں تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک حب ہمراہ مکھن گائے بعد از ناشتہ مرغن صبح دیر مختلف امراض میں مناسب بدرقہ دیں۔
فائدہ: نامردی والی نامراد مرض سے چھٹکارہ پانے قوت باہ کو بڑھانے عصبی و بلغمی ادوجاع مفائل و نفرس و عرق التساتپ کہنے وغیرہ پر تجربہ شدہ ہے۔

241- کامیاب دوا

عنايت: جناب حکیم محمد انور خان صاحب ڈرو میر پور سندھ
هو الشافی: سم الفار سفید دو تولہ آب کریلہ دس تولہ آب لہسن دس تولہ۔
ترکیب تیاری: سم الفار کو پہلے آب کریلہ میں خوب کھل کر پھر آب لہسن میں کھل کریں اور دانہ ماش برابر گولیاں تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک حب ہمراہ مکھن گائے بعد از ناشتہ مرغن صبح دیر مختلف امراض میں مناسب بدرقہ دیں۔
فائدہ: نامردی والی نامراد مرض سے چھٹکارہ پانے قوت باہ کو بڑھانے عصبی و بلغمی ادوجاع مفائل و نفرس و عرق التساتپ کہنے وغیرہ پر تجربہ شدہ ہے۔

237- حب مفاصلی

عنايت: جناب حکیم محمد نعیم قادری صاحب سب بلوچستان۔
هو الشافی: بچھناک مدبر چھ تولہ شکر ف روی چھ تولہ مرچ سیاہ چھ تولہ انیون تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک و سیماہ کی کجلی تیار کریں اور دیگر ادویات کو ڈال کر اورک میں کھل کر کے خودی خوب بنالیں۔
فائدہ: وجع الفاصل عرق النساء وجع الورک وغیرہ میں استعمال کر کے قدرت کا تماشا ہے اس کے علاوہ دمہ اور کھانسی میں تریاق کا حکم رکھتی ہے ان کا ہر مطب میں تیار رہنا نہایت مفید ہے۔

238- حب نجتاور

عنايت: حکیم فیروز دین صاحب ادا کاڑہ۔
هو الشافی: سم الفار ایک ماشہ قد سیاہ کہنے ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر خوب کھل کریں اور قافل سیاہ برابر خوب تیار کر لیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام مکھن یا ملائی دیں۔
فائدہ: سات یوم کے استعمال سے انشاء اللہ عزوجل برسوں کا جڑا ہوا مریض صحت باہ درد کا فوراً ہو جائے گا۔ دوران استعمال گھی دیسی زیادہ استعمال کریں۔ وجع الفاصل وجع الورک عرق النساء میں بے حد مفید الاثر دوا ہے۔

239- اکسیری بام

عنايت: جناب حکیم محمد عمران عطاری کراچی۔
هو الشافی: روغن کنجد دو تولہ ازرائی ڈھائی تولہ موم پانچ تولہ روغن دارچینی ڈھائی تولہ ایک تولہ ست پودینہ چھ ماشہ ست اجوائن چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: پہلے تیل کنجد میں ازرائی کو جا کر فلٹر کر لیں پھر کانورست پودینہ آپس میں شیشے کی بوتل میں بند کر کے دھوپ میں رکھیں گے تو روغن ہو جائے گا پھر روغن روغن بھی کس کر دیں اب موم کو پگھلائیں اور روغن کنجد بھی ڈال دیں۔ جب موم اور روغن کس ہو جائے تو کڑھی نیچے اتار کر دیگر روغن بھی کس کر کے اور ایک جان کر لیں۔

242- حب شہنشاہی

عنايت: فخر الحکماء حکیم شیخ محمد سلطان صاحب بھپن مال مارواڑ کوہ آبو (ہند)۔

هو الشافى: سم الفار سفید کا جوہر ایک تولہ آب لہسن ڈھائی کلو زعفران عمدہ سردار ہاؤں اور ورق طلاؤ ورق نقرہ ہر ایک تین ماشہ۔

ترکيب تيارى: پہلے سم الفار کا جوہر ایک تولہ کو ایک کلو آب لہسن میں پکائیں پھر اس میں کلو آب لہسن کھل کر میں خشک ہونے پر تمام ادویات کو اس میں ڈال کر کھل کر میں اور ایک لہسن مزید کھل کر کے بخودی خوب تیار کر لیجئے۔

ترکيب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں دیں۔

فائدہ: قوت باہ اور دماغ میں قوت کے لئے بے نظیر تحفہ ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور ادجاج مفائل کے لئے اکسیر ہے مولد خون ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کی معشقی تیار ہے نیز آتشک و سوزاک میں بھی کارآمد ہے۔

243- حب گنٹھیا

عنايت: شاہین اطباء جناب حکیم عبدالقادر صاحب مومن خورد گورداسپور (ہند)۔

هو الشافى: تربد سفید جو کھار سوزنجاں شیریں، گوگل بھلیا، فلفل سیاہ ہر ایک برابر وزن منقی حسب ضرورت۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے مویز منقی میں گولیاں بخودی ہاندہ بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ دارچینی اور لوگ دیں۔

فائدہ: گنٹھیا کانت پشت مجرب نسخہ ہے برسوں کا درد دونوں میں ختم کر دیتا ہے۔ آزار پہ دعائیں دیجئے۔

244- اکسیر گنٹھیا

عنايت: جناب حکیم کشن لعل صاحب گنیزہ بجنور (ہند)۔

هو الشافى: لوگ جانفل، سوزنجاں شیریں، زنجبیل، مصطلی رومی، روغن سوسوں، کسٹریک کچھ آب کریلہ سب ایک ایک تولہ کا فور چھ ماشہ پٹرول ایک تولہ۔

ترکيب تيارى: پہلے انیون اور کافور کو دو تولہ پانی میں حل کر لیجئے اور کونٹے والی پورڈر بنا کر روغنیات میں ملا کر بریاں کر لیجئے اب دیگر چیزیں ڈال کر غلیظ مرہم بنا کر

رکھیں۔

ترکيب استعمال: جس جگہ درد ہو خوب مالش کر کے اوپر ارٹھ کا پتہ گرم کر کے اور اس پر روئی ہاندہ دیں۔

فائدہ: گنٹھیا ریجن ہاؤ درد کمر درد پیٹ وغیرہ کا ایک سو ایک فیصدی کامیاب اور ذاتی مجرب ہے چند دن لگانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

245- کشتہ شنگرفی مرکب

عنايت: جناب حکیم علی احمد صاحب بڑیلہ کجرات۔

هو الشافى: پھل موکڑی پختہ ڈیڑھ کلو شنگرف رومی پانچ تولہ سم الفار ایک تولہ۔

ترکيب تيارى: پہلے شنگرف اور سم الفار کو کھل کر کے ایک ٹکی بنا لیں خشک ہونے پر موکڑی کے ٹکڑے میں دے کر پانچ کلو اوپلوں کی آگ دیں پھر سرد ہونے پر احتیاط سے نکال کر خوب کھل کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: ایک رتی سے دو رتی ہمراہ مکھن و ملائی یا مویز منقی میں رکھ کر نگل جائیں اور سے کچھ دیر بعد پیاس لگنے پر کھی و شہد ملا دودھ پی لیں۔

فائدہ: تمام اقسام کے دردوں کو دور کرنے کے لئے یقینی دوا ہے۔

246- حب یقینی

عنايت: جناب حکیم ایم اے زیدی دہلوی، فیصل آباد

هو الشافى: شحم حنظل، ایلوہ، غازیقون، سوزنجاں شیریں، پوست لیلہ زرد سناسکی برابر وزن۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب کھیکھیا میں خوب بخودی تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: روزانہ تین دن تک چھ گولیاں پانی گرم کے ساتھ پھر دو گولیاں روزانہ تازہ پانی سے کھلائیں۔

فائدہ: یہ نسخہ درد کمر کے لئے یقینی اور دوسرے جوڑوں کے درد کے لئے عموماً مفید ہے۔

247- کشتہ ازراتی

عنايت: جناب حاجی حکیم محمد اصغر صاحب لودھیانہ (ہند)۔

هو الشافى: ازراتی ایک کلو آب کھیکھیا اور چار کلو آب اورک تین کلو۔

ترکيب تيارى: پہلے پہل ازراتی وغیرہ باریک کر کے کوشین سے پورڈر بنا لیجئے پھر پلاسٹک کے ب میں اس پورڈر کو ڈال کر آب کھیکھیا اور چار کلو ڈال کر روزانہ ہلاتے رہیں خشک ہونے پر

آب اورک تین کلو ڈال کر خشک کریں بعدہ پورڈر بنا کر محفوظ رکھیے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے ڈیڑھ رتی پورڈر کپسول میں بند کر کے صبح و شام ہر ایک

گاؤ شہد ملا کھلائیں۔

فائدہ: لغو ریشہ قانچ، تلخ، وجع المفاصل، ضعف باہ، ضعف اعصاب دمہ، عرق التماس اور

خصوصیت سے جید الاثر دوا ہے۔

نوٹ: پتہ بالکل نہ نکالیں، حقیقتاً اسی میں شفاء ہے۔

(تخریج شدہ مصنف حکیم محمد عبدالوجید صاحب)

248- حب درو

عنايت: جناب حکیم مقبول احمد صاحب، فیصل آباد

هو الشافى: پوست ہلیہ زرد، سورنجاں شیریں، سورنجاں تلخ، قنفل سیاہ، قنفل دراز،

اسند ناگوری، ازرائی مدہ ہر ایک ایک تولہ، برگ سناکی مصفی دو تولہ، مویز منقہ نو تولہ، کوزہ

سٹیا، کشتہ گاؤ دتی ایک ایک تولہ، گوگل بھنسیا ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور کشتہ جات شامل کر کے مویز منقہ میں

نخودی بنا کر محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی دن میں تین وقت ہمراہ آب گرم یا شیر گرم

دیں۔
فائدہ: وجع المفاصل، عرق التماس، نقرس و وجع الورک میں خصوصیت سے فائدہ مند ہے۔

(تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوجید صاحب)

249- دوائے خاص

عنايت: جناب حکیم فضل الہی، جھنگ

هو الشافى: سم القار چھ ماشہ، ثمر پختہ کٹائی دو عدد، عرق لیموں پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو عرق لیموں میں خوب کھرل کیجئے اور دانہ ہارو ہارو

بنالیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی دہی دسی و شد پانچ تولہ دودھ میں ملا کر دیں۔

فائدہ: تقویت باہ اور اساک کے لئے لاجواب جب کہ وجع المفاصل کے لئے بے شمار

سات دن تک کا استعمال نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔

250- تریاق وجع المفاصل

عنايت: جناب حکیم نور احمد صاحب گوالیار (ہند)۔

هو الشافى: پوست بیخ آکسن چھ تولہ، کشتہ شاخ گوزن در شیر مدار، زنجبیل قنفل گرد ہر ایک

ایک تولہ، سودا سلی سلاس دو تولہ، سوڈیم بائیکارب تین تولہ، ریوند خطائی ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھیے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک ماشہ ہمارہ آب تازہ دن میں تین مرتبہ دیں۔

فائدہ: ہر قسم کی دردیں ختم کرنے میں اسم باسکی ہے۔

نوٹ: اگر مرض آتشک میں گنٹھیا ہو جائے تو نہایت فائدہ مند ہے۔

251- تریاق الاوجاع

عنايت: جناب حکیم عبدالخالق صاحب کلنجر ہزارہ۔

هو الشافى: گندھک آملہ ساز، سیماب، میٹھا تیلیہ ایک ایک تولہ، قنفل سیاہ، قنفل دراز، زنجبیل

ہر ایک آٹھ تولہ، آب اورک ایک کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے سیماب و گندھک کی کجلی بنا لیجئے پھر دیگر ادویات نہایت باریک کر دو

کس کر کے آب اورک ایک کلو میں خوب کھرل کر کے خوب نخودی بنا کر محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام یا تین وقت ہمراہ آب گرم دیں یا مناسب بدرقہ

دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کا درد خواہ نزلہ و زکام سے ہو یا کسی اور وجہ سے وجع المفاصل، عرق التماس، درد گردہ

ذات الجنب، ذات الریہ، درد قونج، وجع الورک وغیرہ میں جید الاثر مجرب الجرب لاثانی دوا ہے۔

نوٹ: لپ بھی کر سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔

252- شنگرف پلز

عنايت: زبدۃ الحکماء شاہین اطباء جناب حکیم تاج الدین صاحب راجو خانانی حیدرآباد سندھ۔

هو الشافى: شنگرف رومی، جانفل، بیر بہولی ہر ایک ایک تولہ، قنفل اسود دو تولہ، لوگ، الاچھی

کلاں دارچینی، جلوتری، ہر ایک چھ ماشہ، زعفران ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے قنفل سیاہ و شنگرف رومی کو خوب کھرل کر کے پھر دیگر ادویات داخل کر کے

شنگرف بنا لیجئے اور محفوظ رکھیے۔

ترکیب استعمال: چار چاول تک مکھن یا منقہ میں پیٹ کر کھلائیں وجع المفاصل کے لئے

ہب لقمہ سے کھلائیں۔

پیش تقانی فارمولے
فائدہ: آتشک اور گنٹھیا کے لئے نہایت مفید الاثر ہے مزید سوداوی امراض میں مفید ہے۔
پہنچ: دال ارہر میں روغن زرد خوب ڈال کر استعمال کریں اس کے علاوہ دیگر اغذیہ بند کر دیجئے۔

256- حب آتشک

عنایت: جناب حکیم کوڑا رام صاحب مظفر گڑھ۔
ہوالشافی: معمر زرد رپوند چینی رسکپور ہم وزن آب حنظل حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات خوب کھریں کیجئے پھر آب حنظل میں کھریں کیجئے اور خوب بخودی تیار کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح، ایک گولی شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کیجئے۔
فائدہ: آتشک میں خصوصیت سے مفید ہے زخم کو بھرنے کے ساتھ ساتھ آتشکی عوارض میں خصوصیت سے نافع ہے اعلیٰ درجہ کی قبض کشا ہے اور جوڑوں کے دردوں میں مجرب ہے۔

257- پین آف

عنایت: جناب حکیم سید محمد طالب صاحب زید پور بارہ بنکی (ہند)۔
ہوالشافی: لائیکہ آرسینک پندرہ بوند پوٹاشیم آیوڈم چار گرین اسپرکلوروفارم پندرہ پونڈ سار پیر پلا ایکسرواکٹ تین اونس لائیکرم کیوری پندرہ بوند ڈسٹلڈ واٹر سولہ اونس۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات ملا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک اونس دن میں تین بار پیئیں۔
فائدہ: آتشک میں مفید الاثر ہے وجع المفاصل میں سریع الاثر ہے ہزار ہا مرتبہ کا آرمودہ مجرب نسخہ ہے۔
پہنچ: گوشت و تیل وغیرہ کی اشیاء نہ کھائیے۔

258- حب وجع المفاصل

عنایت: جناب حکیم عبدالرحیم صاحب ہلی بہیت (ہند)۔
ہوالشافی: لوگ، جانفل، جلوتری، ازراقی مدبر دارچینی ہر ایک ایک تولہ زعفران تین ماشہ رقیقہ ایک تولہ عرق ادراک حسب ضرورت، فلفل سیاہ و سوٹھ دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو پورڈر بنا کر عرق ادراک میں خوب کھریں کیجئے اور بخودی خوب بخودی تیار کر کے محفوظ رکھ لیجئے۔

پیش تقانی فارمولے
فائدہ: بے حد مقوی باہ اور مسک ہے وجع المفاصل لقوہ فاج میں جید الاثر ہے۔
کشتہ شگرف -253

عنایت: جناب حکیم علی احمد صاحب شکار پور سندھ
ہوالشافی: شگرف روئی، مغز ارٹھ، آدھا کلو بھلانوہ، آدھا کلو شہد خالص پاؤں روغن ادراک پاؤں پیاز پاؤں لہسن پاؤں تل سیاہ، آدھا کلو روغن سرشف پاؤں۔
ترکیب تیاری: مغز ارٹھ، بھلانوہ، تل سیاہ، ادراک اور پیاز کو کوٹ کر مکس کر کے نقد روغن کے درمیان شگرف کی پچاس پچاس گرام کی دو ڈلیاں رکھ دیں اور کڑا ہی آگ پر پتھر پان روغن زرد اور شہد اور روغن سرشف ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر اٹھائیں گھنٹے دیں سرد ہونے سے شگرف نکال لیجئے اور روغن کیوڑہ میں کھریں کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک چاول سے تین چاول روزانہ ایک خوراک ہمراہ کھیں باج رکھ کر دیں۔

فائدہ: تقویت باہ، آتشک، گنٹھیا میں جید الاثر ہے ایک خوراک سے بارہ بارہ کھوٹا ہو جاتا ہے تجربہ شدہ ہے۔ (تحریر شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

254- حب اوجاع

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان۔
ہوالشافی: ستارہ زنجبیل، اسکند ناگوری، مصر، سورنجاں شیریں، چھلکا ہلیہ کاٹا ہر ایک تولہ، گھیگھو، ارکارس تین تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب گھیگھو، ار میں کھریں کر کے خوب تیار کر کے محفوظ فرما لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی دن میں تین مرتبہ کھلائیں۔
فائدہ: ہر قسم کے درد خواہ وجع المفاصل ہو یا عرق میں لاثانی دوا ہے کوڑیوں کی دوا کے فوائد کی حامل ہے ہنائیں اور فوائد سے مطب کو زینت بخشیں۔

255- حب کافوری

عنایت: جناب حکیم سید افضل حسن گیلانی صاحب بوہڑ والا ملتان کینٹ۔
ہوالشافی: کافور رسکپور کھتہ، موصلی سفید ہر ایک ایک تولہ، عرق پان ستر گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق پان میں خوب کھریں کر کے خوب بخودی تیار کر کے محفوظ رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیکھ
فائدہ: وجع الفاصل میں خصوصیت سے فائدہ مند ہے مقوی باہ و مسک بھی ہے۔

259- حب مفاصل

عنايت: جناب حکیم محمد سعید اللہ خان صاحب مدراس (ہند)۔
ہو الشافی: قنفل سیاہ، قنفل دراز، گندھک آملہ ساڑھ سباب، شکر ف، سہاگہ مسر، لہسہ،
 بیش پڑتال درقہ ہم وزن آب سہاجنہ حسب ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات نہایت باریک کر کے آب سہاجنہ میں خوب کھل کر لیں
 بخوردی خوب تیار کر کے محفوظ رکھیے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ روغن زرد میں پانچ تولہ دیں۔

فائدہ: عرق النساء، وجع الفاصل، نقرس، لقوہ، فالج، نزله و زکام وغیرہ میں اکسیر الشفاء ہے
پرہیز: تمام تیل والی اور کھٹی اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

260- حب درو

عنايت: جناب حکیم ملک سنگھ صاحب کھنہ لودھیانہ (ہند)۔

ہو الشافی: مسر، درتولہ، سقمونیا ولائیتی چھ ماشہ ریوند عصارہ دس تولہ آب حنظل میں دراز
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے پھر آب حنظل میں کھل کر کے دراز
 برابر خوب تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی ہمراہ آب گرم دیں۔
فائدہ: یورک ایسڈ کو خارج کر کے دردوں کو سکون عطا کرتا ہے۔

261- درو آکل

عنايت: جناب حکیم حاکم سنگھ ملکہ ہانسی ساہیوال۔

ہو الشافی: آب برگ دھتورہ، آب گگردندہ سبز، آب برگ سنبھالو سبز، آب برگ
 اشعلب سبز ہر ایک پچاس گرام روغن اسی ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام پانیوں کو روغن میں ملا کر ہلکی آنچ پر رکھیں جب پانی جل جائے تو
 فلٹر کر لیجئے اور محفوظ رکھیے۔

ترکیب استعمال: رات روزانہ نیم گرم مالش کر کے روئی باندھ دیا کریں۔
فائدہ: وجع الورک و نقرس درد کمر وغیرہ میں مفید الاثر ہے۔

262- حب سرخ

عنايت: جناب حکیم عبدالصمد صاحب لاکھنؤ بھنڈارہ (ہند)۔
ہو الشافی: بیش مدبر، سہاگہ، قنفل دراز، قنفل سیاہ، شکر ف برابر وزن آب لیموں حسب
 ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب لیموں میں خوب کھل کیجئے اور خوب قنفل سیاہ برابر
 بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی صبح، ایک شام ہمراہ آب نیم گرم دیں۔
فائدہ: وجع الفاصل، عرق النساء، نقرس، درد کمر میں خاص اکسیری نسخہ ہے بنا کر دعائیں دیجئے۔

263- دوائے مفاصلی

عنايت: جناب حکیم محمد سعید مبارک صاحب بنگلور (ہند)۔

ہو الشافی: سہاگہ سیاہ، سرنجاں شیریں، پوست ہلیہ زرد، مصطلکی روئی، سائکی، ازراقی مدبر، قنفل
 سیاہ، زنجبیل، مویز متقی برابر وزن آب اردک حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے آب اردک میں خوب کھل کر کے بخوردی
 گولیاں تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی نیم گرم دودھ کے ہمراہ دیں۔
فائدہ: وجع الفاصل، اعصابی دردیں، عرق النساء، وجع الرکہ وغیرہ میں بھروسہ کا نسخہ ہے۔
 (ترخ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)۔

264- کشتہ سنکھیا

عنايت: جناب حکیم جشول صاحب شکار پور سندھ۔

ہو الشافی: سم الفار دودھی، ایک تولہ شیر مدار ایک کلو۔
ترکیب تیاری: سم الفار کو ایک تولے پر رکھ کر ایک ایک قطرہ شیر مدار ڈالتے جائیں نیچے ہلکی
 آنچ ہونی چاہئے حتی کہ ایک کلو شیر مدار ختم ہو جائے کشتہ تیار ہے۔
ترکیب استعمال: روزانہ ایک وقت ایک خشخاش کے دانے برابر کھن میں پیٹ کر
 کلا دیں۔

فائدہ: وجع الفاصل، منشیہ، عرق النساء میں تجربہ شدہ ہے اس کے علاوہ دمہ، کھانسی، بلغمی اور
 نصف باہ کو ختم کرنے میں اکسیر صفت ہے۔

265- حب سرنجاں

عنایت: جناب حکیم سید عبدالرحیم قادری صاحب امچھر شریف گیا (ہند)۔
ہو الشافی: سورنجاں شیریں، معبر، زنجبیل، فلفل سیاہ، سناکی، تربد سفید، مصطلی روئی، ستونہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادرک میں خوب کھل کر کے بخودی حبیب تیار کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح و شام دو دو گولی ہمراہ نیم گرم دودھ دیں۔
فائدہ: وجع المفاصل کے دردوں میں تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

پرہیز: ترش و بادی اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

266- سفوف اکبر

عنایت: جناب زبدۃ الحکماء جناب حکیم رحیم بخش نواب گنج بریلی (ہند)۔
ہو الشافی: لیسرین، سوڈا سلی سلاس، سوڈیم بائیکارب، کشتہ بارہ سنگھا، ازراق مدد

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین رتی سے پانچ رتی دن میں تین مرتبہ کھلائیں بچوں کو عمر کے شہد میں ملا کر چٹائیں۔

فائدہ: وجع المفاصل، عرق النساء، نقرس اور دیگر عصبی دردوں اور امراض بارہ میں مفید ہے۔ نمونیا میں تجربہ شدہ ہے۔ (تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)
نوٹ: کمزور مریضوں کو ہرگز نہ دیں۔

267- دوائے لاثانی

عنایت: جناب حکیم حافظ محمد سردار بخش صاحب موجیوال جھنگ۔

ہو الشافی: برادہ بارہ سنگھا تین تولہ، صدف کلاں، قلمی شورہ، نوشادر، شکرکرم، سم الفار سفید، تیلیہ ہر ایک چھ ماشہ، آب بنج آک، شیر مدار، آب لہسن، کھیکھیو، ارکارس ہر ایک پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کریں اور نمکیہ بنا کر گل حکمت کر کے دس گولہ کی آگ میں سرد ہونے پر نگاہ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح و شام تین رتی عرق گاؤ زبان کے ہمراہ دیں۔
فائدہ: وجع المفاصل، نقرس، ذات الجنب کے لئے تیر بہدف ہے۔

268- حب ازراقی

عنایت: جناب حکیم قاضی خورشید حسن صاحب پانی پت کرنال (ہند)۔
ہو الشافی: ازراقی مدبر چار تولہ، ارزق چار تولہ، قد سیاہ کہنہ آٹھ تولہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو ہاون دستہ میں خوب کوئیں پھر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ مناسب بدرقہ سے دیں۔
فائدہ: وجع المفاصل اور دیگر دردوں میں اکسیر صفت دوا ہے۔

لنگڑی کا درد

انگریزی نام	اُردو نام	طبی نام
شیائیکا Seiatica	لنگڑی کا درد / ریگن باؤ	عرق النساء

تعارف: یہ درد عموماً سرین کے بیچ سے شروع ہو کر ٹانگ کے بیرونی رخ پاؤں کے انگوٹھے تک جاتا ہے کبھی گھٹنے تک ہی موقوف ہوتا ہے۔

نساء ایک رگ ہے اور درد بھی اسی مقام پر ہوتا ہے اس لئے اطباء کرام اسے عرق النساء سے مہوم کرتے ہیں البتہ یہ درد رگ میں نہیں ہوتا بلکہ پیڑو کے عقب سے شروع ہوتا ہے یہ ایک عصبی درد ہے اسی لئے ڈاکٹری میں شیائیکا نرو کہتے ہیں۔

اسباب:

اگر درد دائیں طرف کی ٹانگ میں ہو تو یہ کثرت جماع، کثرت شراب نوشی، قوت باہ کو بلامانے والی ادویات مثلاً پارہ، شکرکرم، سم الفار وغیرہ چٹ پٹے مصالح دار غذا میں مثلاً کباب، بئے گوشت، انڈے وغیرہ میں یا سوداوی مادہ کی کثرت سخت قبض وغیرہ وغیرہ۔

اور اگر درد بائیں طرف ہو تو کثرت بول و پاخانے کی بار بار حاجت سرد و مرطوب بلکہ پر زیادہ بیٹھنا حرام مغز یا پشت کے مہروں پر چوٹ وغیرہ لگنا وجع المفاصل بلغمی وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ اکثر یہ امراض گردوں کی ناقص کارکردگی کے باعث ہوتے ہیں۔

علامات:

یہ درد سرین سے بیرونی جانب ٹانگ میں ہوتا ہوا انگوٹھے تک آتا ہے درد کبھی تھوڑا اور

ہمس لسانی فارمولے
فائدہ: ہر قسم کے درد خواہ کہیں ہو مثلاً رینگن، درد کمر، درد سر وغیرہ میں جید الاثر ہے۔

272- دوائے شفا

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب کنڈیاں
ہو الشافی: بیضہ مرغ ایک عدد روغن زرد شکر سفید دودھی خشخاش ہر ایک دو تولہ۔
ترکیب تیاری: سب کو ملا کر قدرے گرم کر کے رکھیں۔
ترکیب استعمال: قدرے نیم گرم مریض کو پلا دیں یہ ایک خوراک ہے ایسی دو خوراک روزانہ دیں۔
فائدہ: عرق النساء، درد نقرس اور تقویت باہ میں لاجواب دوا ہے۔

273- تریاق درد

عنایت: جناب حکیم نور علی صاحب پٹیالہ (ہند)
ہو الشافی: جدوار خطائی، ہڑتال درقیہ، سیماب، گندھک آملہ ساڑ ہر ایک چھ ماشہ، بیش مدبر ایک تولہ، عرق بھنگڑہ ڈیڑھ پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے عرق بھنگڑا میں کھل کر لیں اور دانہ موگ برابر جوہ تیار کریں۔
ترکیب استعمال: روزانہ دو وقت ایک سے دو گولی ہمراہ جوشاندہ زنجبیل دیں۔
فائدہ: رعشہ، عرق النساء، وجع المفاصل، نقرس میں بے مثال نسخہ ہے۔

274- اکسیر سنذر

عنایت: جناب حکیم سنذر سنگھ صاحب چک نمبر 38 ج سرگودھا۔
ہو الشافی: سم الفار سفید پانچ ماشہ، نمک شیشہ پانچ تولہ، شیر مدار پچاس گرام، قفل سیاہ قفل دراز، حتم کرفس، اجوائن خراسانی تین تین تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلی تین دوا ڈال کر خوب کھل کریں اور نکیہ بنا کر خشک کر کے سکورہ میں ڈال کر گل حکمت کر کے دو کلو اوپلوں کی آگ دیں پھر نکال کر دیگر ادویات کا پورڈر کس کر کے آب لیوں میں بارہ گھنٹے کھل کر کے بخود تیار کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ آب تازہ دن میں دو مرتبہ دیں۔
فائدہ: ہر قسم کے دروں خصوصاً عرق النساء میں اکسیر اعظم ہے اور ریاحی امراض میں کثیر افوائد کی حامل دوا ہے۔

ہمس لسانی فارمولے
کبھی شدید ہو جاتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا اور عموماً دروں سے ہوتا ہے یہ درد کبھی دروں میں تو کبھی بائیں بائیں میں ہوتا ہے دونوں کی تشخیص و علاج الگ الگ ہے مثلاً دائیں طرف ہونے والا درد کثرت سوزا کے باعث جب کہ بائیں طرف ہونے والا درد گرمی تری کی ہے ہوتا ہے اسی لئے ان کی رعایت رکھتے ہوئے علاج ہی شفا کا باعث بنتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے علاج فرمائیے۔

269- اکسیر اعظم

عنایت: جناب حکیم چندر راجی صاحب بنگلور (ہند)
ہو الشافی: ازرائی مدبر ریوند چینی، قفل دراز، قفل سیاہ ہر ایک تین تولہ، گودہ گودہ کبوتر، جب ضرورت۔
ترکیب تیاری: ہر ایک کو باریک کرنے کے بعد ملا کر گودہ گھسیکھو اور میں خوب کھل کر لیں۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ آب گرم یا چائے دیں۔
فائدہ: عرق النساء میں اسم باسکی ہے۔ (تخرج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

270- دوائے ہند

عنایت: جناب حکیم سید سراج الدولہ صاحب لکھنؤ (ہند)
ہو الشافی: مبر ستوٹری ایک تولہ، پوست بلیلہ زرد ایک تولہ، سناکی ایک تولہ، سورنجان تین ایک تولہ، معطلی رومی ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ نو ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق ککو و سونف بارہ تولہ دیں۔
فائدہ: عرق النساء میں اکسیر صفت دوا ہے۔

271- دوائے صفی

عنایت: جناب حکیم شیخ عبداللطیف صاحب فیروز پور (ہند)۔
ہو الشافی: بھنگڑی سفید، لوبان کوڈیہ، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: دونوں کو خوب باریک کر کے پانچ سو ملی گرام کپسول فل کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک کپسول دن میں تین مرتبہ ہمراہ دودھ شہد ملا کر کھلائیں۔

نقرس

انگریزی نام	لبنی نام	اُردو نام
گاؤٹ Gout	نقرس	چھوٹے جوڑوں کا درد

تعارف:

اس مرض میں بیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ ماؤف اور سوج جاتے ہیں اکثر یہ مرض پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً اس کا دورہ پانچ دنوں تک رہتا ہے علامات کے لحاظ سے اس کی دو اقسام ہیں:

(1) ایکوٹ حاد

(2) کرائک مزمن

اسباب:

عموماً یورک ایسڈ کی زیادتی سے ہوتا ہے ضعف گردہ اس کے اسباب میں سے ہیں میں عشرت کی زندگی گزارنے والے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔

علامات:

اکثر دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں آدھی رات کے وقت شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے اور معمولی سردی سے بخار بھی ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد پیڑ آ کر بخار اتر جاتا ہے صبح جوڑ متورم اور سرخی مائل ہوتے ہیں اور درد کی وجہ سے چھوٹے سے تکلیف ہوتی ہے یہ مرض دیگر جوڑوں تک بھی پھیل جاتا ہے اور جوڑ بد وضع ہو جاتے ہیں اور ان پر گٹھیس پڑ جاتی ہیں کبھی چمڑا پھٹ جاتا ہے اور جلد اچھے نہیں ہوتے۔

نوٹ: اس مرض کو گٹھیا اور جوڑوں کا پتھرا جانا سے تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے علاج فرمائیے۔

275- دافع نقرس

عنايت: جناب حکیم محمد آصف قادری، کوٹ لکھپت لاہور

هو الشافى: چھوہارے سات عدد افیون تین ماشہ ہنگ پانچ ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے افیون اور ہنگ کو خوب کوٹ لیں اور پھر چھوہارے کی گٹھلیاں نکال کر

اس میں بھر دیں اور اوپر آٹا لپیٹ کر بھوبھل میں دبا دیں جب آٹا سرخ ہو جائے تو نکال کر ہتھوڑے سے ایک سو ایک زوردار چوٹ لگائیں اور نخودی حبوب تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح، ایک شام ہمراہ شیر گاؤ شہد ملا دیں۔

فائدہ: نقرس کے لئے سو فیصد لاجواب دوا ہے صبح کے بعد مسہل دے کر اسکا استعمال سونے پر ہاگہ ہے۔ سرعت انزال اور ضعف باہ میں بھی اکیسری فوائد کا حامل نسخہ ہے۔

276- تریاق نقرس

عنايت: جناب حکیم شمس الدین صاحب، اکال گڑھ گوجرانوالہ

هو الشافى: برگ شاکی دو تولہ، تربد سفید دو تولہ، غاریقون، مغز بل، پوست ہلیہ زرد، ہلیہ سیاہ، زیرہ سیاہ، زنجبیل، خربق سفید، نمک لاہوری ہر ایک ایک پاؤ، سورنجاں شیریں تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھیئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ سے نو ماشہ صبح نہار منہ ہمراہ آب تازہ دیں۔

فائدہ: عرق النساء اور نقرس میں خصوصیت سے فائدہ مند ہے۔

277- اکیسیر نامور

عنايت: جناب حکیم عبدالشکور صاحب، کیمبل پور (ہند)

هو الشافى: سم الفار سفید ایک تولہ، آب کریلہ سبز دس تولہ، آب لہسن دس تولہ۔

ترکیب تیاری: سم الفار کو دونوں پانیوں میں خوب کھرل کر کے دانہ ماش برابر گولیاں تیار کیجئے اور محفوظ رکھیئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی کھانے کے بعد ہمراہ کھن میں لپیٹ کر دیں اور بعد میں شیر گاؤ اور روغن زرد کثرت سے استعمال کریں۔

فائدہ: نقرس وجع المفاصل، عرق النساء کے لئے تیر بہدف ہے حتی کہ قوت باہ میں زبردست افزائہ کرتی ہے۔

278- روغن نقرس

عنايت: جناب حکیم عبدالحمید خان صاحب، سنگھوتی جہلم۔

هو الشافى: لونگ، دارچینی، رتن جوت، مال کنگنی، جانقل، قسط، تلخ، سورنجاں تلخ، ہر ایک ایک تولہ، روغن کنجد آدھا کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے روغن کنجد میں ملا کر قدرے گرم کریں اور محفوظ رکھیں۔

شام تقانی فارمولے
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک ماشہ ہمراہ آب تازہ یا گرم دودھ
 دیں۔
فائدہ: ذات الجذب، وجع المفاصل، عرق النساء، نزلہ و زکام، کھانسی، بلغمی بخار وغیرہ میں جید الاثر
 مفید رہا ہے۔

282- خب سہانجنہ

عنایت: جناب حکیم عبدالرحمن صاحب رانی پورہ اندور (ہند)
ہوالشافی: ہینگ ہیرا ایک تولہ زنجبیل ایک تولہ سوہانجنہ کا تیل حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو پیس کر سوہانجنہ میں کھل کر کے خوب بخود تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: دو سے چار گولیاں صبح شام ہمراہ شیر گاؤ روغن زرد ملا دیں۔
فائدہ: معمول مطب ہے ہر قسم کے دردوں میں نہایت ہی مفید الاثر نسخہ ہے مثلاً عرق النساء،
 کشمیا، وجع الرقبہ، وجع الورک وغیرہ میں مستعمل ہے۔

283- حب اوجاع

عنایت: جناب حکیم محمد حسین صاحب چوک حضرت شرف الدین بوعلی قلندر پانی پت (ہند)
ہوالشافی: ازرائی مدبر کشتہ فولاد ہر ایک پانچ تولہ، فلفل سیاہ زعفران کشمیری ہر ایک ایک
 تولہ سلاجیت خالص چار تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھل کر کے بخود تیار کر کے
 محفوظ فرما لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر سبز استعمال کروائیں۔
فائدہ: ہر قسم کی دردوں میں کمال درجہ ہے مستند نسخہ ہے نیز ضعف باہ میں بھی بے نظیر ہے زیادہ
 تریف فضول ہے بنا کر خود نظارہ کر لیجئے۔

امراض پشت کے نسخے

284- اکسیر کاربنکل

عنایت: جناب حکیم محمد تقی شاہ صاحب، ججوبستی (ہند)
ہوالشافی: ارہر کی تازہ پتی، نمک لاہوری دونوں برابر وزن، ارہر کی پتی، کھتہ سفید۔

شام تقانی فارمولے
ترکیب استعمال: روزانہ قدرے نیم گرم اچھی طرح ہلا کر متاثرہ مقام پر ماش کر لیں اور
 روٹی ہاندہ دیں۔
فائدہ: ایسا درد جو قابل برداشت ہو ایسی حالت میں اکسیر کا کام دیتا ہے۔ (تخریج شدہ حکیم
 محمد عبدالوحید عطاری)۔

279- اکسیر ذات الجذب

عنایت: جناب حکیم عبدالجید صاحب سدہ کبوسہ شاہ پور۔
ہوالشافی: سنگہ سالم کلزا ایک پاؤ، اسپند آدھا پاؤ، ہاتھ سوٹھی ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: اسپند کو پورڈر بنا کر ہاتھی سوٹھی میں ملا کر پیس کر نغدہ بنا کر سنگہ کو درمیان
 میں رکھ کر گل حکمت کریں اور پیس کلو اوپلوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال کر پیس کر محفوظ
 رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ ہمراہ شہد کھلائیں یا مناسب بدرقہ دیں مارگزیدہ کے لئے ہمراہ
 دہلی گھی دیں۔
فائدہ: ذات الجذب، ذات الریہ، مارگزیدہ، سنگ گزیدہ کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔
 (تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

280- اکسیر الاوجاع

عنایت: جناب حکیم عبدالرحیم صاحب گجرات۔
ہوالشافی: بیخ مدار، قلمی شورہ، سوڈا سلی سلاس، اسپرین، کشتہ بارہ سنگھا ہر ایک چار تولہ، لادن
 ازرائی مدبر، سورنجاں شیریں ہر ایک ایک تولہ، بیٹھا تیلیہ، چھ ماشہ، چینی پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام چار چار رتی ہمراہ نیم گرم پانی دیں۔
فائدہ: ہر قسم کے دردوں کے لئے تریاق ہے خاص صدری اسراری نسخہ ہے بنا کر خوب کائی
 اور خوب نیکیاں لوٹئے۔ ذات الجذب، وجع المفاصل، درد کمر وغیرہ نیز نزلہ و زکام کے لئے مجرب
 ہے۔

281- اکسیری تریاق درد

عنایت: جناب حکیم فضل حق صاحب پشاور۔
ہوالشافی: ازرائی مدبر پانچ تولہ، فلفل سیاہ، فلفل دراز، زنجبیل، سہاگہ، دارچینی ہر ایک ایک

حلق کے امراض

باب 8:

حلق یا گلا اس خلا کو کہتے ہیں جہاں سے غذا کی نالی شروع ہوتی ہے اور ہوا کی نالی بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب کہ آلہ آواز یعنی نخرہ یا حجرہ زبان کی جڑ کے نیچے غذا کی نالی کے سامنے والے حصے کو کہتے ہیں نخرہ کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک کڑی ہوتی ہے جو ذکاتِ خمس میں کھڑی ہو جاتی ہے جب کہ غذا نکلنے کے وقت ہوا کے سوراخ کو بند کر دیتی ہے۔ لوزئین دو گینڈے ہوتے ہیں جو حلق کے دونوں جانب تالو کے سامنے واقع ہوتے ہیں ان کی شکل پیٹنی ہوتی ہے۔

خناق

تعارف:

ایسا مرض ہے جس میں سانس لیتا، غذا یا کوئی چیز نکلنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ ورمِ حلق اور متعلقاتِ حلق میں پیدا ہو کر اذیت کا باعث بنتا ہے۔

اسباب:

حلق کی سوزش، کوا گرنا، نزلہ و زکام، جسم میں صفرا کی کثرت، گردوغبار وغیرہ یا کسی خراش دار چیز کا حلق میں چلا جانا وغیرہ اسباب میں شامل ہیں۔

علامات:

حلق میں خشکی اور کھر کھاہٹ محسوس ہونا، لرزہ سے بخار خفیف ہونا، گلے میں درد اور گرائی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز حلق میں انگی ہوئی ہے لعاب دہن نکلنے میں مشکل پیش آتا ہے منہ کا ذائقہ تیز کڑوا، بے چینی وغیرہ۔

علاج:

درج ذیل مہربات میں سے علاج کیجئے۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ہار یک پس کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: پتلی سی پتلی بنا کر توڑے پر نیم گرم کر کے دونوں وقت اور پر رکھیں جب بہت خارج ہونے لگے تو نمبر 2 ملا کر رکھیں۔
فائدہ: کاربنکل جو قلب کے مقام کے مقابل پشت پر ہوتا ہے اور دیکھنے میں نظر نہیں آتا اس کے لئے مجرب نسخہ ہے متعدد بار کا آزمودہ مجرب ہے۔

سفوف محمود
285-

عنایت: جناب حکیم تاج محمود صاحب لالیالیاں جھنگ
هو الشافی: بولہ، حتم او شگن، حتم کوچ، کرس، ثعلب مصری، موجرس، صمغ عربی، صمغ
 ہالکھانہ، حتم سروانی، حتم، موصلی سفید، آرد حب القطن، زنجبیل ہر ایک ایک تولہ، روغن زردی، تولہ
 کوزہ مصری دس تولہ، کشتہ قلعی ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو سوائے کشتہ قلعی اور کوزہ مصری کے روغن زردی میں بریاں کر لیں
 پھر کوزہ مصری و کشتہ قلعی ملا دیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیں۔
فائدہ: احتلام، سرعت انزال، کردرد اور ضعف اعضائے رئیسہ کے لئے معمول مطب ہے پڑ
 قوی باد ہے۔

286- تریاق اوجاع

عنایت: جناب حکیم باسط علی صاحب محلہ گڑھیاں حکیمان آگرہ (ہند)۔
هو الشافی: سوزنجاں شیریں، کشیز خشک ہر ایک دو تولہ، اپس پائیرین ایک تولہ، ایشی قاز،
 پانچ ماشہ، کیلین سائٹراس سات ماشہ، نبات سفید چھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور نگاہ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح، دوپہر، شام دو ماشہ سے تین ماشہ ہمراہ نیم گرم دودھ دیں۔
فائدہ: ہر قسم کے دردوں میں مفید الاثر ہے مثلاً درد کمر، درد عصبی، درد سینہ، درد سر وغیرہ معمول
 مطب تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

289- شفائی حقہ

عنايت: جناب حکیم عبدالخالق صاحب مچھلی کانچ برہانپور (ہند)۔

هو الشافى: مغز نیم ایک تولہ حقہ ایک عدد۔

ترکیب تیاری: مغز نیم کو چلم میں رکھ کر حقہ تیار کر لیجئے۔

فائدہ: تمام قاسد رطوبات خارج ہو کر چند مرتبہ میں شفا کلی حاصل ہو جائے گی۔

کوا گرنا

(Elongation of the Uvula)

تعارف:

اس مرض میں کوا ڈھیلا ہو کر لنگ جاتا ہے۔

اسباب:

بادی وترش چیزیں کھانے پینے سے کبھی بلغم کی کثرت کے باعث حلق کا کوا ڈھیلا ہو کر لنگ جاتا ہے حلق کی پرانی سوزش وجع المفاصل وغیرہ کا مادہ جسم میں بکثرت ہونا، بچوں میں سخت گرمی اور سخت سردی سے کوا لنگ جاتا ہے۔

علامات:

عموماً کوا لمبا اور ڈھیلا ہو کر خراش پیدا ہوتی ہے بار بار خشک کھانسی بھی آتی ہے اور عموماً بول کر زیادہ ہوتی ہے کہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کبھی کھانسی کی شدت سے متلی اور تے بھی ہو جاتی ہے بھوک بند ہو جاتی ہے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے بغیر کسی ظاہری مرض کے مریض کزور سے کزور تر ہوتا جاتا ہے اور اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے جسے عموماً دق سمجھا جاتا ہے جو غلطی ہے۔

نوٹ: گلے کی تمام امراض میں کوا کا معائنہ لازم کریں۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

287- کشتہ مار

عنايت: جناب حکیم محمد بشیر احمد صاحب چک نمبر 507 گ، فیصل آباد

هو الشافى: ایک سیاہ مردہ سانپ جو نیچے اوپر سے کالا سیاہ ہو۔

ترکیب تیاری: اس سانپ کو گل حکمت کر کے بیس کلو ادلیوں کی آگ دیں اور سرد ہونے تک کال کر باریک کر کے محفوظ رکھیں۔

فائدہ: تمام قاسد رطوبات خارج ہو کر چند مرتبہ میں شفا کلی حاصل ہو جائے گی۔

نوٹ: اس سانپ کو چھ چھ پاؤں یا شہد ملا کر چٹائیں نیز اس کا لپ بھی کیا جاسکتا ہے جو صرف گلٹیوں کے لئے ہے۔

ترکیب استعمال: صرف ایک رتی منہ میں ڈال کر اوپر سے ماء العسل چار یا چھ چھ پاؤں سے خنق خواہ کتنا ہی مہلک کیوں نہ ہو نابود ہو جائے گا ہر قسم کی گلٹیاں اور اورام تحلیل ہو جائیں گے مرض طاعون کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔

288- اکسیر خنق

عنايت: جناب حکیم دلپذیر صاحب راولپنڈی

هو الشافى: پوست ریٹھا ایک تولہ پانی 250 ملی لیٹر۔

ترکیب تیاری: دونوں کو آپس میں ملا کر گرم کریں۔

ترکیب استعمال: اگر مریض بالکل بے ہوش ہو تو مریض کے منہ میں دوا ڈال کر سر ہلکے اور ہلانے اور نہ یہ دوا منہ میں ڈال کر غرارے کرائیں۔

فائدہ: اس دوا کے استعمال سے الحمد للہ عزوجل بے ہوش مریض بھی فوراً ہوش میں آ جاتا ہے جس کے حلق سے پانی جیسی تکی چیز نہ گزرے فوراً دودھ یا کوئی سیال غذا کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔

نوٹ: قریب المرگ مریض شفایاب ہوئے ہر جگہ کامیابی کا لوہا منوایا یہ نسخہ نہیں بلکہ لوگ اپنے غیب کی کرامت جانتے ہیں۔ ایک گھونٹ دوا منہ میں ڈالتے ہی جڑے سمیت حلق بھی کھل جاتا ہے۔

شروع ہو جاتا ہے مریض کے منہ سے بافراط لیس دار رطوبت نکل کر آرام آ جاتا ہے۔

نوٹ: مرض کی حالت میں ریٹھا کڑوا نہیں لگتا۔

طغره

* الماس کے غرارے معمولی خنق کا خاتمہ کرنے میں مفید ہے۔

طغره

آئرن گلیسرین پھریری سے لگا کر کوا پر دو تین مرتبہ لگائیں یہ بھی تجربہ شدہ ہے۔

آواز کا بیٹھ جانا

انگریزی نام	طبی نام	اُردو نام
Efonia	بحرۃ الصوت	آواز کا بیٹھ جانا

تقریب مرض: اس مرض میں مریض کی آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے۔

اسباب: نزله و زکام، حجرہ کی ساخت میں خرابی، سردی لگنا، جز کا درم زیادہ چھنا، دھویں میں رہنا، گردوغبار وغیرہ زہریلے مادے وغیرہ سرمہ و سیندور کھالینا، مرض دق کے آخری درجے میں بھی آواز بیٹھ جاتی ہے۔

علامات: اس مرض میں آواز نکلنا بالکل دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو معمولی آواز نکلتی ہے اور مریض کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ادھورہ سمجھتا ہے آنکھیں کھول کھول کر دیکھتا ہے۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

294- اکسیر کرشمہ

عنايت: جناب حکیم محمد سلیم صاحب سرگودھا۔

ہوالشافی: شب یمانی پانچ تولہ شیر مدار پندرہ تولہ آب دھتورہ مردق دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے شب یمانی کو شیر مدار پھر آب دھتورہ میں بتدریج خوب کھل کیجئے اور گہ بنا کر خشک کر کے گل حکمت کر کے دس کلو ادپوں کی آگ میں سرد ہونے پر نکال کر نگاہ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی نیم گرم حلوے میں رکھ کر نگلوادیں۔

290- نسخہ لاہوری

عنايت: حکیم مفتی سلیم اللہ خان صاحب لاہوری، فیصل آباد
ہوالشافی: پھلکوی بریاں، مازو، قنفل سیاہ، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: انگلی سے کوئے پر لگا کر اوپر اٹھادیں۔
فائدہ: کوا کرنے میں بے حد مفید ہے کھانسی جالی رہتی ہے۔

291- گلیسرین پلز

عنايت: جناب حکیم محمد سلیم صاحب لکھنؤ ہند۔
ہوالشافی: پتھر فرانی، پرکلورائیڈ تیس بوند، روغن پودینہ پانچ بوند، گلیسرین ایک اونس۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو چوڑے منہ والی بوتل میں ڈال کر حل کر کے محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: روئی کا پھایہ تھڑ کر ٹیوزر سے کوئے پر لپ کریں۔
فائدہ: حلق سے بکثرت رطوبت خارج ہو کر کوا ٹھہ کر اصلی حالت پر آجائے گا۔

292- اکسیری دوا

عنايت: حکیم غلام حسین قادری خان پور سندھ۔
ہوالشافی: گل سرخ، مازو، گل سپاری، کاٹھ سپاری، گلنار، سماق، دانہ شب یمانی، سہاگہ، وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک چنگی چھوٹے چچ میں رکھ کر کوئے کے نیچے سے اوپر اٹھائیں۔
فائدہ: منٹوں میں فائدہ دینے والی اکسیری دوا ہے۔

293- شفاقی غرغره

عنايت: جناب حکیم محمد شفیق ٹھٹھہ ملتان۔
ہوالشافی: پھلکوی، مازو، سبز، گلنار، سہاگہ، گل سپاری، ہر ایک تین ماشہ، پانی 3/4 کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں جوش دے کر سنبھال رکھیں۔
ترکیب استعمال: نیم گرم کے غرارے کیجئے۔
فائدہ: چند دنہ کے استعمال سے کوا اپنی اصلی حالت پر آجائے گا۔

اسباب: عموماً ایسے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے خون میں پوٹاشیم یا آئیوڈین کی کمی واقع ہو جائے جب کہ فولاد کے مرکبات زیادہ ہو جائیں۔ رسولیاں بھی سرد و تر مزاج کی حامل ہوتی ہیں اسی لئے گلہڑ رسولی کی طرح ہی ہوتا ہے۔

علامات: یہ گلٹیاں گردن کے ارد گرد اور بغل میں پیدا ہو جاتی ہیں یہ گلٹیاں گوشت سے جڑی ہوتی ہیں اور انگلی سے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتی یہی اس مرض کی خاص علامت ہے ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے اگر گلٹیاں پک کر پھوٹ جائیں تو رفتہ رفتہ مواد ٹپکتا رہتا ہے۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

296- حب شانی

عنايت: جناب حکیم سلیم اللہ خان ڈوگر پانی پت (ہند)

ہوالہ شافی: شکر ف ایک تولہ، خولنجاں تین تولہ، باجی تین تولہ، رائی تین تولہ، رسکپور چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ قبوہ اجوائن کھلائیں۔

فائدہ: مرض کٹھ مالا یعنی گلہڑ نابود ہو جائے گا مقوی باہ بھی ہے جسم میں حرارت بکثرت پیدا کرتا ہے۔

297- مرہم کٹھ مالا

عنايت: جناب حکیم خلیق الزمان قادری صاحب ساہیوال۔

ہوالہ شافی: قنفل سیاہ ایک تولہ، طوطیا اخضر ایک تولہ، برگ حنا ایک تولہ، مکھن دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی تینوں ادویات کو نہایت اچھی طرح پورڈر بنا لیجئے اور مکھن میں ملا کر مرہم بنا کر نگاہ رکھئے۔

ترکیب استعمال: مقام مرض پر ہر روز لپ کیجئے اور پٹی کر لیجئے۔

فائدہ: چند روز ہی میں گلٹیاں نیست و نابود ہو جائیں گی۔

شام لقمائی فارمولے
فائدہ: دوسری حد تیسری خوراک سے آواز کھل جائے گی اگر نزلہ ہو تو پہلے نزلہ کا علاج ضروری ہے۔

295- لحن داودی

عنايت: جناب حکیم مظفر قادری صاحب پانی پت (ہند)

ہوالہ شافی: جوہر لوبان خانہ ساز، کبابہ زعفران، قرفنل، دارچینی، ملٹھی، جڑ پان، قنفل، ہر ایک تین ماشہ، سفز چلفوزہ چھ سو عدد، کوزہ مصری چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر پان کے رس میں خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی منہ میں رکھ کر چوسیں۔

فائدہ: یہ خوب زیادہ بولنے والے وکیلوں، بیرسٹروں، قاریوں، مبلغین، علماء عقلاً، لیکچرارز پر فائدہ شاعر، ایکٹو طالب علم و سکر وغیرہ کے لئے تحفہ الماس ہے۔ گلے کی خراش رکاوٹ نزلہ وغیرہ ختم کر کے آواز کوئل کی مانند تیز اور سریلی ہو جاتی ہے کہ جس کے کان سے نکرائے وہاں ہی کھڑا ہو جائے۔

طغری

* تہاغ کا گل پانی میں پیٹ کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔

* سیندر سب ہو تو نمک تمباکو بقدر دو چاول پان میں رکھ کر کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔
غضب کا طغری ہے۔

کٹھ مالا

اردو نام	طبی نام	انگریزی نام
گلہڑ	غر	براٹکوسیل

تعارف:

ٹھوڑی کے نیچے گردن پر زرخہ کے ارد گرد ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے جو بعض مریضوں میں معمولی اور بعض میں زیادہ اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹھوڑی سینے پر نہیں لگتی بلکہ جھکتی ہی نہیں زیادہ بڑا ہو جانے سے اسکا بوجھ زرخہ پر پڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔

298- اکسیر خنازیر

عنايت: جناب حکیم منظور حسین سنیا سی صاحب لکھنؤ (ہند)

ہوالشافی: سم الفار سفید چھ ماشہ جلوتری چھ ماشہ جائفل تین ماشہ مرچ سیاہ پانچ تولہ برگ آک حسب ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو برگ آک میں خوب کھرل کر لیجئے اور خوب وازہ مسور بنا لیجئے

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ مکھن میں پیٹ کر کھا لیجئے پیاس لگنے پر نیم گرم دودھ پی لیا کریں۔

فائدہ: خنازیر کو ختم کر کے گردن کو اصلی حالت پر لاتی ہے آہستہ آہستہ جسم میں طاقت کا پہاڑ پیدا کرتی ہے۔

299- روغن کچنال

عنايت: جناب حکیم کریم بخش نوشاہی گجرات۔

ہوالشافی: کچنال کا چھلکا دو کلو پانی گیارہ کلو تیل بنولہ دو کلو برگ کچنال آدھا کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے پوست کچنال کو خوب پکائیں کہ پانی تین کلو تک رہ جائے پھر اس کو اچھی طرح پن چھان کر روغن بنولہ ڈال دیں اور برگ کچنال کی خوب چٹنی سی بنا کر بھی ڈال کر نرم آنچ پر پکائیں جب چٹنی جل جائے پانی جل جائے تیل فلٹر کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک تولہ صبح ایک تولہ شام دودھ میں ڈال کر پلائیں اگر گلٹیاں پھوٹ جائیں تو یہی تیل لگانا شروع کر دیں۔

فائدہ: بیس یوم میں کٹھ مالا کو نابود کر دیتا ہے لاجواب دوا ہے۔



حمیات

تعریف مرض:

جب اعضاء ریشہ میں سے کسی عضو کے فعل میں بگاڑ پیدا ہو کر حرارت غریبہ پیدا ہو جائے تو اسے بخار کا نام دیتے ہیں جو حالت صحت 98.5°F سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اعضاء ریشہ کے لحاظ سے بخاروں کی تین بڑی اقسام ہیں:

(1) مفرادی بخار

(2) سودادی بخار

(3) پلغی بخار

مزید تقسیم کرنے پر مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے چند مزید اقسام بھی بن جاتی ہیں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے معروف اقسام بیان کئے دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے۔

اخلاط کی حالتیں

ہر خلط کی تین صورتیں ہوتی ہیں جیسے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ مادہ ہے مگر اس کی تین باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً پانی کبھی بھاپ کبھی مائع یعنی سیال اور کبھی ٹھوس برف کی صورت میں ہوتا ہے۔ کبھی خلط گیس کی صورت اختیار کر کے روح کہلاتی ہے کبھی مائع حالت میں اخلاط کہلاتی ہے کبھی ٹھوس حالت میں اعضاء کے اندر صلابت کا درجہ رکھتی ہے پتھریاں اور اماس و تہج وغیرہ یہ تین حالتیں قاضل مواد کے رکنے کی مختلف شکلیں ہیں جو اعضاء ریشہ کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہیں۔

بخار کی مدت کا انحصار مادہ کی مقدار پر ہوتا ہے مثلاً مادہ جس قدر لطیف ہوگا جلد متعفن ہوگا اور جلد اخراج پا کر شفا کا باعث بنے گا مثلاً ایک روزہ بخار مزید سمجھئے کہ جب مادہ گیس کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ جلد کیفیات میں تبدیل ہونے کے قابل ہوتا ہے یا نفسیاتی جذبات سے ہلکا ہوا جاتا ہے لہذا بخاروں کی لطیف اقسام کیفیاتی و نفسیاتی ہوتی ہیں۔

کیفیاتی و نفسیاتی جذبات کے باعث اس کی بے شمار اقسام ہیں چند ایک درج ہیں:

حمی غصہ	حمی فکر	حمی اہتمام	حمی
حمی درد	حمی تھکاوٹ	حمی خوف	گنہگار

حمی بدہضمی

حمی پیاس

حمی بھوک

حمی سدے وغیرہ

حمی اسہال و پچش

حمی نزلہ و زکام

جراثیم اور چھوت دار بخار کی حقیقت

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جب تک اعضاء رئیسہ میں سے کسی عضو میں کمزوری یا خراب واقع نہ ہو اس وقت تک نہ بدن کے کسی حصے میں کوئی مادہ رکتا ہے اور نہ ہی مادہ متعفن ہوتا ہے اور نہ ہی تب (بخار) ہوتا ہے۔ جب کسی عضو کی کمزوری کے باعث کوئی مادہ رکتا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے جو زہر ہوتا ہے خیر و تعفن کے فوراً بعد وہاں نہایت باریک باریک کیڑے (جراثیم) پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس متاثرہ حصے کو خوردبین سے بغور دیکھیں تو مخصوص شکل کے کیڑے (جراثیم) نظر آئیں گے اور یہی متعفن مادہ یا کیڑے جب کسی تندرست شخص کو لگ جاتے ہیں یا تندرست شخص کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں تو تندرست شخص کو بھی بیماری کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص تو اس متعفن مادہ سے بیمار نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ ہر شخص کی انفرادی حیثیت ہوتی ہے انفرادی ترکیب ہوتی ہے اعضاء رئیسہ اور متعلقہ اعضاء جس قدر طاقتور صحت مند ہوں گے اتنی ہی قوت مدافعت ہوگی جو بیماری لگنے نہیں دیتی کیونکہ کوئی بھی متعفن مادہ جب کسی غریب بدن میں جاتا ہے تو پہلے پہل وہ اعضاء رئیسہ کو متاثر کرتا ہے اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہاں کوئی بیماری پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ جو مزاج اخلاط کا ہوگا وہی مزاج متعفن مادہ سے پیدا ہونے والے جراثیم کا ہوگا۔

حمیات اخلاط و یوم

تعریف مرض:

کیفیات و نفسیات و روحانی کے باعث پیدا ہونے والے بخار کو حمی یوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اسباب:

جس قدر اسباب اس قدر اقسام ہوتی ہیں مثلاً غم کا بخار، اہتمام کا بخار، فکر کا بخار، خوف کا بخار، ڈر کا بخار، نزلہ و زکام کا بخار، نیند و آرام کا بخار، پیاس اور بھوک کا بخار، بدہضمی کا بخار، چوٹ کا بخار، درد کا بخار، پچش کا بخار، سدوں کے باعث بخار، تھکاوٹ کا بخار وغیرہ۔

علامات:

اسباب کے مطابق علامات کا اظہار ہوتا ہے عموماً ایک دو روز میں ختم ہو جاتے ہیں با

شہس لقمانی فارمولے

وقت چھ گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں اس کی حرارت برابر ہی رہتی ہے شام کا بخار آرام کی صورت میں صبح اتر ہی جاتا ہے مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

300- سفوف حمی

منہایت: جناب حکیم وڈاکٹر ظفر علی خان صاحب، بنوں کوہاٹ
ہوالشافی: سکونافیری فینوج کونین سلفاس، طباشیر برابر وزن۔

ترکیب تیاری: سب کو پورڈر بنا کر نگاہ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ رتی سے آٹھ رتی گرم پانی یا چائے وغیرہ سے دن میں تین وقت کلائیں۔

فائدہ: بخار کی باری فوراً رک جائے گی موسی بخار کے علاوہ ہر قسم کے بخاروں میں مفید الاثر ناس دوا ہے۔

301- حب حمی

منہایت: جناب ڈاکٹر آر۔ این بالچندانی صاحب شکار پور سندھ۔
ہوالشافی: کونین ایک تولہ، ست گلو ایک تولہ، صمغ عربی دو تولہ، طباشیر دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دانہ مونگ برابر جوہ بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح، دوپہر، شام ہمراہ آب تازہ یا چائے دیں۔

فائدہ: موسی بخاروں میں مفید ہے جب کہ ملیریا بخاروں میں خصوصیت سے فائدہ مند ہے۔

302- اکسیر لرزہ

منہایت: جناب حکیم عبدالوہاب انصاری صاحب حیدرآباد دکن (ہند)۔

ہوالشافی: مندل سرخ دو تولہ، لونگ چار ماشہ، معطر قرحا تین ماشہ، پہلا مول چار ماشہ، دارچینی نین ماشہ، پہلی چار ماشہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے ایک ماشہ ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: تپ لرزہ کثرت پسینہ کمزوری و درد پر سوت میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔

306- شانی ڈراپ

عنايت: جناب حکيم مياں احمد صابر صاحب گڑھی اسماعیل پشاور۔

هو الشافى: گندھک آملہ سار زعفران تین تین ماشہ کاربالک ایسڈ ست پودینہ ست سفید ہر ایک تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: چھ پیمز ہر ایک دو دو تولہ۔

ترکیب استعمال: دو دو ہفتوں کے لئے سنبھال رکھئے بعد زرد رنگ کا زلال حاصل کر کے محفوظ رکھئے۔

فائدہ: صفائی بخار و غیرہ میں اسم

نکبت استعمال: اندرونی طور پر تین قطرے تک چینی یا مصری پر ڈال کر کھلائیں بیرونی طور پر پاش کیجئے۔

نتیجہ: درد سر، سوز، ہضم، لہج شکم، ہیضہ، درد دانت، زنبور کا ڈسنا، ضعف معدہ، بخار وغیرہ میں اسم

اسی ہے۔

307- حب بخار

عنايت: جناب حکيم مول چند صاحب اندوراسٹیٹ (ہند)۔

هو الشافى: کونین چار تولہ لاکوار آرسنی ایک تولہ گوند حسب ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے قفل سیاہ برابر گولیاں بنائیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ دودھ میٹھا دیں۔

فائدہ: کیسای طیریا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا تیر بہدف ہے۔

308- تریاق بخار

عنايت: جناب حکيم محمد فضل الدین صاحب وری گولہ امرتسر (ہند)۔

هو الشافى: زہر مہرہ خطائی، طباشیر دانہ الاچھی خورد ست گلو ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: لعاب اسپنول میں نخودی حبوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ تین تین گھنٹے بعد ایک ایک گولی شربت نیلوفر یا سادہ پانی سے

دیں۔

فائدہ: تپ لرزہ ہو یا تپ بغیر لرزہ دونوں میں نہایت مفید ہے۔

309- حب تپ جدید

عنايت: جناب حکيم عبدالرحیم نیازی صاحب میانوالی۔

303- کافور پلز

عنايت: جناب حکيم داکٹر محمد عثمان صاحب حیدر آباد دکن (ہند)۔

هو الشافى: طباشیر نقرہ کیرو کافور ایک ایک تولہ دانہ الاچھی خورد چھ ماشہ ست گلو کشتہ ایک

سفید ہر ایک تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے نگاہ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورتی ہر دو گھنٹے بعد دیجئے ہمراہ شربت نیلوفر یا شربت بنفشہ و عرق بی

مشک۔

فائدہ: صفائی بخار، سرسام، پیاس کی شدت کے لئے شدید بے چینی گھبراہٹ میں نہایت مفید

الاثربے خطا نسخہ ہے۔

304- حب جانبر

عنايت: جناب حکيم محمد رحمت اللہ خان صاحب بلہاری مدراس (ہند)۔

هو الشافى: قفل سیاہ، سونٹھ، قفل دراز، ریوند چینی، ہنگ خالص، لہسن، لوگ، نوشادر، مسر،

چرائہ، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، گلو اجوائن، شکر، ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر کر لیجئے اور دودھ ملا کر حبوب دانہ موگ

برابر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک حب ہمراہ آب نیم گرم یا چائے دیجئے بچوں کو نصف گولی دودھ

کے ہمراہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں نہایت ہی مفید الاثر لاجواب دوا ہے۔ (تخریج شدہ حکیم محمد

عبدالوحید عطاری)۔

305- ملیریل پورڈر

عنايت: جناب حکيم مفتی شیر علی صاحب چٹا محل لاہور۔

هو الشافى: برگ نیم، شگوندہ ارٹو برگ، تلسی، برگ سداب، ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات باریک کر کے نخودی حبوب تیار فرمایا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح دوپہر شام کھانے کے بعد ہمراہ نیم گرم دودھ پتیا

گرم پانی دیں۔

فائدہ: عام بخاروں کے لئے نہایت مفید جب کہ طیریا کے لئے خصوصیت سے مفید ہے۔

پرہیز: نرم غذا کے علاوہ تمام غذائیں بند کر دیجئے۔

پس تقابلی فارمولے
تذکیب استعمال: دو رتی سے چار رتی موٹی بخار کے لئے شربت بنفشہ کے ساتھ انفس کے لئے مویز منقہ میں دیں جب کہ سوداوی بخار میں نمیرہ گاڈ زبان سادہ کے ہمراہ استعمال فرمائیے۔
فائدہ: موی بخار تھجہ چوتھیہ بلکہ ہر قسم بخار میں اکسیر ہے بچہ و بوڑھا استعمال کر سکتا ہے۔
 (ترجمہ شہد حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

313- کشتہ ہڑتال گاؤدنتی

عنایت: جناب حکیم اللہ یار خان صاحب کبیر والا ملتان۔
ہو الشافی: گاؤدنتی دو تولہ عرق نیم پچاس گرام نغدہ نیم ایک پاؤ۔
تذکیب تیاری: پہلے گاؤدنتی کو عرق نیم میں کھل کر پھر نغدہ میں رکھ کر دس گلو اوپلوں کی آگ میں سرد ہونے پر محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی نرف الدم کے لئے ہمراہ طباشیر ضیق انفس کے لئے مکہ میں یا شربت بنفشہ کے ہمراہ۔
فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں لاجواب ہے نرف الدم ضیق انفس میں اکسیر اعظم ہے۔

314- بخارین

عنایت: جناب حکیم منظور احمد صاحب سلا نوالی سرگودھا۔
ہو الشافی: کونین سلفاس ایک تولہ ریوند چینی دو تولہ۔
تذکیب تیاری: دونوں کو خوب پورڈر بنا کر خودی خوب تیار کر لیجئے۔
تذکیب استعمال: ایک سے دو گولی صبح دوپہر شام ہمراہ شیر نیم گرم دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کے بخار کے لئے سو فیصد مفید ہے۔

315- اکسیر ملیریا

عنایت: جناب حکیم خواجہ رضوان احمد صاحب دہلی (ہند)۔
ہو الشافی: ریوند عصارہ مصطلکی رومی ہم وزن جوشاندہ بادیان چھائیہ افسنتین تین تین اٹھ۔
تذکیب تیاری: پہلی دونوں دواؤ کو پیس کر ملا کر خوب خودی بنا کر محفوظ رکھیں۔ نیز جوشاندہ الگ بنا کر رکھئے۔
تذکیب استعمال: صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ جوشاندہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کے ملیریا بخار وغیرہ میں بے مثال دوا ہے۔

ہو الشافی: کونین سلفاس ایک تولہ بنفشہ دانہ الاچھی خورد دست گلو چار چار ماشہ طباشیرہ تولہ عرق لیموں ایک پاؤ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے عرق لیموں میں خوب کھل کر لیجئے اور خودی خوب تیار فرما کر محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ آب نیم گرم دیجئے۔
فائدہ: نوبتی بخاروں اور موٹی بخاروں میں جید الاثر دوا ہے۔

310- عرق مبارکی

عنایت: جناب حکیم گورکھ سنگھ صاحب چوکیہ شاہ پور۔
ہو الشافی: گل بگاؤ زبان، مکو گاؤ زبان، ازخرا عناب پانچ پانچ تولہ کاسنی گل سرخ، خوب کلاں چار چار تولہ گل نیلو فر تین تولہ پانی پانچ گلو۔
تذکیب تیاری: بطریقہ معروف بذریعہ قرع انبیت دو لیٹر عرق کشید کیجئے۔
تذکیب استعمال: پانچ تولہ صبح پانچ تولہ شام ہمراہ سفوف طباشیر دیں۔
فائدہ: مبارکی اور عام بخاروں کے لئے بے حد فائدہ مند دوا ہے۔

311- کشتہ گاؤدنتی

عنایت: جناب حکیم وہاج احمد صاحب ہاپوڑ میرٹھ (ہند)۔
ہو الشافی: گاؤدنتی دو تولہ نغدہ پیاز ایک گلو اولے دس گلو۔
تذکیب تیاری: گاؤدنتی کو نغدہ میں دے کر دس گلو اوپلوں میں جھونک دیں سرد ہونے پر کھل کر محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: دو رتی صبح دوپہر شام۔ صغراوی بخاروں میں شربت بنفشہ کے ہمراہ بلٹی بخاروں میں مویز منقہ میں رکھ کر اور سوداوی بخاروں میں شربت گاؤ زبان میں تپ پر سوت میں نمیرہ گاؤ زبان سادہ کے ہمراہ استعمال کروائیے۔
فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں بے مثل دوا ہے۔

312- کشتہ گاؤدنتی

عنایت: جناب حکیم شیخ عبدالحکیم صاحب سرہند شریف (ہند)۔
ہو الشافی: گاؤدنتی پانچ تولہ آدھا گلو گلوبنز کا نغدہ اولے دس گلو۔
تذکیب تیاری: گاؤدنتی کو گلو کے نغدے میں دے کر محفوظ جگہ پر دس گلو اوپلوں کی آگ میں سرد ہونے پر سنبھال کر۔

عنايت: جناب حکيم محمد حسين انصاری ملتان شريف۔
 هو الشافي: شکر سے نکالا ہوا پارہ ایک تولہ، فلفل دراز، مصر ہلیلہ سیاہ، معرکہ ما کونہ۔
 ترکیب تیاری: پہلے پارہ و گندھک کی بجلی تیار کر لیجئے بعدہ دیگر اشیاء باریک میں کر لیں۔
 ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام ایک ایک گولی آب گلو کے ساتھ دیجئے۔
 فائدہ: از حد مفید نسخہ ہے جو لاکھوں مریضوں پر آزمایا ہوا ہے۔

316- بخارون

عنايت: جناب حکيم سید اشفاق حسین صاحب رانی میڈی آلہ آباد (ہند)۔
 هو الشافي: سنکوتا چھ ماشہ، ست گلو، کونین سلفاس، طباشیر، کافور، سنبل الطیب، ست پودینہ، ہر ایک تین تین ماشہ، میگنیشیا سالٹ پانچ تولہ، سائٹرک ایسڈ ایک تولہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے ایک بوتل میں حل کر لیجئے۔
 ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام پانی میں ملا کر دیں۔
 فائدہ: تپ دق کے علاوہ ہر قسم کے بخاروں میں مفید الاثر ہے۔

317- اکسیر بخار

عنايت: جناب حکيم مرزا خورشید علی خان صاحب کیدان جے پور (ہند)۔
 هو الشافي: طباشیر، دانہ الاچھی خورد، ست گلو، ست چرائے، کونین سلفیت، ہر ایک دو ماشہ، مغز کزنجبر، ایک تولہ۔ جوشاندہ چرائے، برگ نیم، آسنین ایک ایک تولہ۔
 ترکیب تیاری: پہلی ادویات کو خوب کھل کریں پھر جوشاندہ میں خوب کھل کیجئے کہ جوشاندہ ختم ہو جائے اور نخودی خوب تیار کر لیں۔
 ترکیب استعمال: ایک سے دو گولیاں ہمراہ شربت بنفشہ دیں۔
 فائدہ: ہر قسم کے موسمی بخاروں میں مفید دوا ہے۔

318- اکسیر بخار

عنايت: جناب حکيم پنڈت رام سری صاحب بلب گڑھ گوڑ گاٹوہ (ہند)۔
 هو الشافي: کشتہ ابرک سفید، کشتہ گاؤدنی، کشتہ ناقوس، ست گلو برابر وزن۔
 ترکیب تیاری: معروف طریقوں کے کشتہ لے کر آپس میں ملا کر سنبھال رکھئے۔
 ترکیب استعمال: دو سے تین رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ سادہ پانی دیں۔
 فائدہ: ہر قسم کے بخاروں کے لئے خصوصاً موسمی بخاروں میں اسم باسکی ہے۔

319- دوائے جدید

عنايت: جناب حکيم محمد غنی خان صاحب کلکوٹی امر وہ یوپی (ہند)۔
 هو الشافي: فرالی ایٹ کونین سائٹراس
 ترکیب تیاری: یہ لے کر محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: ایک رتی سے ڈیڑھ رتی عرق سونف کے ہمراہ دیں۔

عنايت: جناب حکيم حافظ محمد ابراہیم صاحب موسی زکی شریف ڈی جی خان۔
 هو الشافي: ریوند خطائی، نوشادر، قلمی شورہ برابر وزن۔
 ترکیب تیاری: سب کا سفوف بنا کر محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: چار رتی سے چھ رتی سادہ پانی کے ساتھ دیں۔
 فائدہ: نہایت مفید اور مجرب نسخہ ہے جو جگر کی خرابی اور کہنہ پتوں میں اور یرقان کے لئے لاجواب ہے۔

320- دوائے لیور

عنايت: جناب حکيم مرزا خورشید علی خان صاحب کیدان جے پور (ہند)۔
 هو الشافي: طباشیر، دانہ الاچھی خورد، ست گلو، ست چرائے، کونین سلفیت، ہر ایک دو ماشہ، مغز کزنجبر، ایک تولہ۔ جوشاندہ چرائے، برگ نیم، آسنین ایک ایک تولہ۔
 ترکیب تیاری: پہلی ادویات کو خوب کھل کریں پھر جوشاندہ میں خوب کھل کیجئے کہ جوشاندہ ختم ہو جائے اور نخودی خوب تیار کر لیں۔
 ترکیب استعمال: ایک سے دو گولیاں ہمراہ شربت بنفشہ دیں۔
 فائدہ: ہر قسم کے موسمی بخاروں میں مفید دوا ہے۔

321- اکسیر ملیریا

عنايت: جناب حکيم عبدالشکور صاحب پرتھی منج مراد آباد (ہند)۔
 هو الشافي: طباشیر، زیرہ سفید، کشینز خشک، قلمی شورہ، ست گلو، ہر ایک ایک تولہ، دانہ الاچھی خورد، زہر مہرہ، کونین سلفیت چھ چھ ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر شیرہ کاسنی میں کھل کریں اور نخودی گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: ایک گولی صبح، ایک دوپہر اور ایک شام ہمراہ شربت نیلوفر استعمال کیجئے۔
 فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں مفید نسخہ ہے۔

322- اکسیر فیور

عنايت: جناب حکيم عبدالشکور صاحب پرتھی منج مراد آباد (ہند)۔
 هو الشافي: طباشیر، زیرہ سفید، کشینز خشک، قلمی شورہ، ست گلو، ہر ایک ایک تولہ، دانہ الاچھی خورد، زہر مہرہ، کونین سلفیت چھ چھ ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر شیرہ کاسنی میں کھل کریں اور نخودی گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
 ترکیب استعمال: ایک گولی صبح، ایک دوپہر اور ایک شام ہمراہ شربت نیلوفر استعمال کیجئے۔
 فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں مفید نسخہ ہے۔

326- حب تپ

عنايت: جناب حکیم احمد بخش صاحب ہزارہ شاہ پور۔
ہو الشافی: کشتہ ابرک سفید، آتیس، طباشیر، ست گلو، دانہ الاچھی خورد، کونین فولادی، ہم وزن لعاب صمغ عربی حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور لعاب صمغ عربی میں حب نخودی تیار فرما کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام ایک ایک حب ہمراہ شربت بزوری دیں یا گرم پانی یا تھوہ کھلائیں۔
فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں خصوصاً کہنہ بخاروں میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔

327- بنسلوچن پلر

عنايت: جناب حکیم حاکم علی صاحب چنیوٹ۔
ہو الشافی: بنسلوچن، دانہ الاچھی خورد، زہر مہرہ خطائی، ست گلو ہر ایک ایک تولہ، کافور، سبز کونین تین تین ماشہ، شیرہ اسپغول قدرے مناسب۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا کر شیرہ اسپغول میں خوب نخودی بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح، دوپہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ سادہ پانی دیں اگر باری کا بخار ہو تو تین گھنٹے پہلے دو گولی کھلا دیں۔
فائدہ: موسمی بخار، ملیریا، صفراوی و دیگر بخاروں میں بے مثال دوا ہے بنا کر خدمت کیجئے۔

328- یمانی کمپاؤنڈ

عنايت: جناب ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب ہوشیار پور (ہند)۔
ہو الشافی: شب یمانی پانچ تولہ، قلمی شورہ دو تولہ، گیرد ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: شب یمانی اور قلمی شورہ کو کڑا ہی میں ڈال کر خوب ہلائیں کہ بریاں ہو جائے پھر ایک تولہ گیرد ملا کر سنوف بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دورتی سے چار رتی مناسب بدرقہ سے دیجئے۔
فائدہ: موسمی بخاروں کے لئے لاجواب دوا ہے۔

323- حب احمر

عنايت: جناب حکیم احمد علی صاحب فزیشن طبیبہ کالج دہلی (ہند)۔
ہو الشافی: تخم دھتورہ ایک تولہ، ایون ایک ماشہ، جانفل چھ ماشہ، مشک خالص دو ماشہ، زعفران تین ماشہ، مرج سیاہ دو ماشہ، زنجبیل دو ماشہ، سچ دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: سب ادویات کو نہایت باریک پیس کر نخودی گولیاں بنالیں اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیں۔ اساک کے لئے دو گولی پیشتر ہمراہ دودھ دیں۔ جس قدر ایون کم کرتے جائیں یہ دوا بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ ایون ختم ہو جائے پھر دوا کی مقدار بھی آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں حتیٰ کہ دوا کی مقدار بھی ختم ہو جائے۔
فائدہ: نزلہ و زکام، کھانسی، بخار کی نوبت کو روکتی ہے امراض بلغمیہ مسک مقوی باہ ہے۔ ایون کی عادت کو چھڑا دیتی ہے۔

324- حب تپ

عنايت: جناب حکیم بابورام چندر صاحب کرنال (ہند)۔
ہو الشافی: ست گلو، طباشیر، دانہ الاچھی خورد، زہر مہرہ خطائی ایک ایک تولہ، کافور تین لاکھ، لعاب اسپغول حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر لعاب اسپغول میں خوب تیار کر کے سنبھال رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی باری سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے کھلائیں۔
فائدہ: پہلے دن ہی بخار دفع ہو جائے گا ورنہ دوسری باری پر دوا استعمال کروائیں تو بالکل بخار جاتا رہے گا ہزار ہا مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

325- اکسیر حمی

عنايت: جناب حکیم عبدالحمید صاحب کلکتہ (ہند)۔
ہو الشافی: مغز کرنجہ پندرہ تولہ، آستین دو تولہ، برگ گاؤ زبان تین ماشہ، گل سرخ تین ماشہ، طباشیر ایک تولہ، ست گلو ایک تولہ، الاچھی خورد ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر گلو سبز کے پانی میں کھل کر کے نخودی خوب کر کے محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دن میں تین وقت ایک ایک گولی ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں۔

329- کشتہ صدف

عنایت: جناب حکیم مشرف الدین صاحب شورکوٹ۔

ہوالہ شافی: صدف مرداریدی پچاس گرام بھنگ کا نغدہ ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: نغدہ بھنگ میں صدف دے کر دس کلوادپلوں کی آگ دیکر سرد ہو کر پانی بھر کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی صبح دو پہر دو رتی شام ہمراہ چائے تازہ پانی یا شراب بنفشہ دیجئے۔

فائدہ: یہ کشتہ تپ مزمنہ دکھنہ اور تپ دق میں اکسیر صفت کا حامل ہے۔

330- کرشمانی سرمہ

عنایت: جناب حکیم عبدالستار انصاری صاحب فقیر آباد آلہ آباد (ہند)۔

ہوالہ شافی: نیلا تھوٹھا اعلیٰ درجہ پچاس گرام آب لیموں مقطر ایک کلوگرام۔

ترکیب تیاری: نیلا تھوٹھا کو آب لیموں مقطر سے خوب کھل کیجئے کہ پانی ختم ہو کر رہ جائے تو محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک سلائی جھاڑ کر دونوں آنکھوں میں لگائیں۔

فائدہ: تیز سے تیز بخار بھی پندرہ منٹ میں اتر جائے گا یہ ایک وقتی کرشمہ ہے مستقل علاج میں کریں۔

331- تریاق ملیریا

عنایت: جناب حکیم عبدالرحمن صدیقی صاحب امر وہہ مراد آباد (ہند)۔

ہوالہ شافی: شب یمانی پانچ تولہ آب برگ کریلہ پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے دونوں کو خوب کھل کیجئے بعدہ کوزہ گلی میں بند کر کے پانچ گولہ میں جھونک دیں سرد ہونے پر باریک پس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی سے چار رتی شربت بنفشہ عرق گاؤ زبان کے ساتھ دن میں مرتبہ استعمال کروائیے۔

فائدہ: ملیریا کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

332- حب صفراوی تپ

عنایت: جناب حکیم صاحب ٹوہانہ حصار (ہند)

ہوالہ شافی: کافور ایک تولہ کیرد ایک تولہ طباشیر الہی خور و ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی سے چار رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت صندل یا عرق صندل یا عرق کیوڑہ دیئے۔

فائدہ: ان شاء اللہ عزوجل صفراوی بخار پہلے دن میں ختم ہو جائے گا بخار کی حالت میں ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دینے سے شفا مل جاتی ہے۔

333- دوائے تپ

عنایت: جناب حکیم مہتاب الدین صاحب ہارون آباد بہاولپور۔

ہوالہ شافی: زنجبیل، لوگ، اجوائن، مرچ سیاہ، فلفل دراز، ہلیہ سیاہ، چترہ ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب گرم دیجئے۔

فائدہ: تپ کہنہ خواہ کیسا ہی ہو مفید ولاجواب ہے۔

334- دوائے بخار خاص

عنایت: جناب حکیم قاضی محمد اختر صاحب انبالہ چنبیلی والا (ہند)

ہوالہ شافی: الہی خور دو تولہ ست گلو دو تولہ طباشیر ایک تولہ مغز کرنبوہ ایک تولہ کشتہ

ابرک سفید ایک تولہ کونین سلفاس ایک تولہ کافور چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر پورڈر بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے چھ رتی ہمراہ تازہ پانی دن میں تین مرتبہ دیں۔

فائدہ: خاص الخاص معمول مطب تجربہ شدہ نسخہ ہے جو ہر قسم کے بخاروں میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

335- اکسیر بخار

عنایت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب شاہ کوٹ جالندھر (ہند)

ہوالہ شافی: چونان بجا دو تولہ ہڑتال درقہ دو تولہ طوطیا سبز ایک تولہ عرق کھیکھو ار بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کھیکھو ار میں تین یوم تک کھل کر کے کوزہ گلی میں رکھ کر دس کلوادپلوں میں پھونک دیں سرد ہونے پر نکال کر پس کر نگاہ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ بخار چڑھنے سے ایک گھنٹہ پہلے دیجئے اسی طرح روزانہ

339- دوائے مدنی

عنايت: شمس الاطباء جناب حکیم مرزا قاسم علی مدنی مہاجر (مدینہ منورہ شریف) **ہو الشافی:** سم الفار ایک تولہ سنگ بصری دو تولہ آب کریلہ صحرائی بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: دونوں کو دو یوم تک آب کریلہ میں خوب کھل کر کے دانہ ماش برابر خوب لڑکیں اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ بوڑھوں کو جلاب شکری کے ہمراہ جب کہ نوجوانوں کو شیرہ خرفہ و خیارین و مصری کے ساتھ دیجئے۔
فائدہ: دو تین دن کے استعمال سے تپ دور ہو جائے گا۔
پہیز: دودھ چاول دیں جب کہ ترشی گوشت کھلی چربی وغیرہ سے پرہیز لازم ہے۔

340- حب شفاء

عنايت: جناب حکیم سید محمد ابراہیم سکندر آباد دکن (ہند)۔
ہو الشافی: تخم جوز ماشل چھ تولہ ریوند چینی چار تولہ زنجبیل دو تولہ صمغ عربی دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر نخودی خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک حب صبح ایک شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔ اگر پیاس زیادہ لگے تو شیر خرفہ پی لیجئے۔
فائدہ: درد سر، نزلہ و زکام، بخار، مزمنہ بخار میں مفید و مجرب ہے۔

341- دوائے سوتک

عنايت: عمدة الحکماء جناب حکیم فرید الدین صاحب، مکھیانہ جھنگ
ہو الشافی: زیرہ سفید ایک تولہ قد سفید ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو باریک پیس کر سات پڑیاں بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک پڑیہ صبح بکری کے دودھ کے ساتھ دیجئے۔
فائدہ: میرا خود تجربہ شدہ ہے جو عورتوں کو سوتکی بخار ہو جاتا ہے اس سے یقیناً فائدہ ہو جاتا ہے
گرفت درکار ہے۔
پہیز: تمام ترش اشیاء، مرچ و مصالحہ جات اور قد سیاہ سے پرہیز واجب ہے۔
غذا: دودھ چاول دیجئے۔
کو اس: چار ہفتے دواد دیجئے۔

فائدہ: بادی والا بخار، تیج، چوتھیا وغیرہ میں کامیاب خاندانی تجربہ شدہ ہیروں کے ہمارے تولہ والا نسخہ ہے بنا کر غریب عوام کی خدمت کیجئے۔

336- کشتہ ہڑتال درقیہ

عنايت: جناب حکیم محمد ثناء اللہ صاحب مونا تھہ اعظم گڑھ (ہند)
ہو الشافی: ہڑتال درقیہ پانچ تولہ آب بھنگرہ سیاہ ایک پاؤ آب برہمی بوٹی ایک پاؤ کمر
بزرگانہ ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: پہلے ہڑتال درقیہ کو آب بھنگرہ میں کھل کیجئے پھر آب برہمی بوٹی میں اور کمر
کو کے نغہ میں دے کر گل حکمت کر کے دس کلو اوپلوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نگاہ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک چاول سے دو چاول مسکہ یا ملائی یا منقی میں مرض کے مطابق
دیجئے۔
فائدہ: متوی باہ و مولد خون، سوزاک، آتشک، بوا سیر، خنازیر، بخار کہنہ کے لئے اکسیر مفت
حالیہ لاجواب کشتہ ہے۔

337- دوائے کافوری

عنايت: جناب حکیم سید احمد خان صاحب پوٹ روٹی شہرائی (ہند)
ہو الشافی: بیش مدبر، قفل سیاہ، سہاگہ ہر ایک ایک تولہ رسونت، مصر، ہلدی ہر ایک دو تولہ
کافور ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ تک صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: موکی بخار، جو لڑھ سے ہوتا ہے اس کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

338- کشتہ احمر

عنايت: جناب حکیم شمس الرحمن صاحب جمال پائن راجپوتانہ (ہند)۔
ہو الشافی: شکر ف روئی ایک تولہ مشک کافور ڈیڑھ تولہ۔
ترکیب تیاری: مشک کافور کے درمیان شکر ف دے کے جلا دیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی خالص شہد میں حل کر کے چٹا دیجئے۔ روزانہ دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں لاجواب ہے، فوراً بخار اتر جاتا ہے۔

342- دوائے کثیر الامراض

150

عنايت: جناب حکیم غلام محمد صاحب لالوالی شاہ پور۔

هو الشافى: ناتوس پچاس گرام آب کریلا بقدر ضرورت۔ نغده۔ تھوڑا پاؤ۔

ترکيب تيارى: ناتوس کو روغنی برتن میں رکھ کر آب کریلا میں تھوڑا سا ڈال دیں جب بخم ہو جائے اور ڈال دیں حتیٰ کہ دو روز گزر جائیں بعد ذہ تھوڑا کے نغده میں دے کر دس کلو اوپلون کی آگ دیں سرد ہونے پر باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: ایک رتی سے چار رتی مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے زہریلے جانوروں کے کاٹے میں مفید ہے فالج، لقوہ، تشنج اور ہر قسم کے بخاروں کے لئے موتی جھرا، چچک، خسرہ وغیرہ کو دفع کرنے کے لئے نہایت عمدہ دوا ہے ایک طبیب اس سے ہزاروں کام لے سکتا ہے۔

343- تریاق بخار

عنايت: جناب حکیم عنایت اللہ صاحب لدھیانہ (ہند)۔

هو الشافى: لوبان چھ تولہ، کشتہ ابرک سفید ایک تولہ، کشتہ ہڑتال ایک تولہ۔

ترکيب تيارى: سب کو باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: ایک ماشہ سے دو ماشہ ہمراہ شربت بزوری یا عرق گاؤ زبان وغیرہ سے دیں۔

فائدہ: صفراوی بخار کا تریاق ہے طب یونانی کا منہ بولتا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے چند دنوں میں بخار اتر جاتا ہے۔

344- کشتہ ابرک سفید

عنايت: جناب حکیم عطاء اللہ خان صاحب پشاور۔

هو الشافى: ابرک سفید ایک پاؤ، دہی ترش ایک کلو، قلمی شورہ ایک پاؤ۔

ترکيب تيارى: پہلے ابرک سفید کو ترش دہی میں خوب گھوٹیں بعدہ ایک کوزہ گلی میں پہلے قلمی شورہ نصف بچھا دیجئے پھر ابرک رکھ دیجئے اور پھر قلمی شورہ ڈال کر خوب گل حکمت کر کے مضبوط بوت تیار کر کے خشک ہونے پر پندرہ کلو اوپلون میں جھونک دیں۔ سرد ہونے پر نکال کر دیکھئے یہ

کشتہ سفید بے چمک برآمد ہوگا اگر چمک رہ جائے تو دوبارہ پھر یہی عمل کیجئے اور آخر میں بہت سے پانی میں حل کر کے قلمی شورے کی تیزی کو ختم کیجئے اور خشک ہونے پر سنبھال کر محفوظ رکھیں۔

ترکيب استعمال: ایک رتی سے چار رتی ہمراہ مناسب بدرقہ استعمال کیجئے۔

شمس لقمائی فارمولے

عنايت: ہر قسم کے بخاروں میں نہایت مفید ہے۔
هو الشافى: اگر اس میں ست گلو اور ست چراستہ ایک ایک تولہ اضافہ کر لیا جائے تو نتائج نہایت ہی مفید برآمد ہوں گے۔ (حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

345- کشتہ ابرک سیاہ

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم علامہ ذوالنون عطا صاحب کوئٹہ بلوچستان۔

هو الشافى: ابرک سیاہ ایک پاؤ، دودھ گائے دو کلو، جوشاندہ گلو، چراستہ آدھا کلو۔

ترکيب تيارى: ابرک سیاہ کو پہلے آگ پر سرخ اور دودھ گائے میں بچھاوا دیتے جائیں پانچ

رتبہ ایسا کرنے سے ابرک پورڈر ہونے کے قابل ہو جائے گا پھر ایک دن دودھ میں کھرل

کر کے مضبوط گل حکمت کر کے دس کلو اوپلون کی آگ دیجئے پھر جوشاندہ میں ایک دن کھرل

کر کے گل حکمت کر کے دس کلو اوپلون کی آگ دیجئے پھر دودھ میں کھرل کر کے ایسا کیجئے یہ عمل

سات مرتبہ دہرائئے۔ نہایت اعلیٰ سرخ رنگ بے چمک کشتہ تیار ہو جائے گا محفوظ رکھئے۔

ترکيب استعمال: ایک رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے بخاروں میں اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے بنا کر استعمال کیجئے اور ڈھیروں دعائیں

لیجئے۔

346- حب سونوخس

عنايت: جناب حکیم محمد آصف مدینتہ الاولیا ملتان شریف۔

هو الشافى: صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک باون گرام، طباشیر نقرہ، نشاستہ، ہر ایک سترہ گرام

ایوان خراسانی باون ماشہ، کافور، زعفران ہر ایک چار ماشہ۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر لعاب بیہدانہ سے خوب بخودی تیار

زرا کر محفوظ فرمائیے۔

ترکيب استعمال: روزانہ چار سے پانچ گولی ہمراہ شربت عناب دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: دموئی بخاروں صفراوی بخاروں میں خصوصیت سے مفید و مجرب ہے۔

347- اکسیر تپ

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن چشتی پاک پتن۔

هو الشافى: الاچھی خورد، نست گلو، طباشیر، مغز کرنبوہ، کشتہ ابرک سفید ایک ایک تولہ، کونین

سٹاکا، کافور تین تین ماشہ۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

350- صحتی

عنایت: جناب حکیم سراج الدین صاحب دہلی (ہند)

ہو الشافی: قفل سیاہ بارہ تولہ، سوٹھ دو تولہ، زعفران دو تولہ، لوگ دو تولہ، برگ ہرنولی کا رس بارہ تولہ، آبلیمو اور بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے تمام ادویات کو کوٹ پھوٹ کر برگ ہرنولی کے رس میں کھل کیجئے بعدہ آبلیمو اور رس میں کھل کیجئے اور خودی خوب تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی دن میں تین وقت ہر ماہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے بخار، عرق النساء، گنٹھیا، وجع الرقبہ، جریان، بدبھنسی وغیرہ میں نہایت جید الاثر

درا ہے۔ اگر ایک گھنٹے تک ایک گولی اثر نہ کرے تو فوراً دوسری گولی کھلا دیجئے۔

351- اکسیر بخار

عنایت: جناب حکیم اختر حسین یزدانی، سمرات (ہند)

ہو الشافی: کشتہ ابرک سیاہ، کشتہ تانبا، سیماب، گندھک آملہ ساڑھ بیٹھاتیلیہ ہر ایک ایک تولہ، خم جوڑ ماش دو تولہ، قفل سیاہ، قفل سیاہ، سوٹھ ہر ایک ڈیڑھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں اور گندھک و پارہ کی کچی الگ تیار کر کے ملا کر چنے برابر خوب سے تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی دن میں تین مرتبہ ہر ماہ آبلیمو تازہ دیجئے۔

فائدہ: تلواری کا وار خالی جاسکتا ہے مگر اس دوا کا وار خالی نہیں جاسکتا پرانے اور خلطی بخاروں میں لاثانی اکسیر ہے کھانسی رفع کرتی ہے۔

352- حب غافث

عنایت: جناب حکیم عبدالرزاق صاحب وہاڑی ملتان۔

ہو الشافی: مغز کرنبجہ، قفل دراز، گل غافث، نوشادر، ست گل، کیرو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر آبلیمو اور سے خوب خودی تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو گولی دن میں تین مرتبہ ہر ماہ آبلیمو تازہ دیں۔

ترکیب استعمال: تین سے چار رتی دن میں تین مرتبہ ہر ماہ شربت عناب یا شربت مناس یا مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: صفراوی بخاروں کے خاتمہ کے لئے اکسیری نسخہ ہے۔

348- کشتہ گاؤدتی

عنایت: شمس الاطباء جناب حکیم پری چند ڈھولوال لاہور۔

ہو الشافی: گاؤدتی آدھ پاؤ، اسگندنا گوری پاؤ۔

ترکیب تیاری: گاؤدتی کو اسگندنا گوری کے درمیان رکھ کر ایک کوزہ گلی کو سرپوش سے ڈمک کر خوب مضبوط گل حکمت کر کے پندرہ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر کشتہ الگ کر کے خوب کھل کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے چار رتی ہر ماہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے بخار کے لئے خواہ روزانہ ہو یا تیسرے دن یا پانچویں دن دہائی ہو یا طیرا سب کے لئے اعلیٰ پایہ کا لاجواب کشتہ ہے۔

349- حب نجات

عنایت: جناب حکیم محمد سہیل قادری صاحب کراچی۔

ہو الشافی: کشتہ ابرک سفید، کشتہ ابرک سیاہ، ریوند عصارہ، گلوکاست، طباشیر نقرہ، کونین ہڑا، الابچی سبز، کشتہ گاؤدتی ہر ایک چھ تولہ، مغز کرنبجہ ڈیڑھ پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پورڈر بنا کر کشتہ جات ملا کر جوشاندہ سے خوب خودی تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی دن میں تین مرتبہ ہر ماہ نیم گرم دودھ یا شربت عناب یا مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا مفید الاثر بے خطا نسخہ ہے جو کہیں بھی خطا نہیں گیا ہر قسم کا بخار خواہ باری سے ہو یا بغیر باری کے لاجواب نسخہ ہے۔

طغری

صفراوی بخار میں خشک دھنیا کوٹ کر مٹی کے برتن میں بھگو کر مریض کو پلائیں بے ہوش ہو کر دیکھیں۔

بجین عرق گلاب کے ہمراہ پلانا قاطع صفراء ہے۔

برادہ صندل سفید، خم کاسی، خم خیارین ہر ایک چار ماش گھوٹ کر چھان کر پنا مفید

فائدہ: موکی بخاروں اور خلطی بخاروں میں آب حیات کا کام کرتی ہے سنگ گردہ و مثانہ میں مفید اور ضعف معدہ میں لاجواب ہے۔ ان گولیوں کو پورڈر بنا کر دانتوں پر بطور پین استعمال کریں تو سوزھوں اور امراض دندان کا تریاق ہے۔ درد شقیقہ میں مخالف نشتے میں سوار استعمال کرنے سے درد فوراً کافور ہو جاتا ہے اندرونی اور ام میں مستعمل ہے۔

طرزے

* برگ تلسی خشک اور لفل سیاه چھ ماشہ پانی اڑھائی تولہ میں کھل کر کے جب تک موگ تیار کر کے صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ تازہ پانی دیں تو مفید ہے۔

* لفل دراز ایک تولہ روح کیوڑہ دس تولہ میں کھل کر کے ایک رتی صبح و شام نیم گاوڑبان کے ہمراہ دیجئے مجرب ہے۔

* مغز کرنجہ لفل دراز برابر وزن تیار کر لیجئے اور چار رتی سے چھ رتی دن میں تین دن دیجئے مستعمل و مفید ہے۔

* مغز کرنجہ اور نوشادر برابر وزن دیجئے بخار نابود ہو جائے گا۔

353- اکسیر اعظم

عنایت: حکیم محمد رمضان صاحب دہاڑی ملتان۔

ہو الشافی: پھلکوی سفید پانچ تولہ کافور دسی دو تولہ آب لیموں دس تولہ اوپے تین گولہ

ترکیب تیاری: پہلی تینوں ادویات کو خوب کھل کر کے نکیہ بنا کر ایک کوزہ گلی میں گل عک کر کے خشک ہونے پر تین کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر خوب کھل کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورتی سے تین رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ کھن یا بالائی دیجئے۔ شربت کی صورت میں ہر دو دو گھنٹے بعد دیجئے۔

فائدہ: سوداوی بخار تپ محرقہ شدید سرمای کیفیت تپ دق دیگر موکی بخاروں میں جید الاثر دوا ہے۔

نوٹ: سوداوی بخار کا خاص الخاص نسخہ ہے۔

354- حب خراسانی پلڑ

عنایت: جناب زبدۃ الحکماء استاد الاطباء محمد حسن صاحب لکھنؤ (ہند)

ہو الشافی: پھلکوی بریاں دو تولہ سہاگہ بریاں دو تولہ اجوائن خراسانی دو تولہ نمک طعام ایک تولہ زہرہ خطائی تین ماشہ کونین سلفاس تین ماشہ فٹاشین دو ماشہ۔

پہلے لسانی فارمولے

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر آب برگ دھتورہ میں خوب دانہ موگ برابر تیار کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بخاروں میں نوبت سے پہلے دو دو گولی ہر دو گھنٹے بعد تین دفعہ دیجئے۔

فائدہ: بخاروں کی تمام اقسام میں مفید الاثر ہیں۔

355- اکسیر رحمت

عنایت: جناب حکیم رحمت علی صاحب دکن (ہند)

ہو الشافی: (1) گلو چرائتہ برگ نیم خاکسی ہر ایک پانچ تولہ برگ مہندی برگ سورج مکھی برگ تلسی ہر ایک تین تولہ مرچ سیاہ آتیس ہر ایک دو تولہ

(2) گلو طہاشیر الاچھی خورد ہر ایک ایک تولہ مغز کرنجہ پانچ تولہ کونین سلفاس ہارونہ ست گلو طہاشیر الاچھی خورد ہر ایک ایک تولہ زیرہ سفید لفل دراز چھ ماشہ کافور تین کشتہ ابرک سیاہ کشتہ ابرک سفید ہر ایک ایک تولہ زیرہ سفید لفل دراز چھ ماشہ کافور تین ماشہ

ترکیب تیاری: نمبر 2 ادویات کو باریک پس کر نمبر 1 ادویات کا جو شانہ خوب گاڑھا کر لیجئے پھر نمبر 2 ادویات اس میں داخل کر کے خوب بخودی تیار فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ یا باری سے پہلے استعمال کر دئیے۔

فائدہ: یہ گولیاں واقعی رحمت ہیں جو ہر طرح کے بخاروں میں مستعمل ہیں نوبتی بخاروں کو روکتی ہے۔

طرزے

* دھتورہ کے پتے جلا کر ایک سے دورتی باری سے تین گھنٹے پہلے دینا مفید ہے۔

* ہڑتال درتی چھ ماشہ پھلکوی خام ایک تولہ توے پر کھگتہ کر لیجئے سنہری کشتہ تیار ہوگا ایک ایک رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے جید الاثر ہے۔

* مکڑی کا جالاگڑ میں لپیٹ کر نوبت سے پہلے دیجئے مفید ہے۔

356- کرنجہ پلڑ

عنایت: جناب حکیم محمد احسان صاحب بہاولنگر۔

ہو الشافی: مغز کرنجہ دو تولہ مکھاں دو تولہ برگ کیکر ڈیڑھ تولہ پھلکوی کھگتہ ایک تولہ زیرہ سفید ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر حب بخودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی سے تین گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

357- ملیرین

عنايت: جناب حکیم نظام الدین صاحب پٹنہ (ہند)

هو الشافی: سوٹھ، مغز کرنجہ ایک ایک تولہ، بیخ دھتورہ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر خوب لفل فل سیاه برآمد تیار کر کے محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: پہلے دن ہی اثر دکھاتی ہے تپ لرزہ میں ملیریا بخار میں جید الاثر ہے۔

358- حب نایاب

عنايت: جناب حکیم ونذرد سنگھ فیروز پور (ہند)۔

هو الشافی: پھنکوی سرخ پانچ تولہ، شنگرف ایک تولہ، فلفل سیاه پانچ تولہ، عرق لیموں پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: پھنکوی اور شنگرف کو خوب کھرل کیجئے اور کوزی گلی میں گل حکمت کر کے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر فلفل سیاه کھرل کر کے عرق لیموں میں پھر کھرل کیجئے پھر خوب نخودی تیار کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک ایک گولی ہمراہ آب تازہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: ملیریا کے لئے نایاب ہے کونین سے بدرجہا بہتر ہے بخار کو پسینہ لا کر اتارتی ہے بچہ اور چوتھیہ بخار کے لئے تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔

359- حب تپ

عنايت: جناب حکیم غلام مرتضیٰ صاحب رام داس امرتسر (ہند)۔

هو الشافی: ہڑتال گاؤ دنتی پانچ تولہ، پھل دھتورہ تازہ ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: پھل دھتورہ کا نغہ تیار کر کے ہڑتال گاؤ دنتی اس میں رکھ کر دس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر نگاہ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورتی سے تین رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ تازہ دیجئے۔

فائدہ: موکی بخار کے لئے نہایت اعلیٰ چیز ہے چند خوراکیوں سے بخار اتر جاتا ہے کھانسی بھی رفع ہو جاتی ہے۔

360- حب بخارون

عنايت: جناب حکیم گورکھ سنگھ حصار (ہند)۔

هو الشافی: کشتہ گاؤ دنتی بیس تولہ، کشتہ سنگھ دس تولہ، کشتہ اپیکاک سفید پانچ تولہ، کشتہ ہڑتال درتہ چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آپس میں ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک سے دورتی دن میں دو مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: یہ ہر قسم کے بخار کے لئے بے مثال دوا ہے پسینہ لا کر بخار اتارنے والی بے مثال دوا ہے اس نسخہ کا تیر کبھی بھی بے خطا نہیں ہوا نہایت ہی مفید اور جید الاثر دوا ہے۔

361- اکسیر لرزہ

عنايت: جناب حکیم محمد ندیم صاحب دادو سندھ۔

هو الشافی: کوڑ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: کوڑ کو کوٹ چھان کر پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ کپسول میں بند کر کے نوبت سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دیجئے۔

فائدہ: پہلے دن ہی بخار رک جائے گا ورنہ بالکل ہلکا ہوگا دوسرے تیسرے روز قطعی رفع دجائے گا تقریباً اٹھارہ سال سے معمول مطب ہے ہر قسم کے نوبتی بخاروں کے لئے نہایت دارآمد چیز ہے۔

362- اکسیر تپ محرقہ

عنايت: جناب حکیم عظمت اللہ صاحب لاڑکانہ سندھ۔

هو الشافی: پھنکوی سفید سات تولہ، کانور دیسی دو تولہ، عرق لیموں دس تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو عرق لیموں میں خوب کھرل کیجئے اور کوزہ گلی میں بند کر کے گل حکمت کرنے تین کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورتی سے چار رتی ہمراہ آب تازہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: تپ محرقہ کے لئے اور شدید اضطرابی کیفیت میں مخصوص چیز ہے۔

363- کشتہ سنگھ

عنايت: جناب حکیم پر بھار بر رام کلکتہ (ہند)۔

هو الشافی: سنگھ پانچ تولہ، سرکہ انگوری تین تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر کے مکھی بنا کر کوزہ گلی میں دس کلو اوپلوں کی آٹھی دیکھ کر سرد ہونے پر نکال کر نگاہ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے چار رتی ہمراہ عرق مرکب دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: دستوں کو روکنا، نفع حکم کو ختم کرنا اور بخار اتارنا اس کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔

364- دوائے صفراوی بخار

عنایت: جناب حکیم محمد شاہد ایوب صاحب لاہور۔

ہوالشافی: طاہیر کافور، گیرو ہر ایک ایک تولہ، الاچھی خورد چھ ماشہ، ست گلو، کشتہ ایک سبز ہر ایک ڈیڑھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت نیلوفر اور گاؤ زبان دیجئے۔

فائدہ: یہ نسخہ خالص صفراوی بخار میں مستعمل ہے پیاس کی شدت اور تے کی وجہ سے مریض سخت بے چین ہو اور نوبت سرنام تک پہنچ گئی ہو تو اس کے لئے تیر بہدف ہے۔

365- تریاق مبارکی

عنایت: جناب حکیم سید مظفر علی دہلوی صاحب نشی محلہ فیصل آباد۔

ہوالشافی: سنگھ سوگرام، مغز کھیکھو، دو سو گرام۔

ترکیب تیاری: سنگھ کو مغز کھیکھو اور میں کھل کیجئے اور مکھی بنا کر ایک کوزہ گلی میں بند کر کے دس کلو اوپلوں میں پھونک دیجئے سرد ہونے پر نکال کر باریک کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی دن میں چار مرتبہ ہمراہ عرق ککو عرق پودینہ اور بادیان شربت الاچھی شربت عناب ہر ایک دس تولہ کے ہمراہ دیں۔

فائدہ: مبارکی کے دستوں کو روکتی ہے نفع وغیرہ نہیں ہونے دیتی مبارکی بڑے زور شور سے یک دم نکل آتی ہے نہایت مفید و مجرب نسخہ ہے۔

366- اکسیر مبارکی

عنایت: جناب حکیم محمد صادق صاحب فیروز پور شہر (ہند)۔

ہوالشافی: مردار ناسفہ چار رتی، کشتہ سنگھ، کشتہ مرجان، برادہ استخوان، سرطان نہری ہر ایک ڈیڑھ ماشہ، ورق طلا، پانچ عدد ورق نقرہ پندرہ عدد۔

ترکیب تیاری: پہلے مردار ناسفہ کو دس گھنٹے تک رو کیوڑہ میں کھل کیجئے پھر دیگر ادویات کو

باریک کر کے ملا لیں پھر ایک ایک ورق کھل کیجئے اور محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی بچوں کے لئے 1/4 رتی منقہ یا ماشہ میں رکھ کر کھلا کر اوپر سے دن گلاب دے دیجئے۔

فائدہ: مبارکی کا تریاق نسخہ ہے مفید و مجرب معمول مطب ہے۔

تپ دق

تعریف مرض:

تپ سے مراد بخار اور دق کے معنی دبلا پن اور باریک ہونے کے ہیں کیونکہ اس بخار میں تپ کے اندر تک حرارت پہنچ کر رطوبات بدن کو فنا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بدن دبلا پتلا ہو جاتا ہے اسی لئے اسے تپ دق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

وجوہات:

ایلو پتھی طریقہ علاج کے اندر اس کا سبب ایک مائیکروبیکٹر یا ٹیوبریکلوسس سے ساخت کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی گانٹھوں کی صورت میں ہوتا ہے جب کہ طبی نقطہ نظر سے یہ بھی خلطی بخار ہے جس میں مادہ متعفن ہو جاتا ہے اور اسی متعفن مادہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے چھوت سے بھی ہو جاتا ہے۔ تپ کی تین اقسام ہیں جب تپ دق کے جراثیم کسی ایک عضو میں داخل ہو جائیں تو سارے بدن کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ کیڑے خشک بلغم میں بھی زندہ رہتے ہیں بذریعہ سانس بھی یہ جراثیم تندرست شخص کے اندر چلے جاتے ہیں۔

علامات:

اقسام کے لحاظ سے علامات کے بھی تین درجات ہیں درحقیقت یہ اسی مرض کی ترقی یافتہ علامات ہوتی ہیں جن کو اطباء کرام نے اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔

پہلا درجہ:

پہلے درجہ میں معمولی معمولی بخار رہتا ہے صرف نبض میں تیزی اور پھولی ہوئی ہوتی ہے طبیعت ست رہتی ہے اور سستی کا اثر شام کو زیادہ ہوتا ہے صبح کو طبیعت بحال ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ بخار ہونے لگتا ہے جو پہلی رات قدرے تیز اور آخری حصہ رات میں پسینہ آ کر اثر جاتا ہے۔

اس درجے میں ٹیپرچر میں شدت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے کبھی اس بخار کی دو لوبتیں ہوتی ہیں ایک دوپہر میں اور دوسری تقریباً چھ گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے اس میں پیشاب سرخ رنگ کا کم مقدار میں اور قبض ہوتی ہے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے بھوک کی بھی شدت ہوتی ہے رخساروں پر سرخ رنگ کے حلقے بڑھ جاتے ہیں چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے مریض کمزور دہلا پتلا ہو جاتا ہے جلد کھینچ جاتی ہے آنکھیں اندر جھنس جاتی ہیں کندھوں کی ہڈیاں اونچی ہو جاتی ہیں کان تنگ اور چھوٹے اور رنگت زرد مائل سیاہ ہو جاتی ہے۔

پیشاب میں روغنی اجزاء کا اخراج شروع ہو جاتا ہے خوب جسم خشک ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بخار روز کا ہوتا ہے اس میں کمی کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے نرم ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں پاؤں متورم اور نہایت کمزوری ہو جاتی ہے اگر اوقات تھوک کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔

الحمد للہ عزوجل تپ دق کا علاج نہایت ہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں جتنا ایلو پیتھی سمجھ جاتی ہے البتہ وقت درکار ہے اور وہ بھی کم بیش تیس یوم جب کہ ایلو پیتھی نو ماہ کا کورس کروانے کے ساتھ ساتھ سالانہ ایک ماہ دوا کھانے کا مشورہ دیتی ہے۔ چند نسخہ جات حاضر خدمت ہیں بنا کر استعمال کیجئے اور شفا کا تناسب دیکھ کر آپ بھی اسلامی طریقہ علاج اپنا کر خوب خوب دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجئے۔

درج ذیل نسخہ جات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

367- تریاق اعلیٰ

عنایت: استاد الاطباء محقق طب جدید جناب محمد صابر ملتانی ملتان۔

ہوالشافی: شیر مدار پانچ تولہ نوشادر ٹھکری پانچ تولہ سہاگہ بریاں پانچ تولہ ہلدی دس تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نیم کوفتہ کر کے کڑا ہی میں ڈال کر نیچے آگ روشن کیجئے جب شیر مدار جذب ہو جائے اور مرکب قدرے سیاہی مائل ہو جائے تو فوراً سرد کر کے خوب بخود کی تیار فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ عرق سونف، عرق زیرہ اور عرق گلاب چار چار دن کے ہمراہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: جسم کے اندر رطوبات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیم تپ دق کو ختم کر کے جسم میں غلٹی گرمی پیدا کرتی ہے خون فوراً بند ہو جاتا ہے کھانسی اور بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض آہستہ آہستہ صحت مند ہو کر اس بیماری سے مستقل طور پر آزاد ہو جاتا ہے اکسیر ہاشم اور زنج بیلم ہے۔

368- حب دق

عنایت: جناب حکیم مہیندر سنگھ گجرات (ہند)۔

ہوالشافی: مغز بیدانہ ڈھائی تولہ، تخم دھتورہ ڈیڑھ تولہ، زب السوس ڈیڑھ تولہ، کافور چھ ماشہ، برگ بگ چھ ماشہ، ست گلو چھ ماشہ، طباشیر تین ماشہ، کونین دو ماشہ، ایون ایک ماشہ، کریازوٹ تین قطرے۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار کر لیجئے پھر کریازوٹ ملائیں اور پانی کی مدد سے بخود کی گلاب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دو گولی صبح دوپہر اور دو شام کو ہمراہ عرق مرکب دیجئے۔
فائدہ: سل و دق میں نہایت مفید و مجرب ہیں۔

369- دوائے دق

عنایت: جناب حکیم دلشاد صاحب کوٹہ۔

ہوالشافی: کشتہ گاؤنقی تین ماشہ، کشتہ ابرک سیاہ تین ماشہ، کشتہ ابرک سفید تین ماشہ، کشتہ بارہ گنما تین ماشہ، طباشیر ایک تولہ، الائچی سبز ایک تولہ، ست گلو ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورتی سے چار رتی ہمراہ شیر بکری تازہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: سل و دق میں لاجواب نسخہ ہے بنا کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیے۔

370- دق کشتہ

عنایت: جناب ابوالحسنات حکیم محمد عبدالمجید صاحب جو دھپور مارواڑ (ہند)۔

ہوالشافی: ہڑتال درقیہ درجہ اعلیٰ ایک تولہ (سالم ڈلی) آب نیم 750 ملی لیٹر
ترکیب تیاری: ہڑتال درقیہ کو ایک کڑا ہی میں ڈال کر اوپر ڈراپر سے آب نیم ڈالتے جاؤ گا کہ آب نیم خشک ہو جائے پھر ایک پاؤ برگ نیم کاغذ بنا لیجئے اور اس میں ہڑتال درقیہ

کر گل حکمت کر کے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال لیں نہایت سفید فوٹل بنے۔
 شفاف کشتہ برآمد ہوگا جو باوزن ہوگا سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے ڈیڑھ رتی ہمراہ شیر بکری دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: دق میں پچانوے فیصد کامیاب ہے۔

371- اکسیر اعظم

عنايت: جناب حکیم محمود علی صاحب فراشتانہ دہلی (ہند)۔
هو الشافى: طباشیر کبریا شمع ست گلو ہر ایک ایک تولہ زعفران الاچھی خورد، قنفل مہرہ خطائی ہر ایک تین ماشہ ورق طلاء ایک رتی، مروارید ناسفتہ۔ یشب ہر ایک ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت پورڈر مثل غبار کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: دق و سل کی اکثر حالتوں میں یہ دوا نہایت موثر ہے۔

372- کشتہ طلاء

عنايت: جناب حکیم قدرت اللہ صاحب سری نگر کشمیر۔
هو الشافى: برادہ طلاء برادہ فولاد برادہ خس، سیماب مصفی، سکہ مصفی، ایرک سفید ہر ایک تین ماشہ، کھیکھو ار کارس قدرے مناسب۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب کھیکھو ار میں دس یوم تک خوب کھل کیجئے خشک ہونے پر نکیہ بنا کر کوزی گلی میں گل حکمت کر کے دس کلو اوپلوں کی آگ دے دیں۔
ترکیب استعمال: دو چاول ہمراہ مسکہ استعمال کیجئے صرف روزانہ ایک خوراک دیجئے۔
فائدہ: جراثیم دق کو ہلاک کر کے چہرے کو سرخ اور جوانی کو از سر نو پیدا کر کے قدرتی حسن و جمال کرنے میں بے نظیر ہے۔

373- طباشیر پلوز

عنايت: جناب حکیم سید غوث محی الدین صاحب نیلور (ہند)۔
هو الشافى: طباشیر کبود ست گلو رب السوس، دانہ ہیل خورد، گل سرخ ہر ایک پانچ ماشہ کوزہ مصری پچیں ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: پانچ ماشہ صبح نہار منہ مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: دق کے پہلے اور دوسرے درجے میں نہایت کارآمد ہے۔ ٹمپریچر کو کم کرنے میں مفید

ہم تقانی فارمولے
 ہے پھر کو ختم کرتا ہے۔

374- دوائے سل و دق

عنايت: جناب حکیم رام ناتھ صاحب چک جھمرہ
هو الشافى: سرطان نہری سوختہ کشتہ سکنہ صدف مرواریدی کشتہ مرجان ہر ایک دو ماشہ کشتہ ایرک سفید ست گلو ہر ایک تین ماشہ کشتہ فولاد ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے محفوظ کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا میں ملا کر شیر بکری کے ساتھ استعمال کیجئے۔
فائدہ: سل کے زخم بھرے اور بخار کی شدت کو کم کر کے صحت مند بنانے میں مفید ہے۔

375- کشتہ اسود

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب چنیوٹ۔
هو الشافى: سرطان نہری سوختہ دو تولہ ورق طلاء سو عدد مروارید ناسفتہ چھ ماشہ زرشک شیریں آدھا پاؤ رب السوس ایک تولہ ایون تین ماشہ آب ملٹھی ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ملٹھی میں خوب سلق بلخ کیجئے اور بالکل مثل غبار ہونے پر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی روزانہ شربت ابریشم مرکب کے ساتھ صبح و شام دیجئے۔
فائدہ: یہ ایک صدوری نسخہ ہے جس کو ظاہر کرنے میں مجھے بھی بھل ہو رہا تھا مگر مخلوق کی محبت اور اسفادہ عام کے لئے عرض گزار ہو اور بلا کم و کاست عرض گزار ہوں دق و سل کا علاج واحد ہے ایلوپتھی اس کے آگے سرنگوں ہے اور کوئی دیگر دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مرض کو بیخ و بنیاد سے اکھیر کر دنیا کے سمندر میں غرق کر دیتی ہے آزمائے اور بتائے کیونکہ آزمائش شرط اول ہے۔


376- حب بلاور

عنايت: جناب حکیم احمد حسن خان نظامی صاحب دہلی (ہند)۔
هو الشافى: مٹھا تیلیہ، قنفل سفید دونوں ایک ایک تولہ دودھ بکری ڈیڑھ کلو گرام۔
ترکیب تیاری: دونوں کو پوٹلی میں باندھ کر دودھ بکری میں ڈال کر ڈول جنتر کے مطابق دیجئے یہاں تک کہ دودھ کا کھویا بن جائے بعدہ بوٹی نکال کر دواؤں کو باریک پورڈر بنا کر خوب تیار کر لیجئے جب کہ کھویا کو محفوظ الگ کر دیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح نہار منہ ہمراہ دودھ بکری دیجئے جب کہ کھویا کو کسی

عنايت: جناب حکيم بلديو پرشاد صاحب مراد آباد (ہند)۔
فائدہ: دق و سل میں نہایت مفید ہے۔

380- اکسیر دق

عنايت: جناب حکيم بلديو پرشاد صاحب مراد آباد (ہند)۔
هو الشافي: زہر مہرہ خطائی، سنگجراحت، کشتہ سفید کثیر، اصمغ عربی، خم ششاش، نشاستہ گندم، سیریز، خم تلخی ہر ایک سات سات ماشہ، کافور دو ماشہ، انبون دو ماشہ، زعفران چھ ماشہ، کشتہ مروارید سات ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل خبار بنا کر محفوظ فرمائیے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو رتی صبح دوپہر شام ہمراہ شربت اعجاز دیجئے مفید الاثر ہے۔
فائدہ: دق و سل میں نوے فیصد مفید مجرب ہے بنا کر خوب آزمائیے۔



کے مریض کو بقدر پانچ گرام روزانہ کھلا دیجئے۔
فائدہ: دق و سل کے متعدد مریضوں پر تجربہ کیا گیا ہے نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

377- تریاق دق

عنايت: جناب حکيم ابو ابرکات حکيم محمد اقبال صاحب داتا گنج بخش روڈ لاہور۔
هو الشافي: الاچھی خورد مرچ سیاہ، طہاشیر، بھلاوہ مدبر، ست گلو، کھرباشمی، کشتہ سنگجراحت، مٹائی مٹی، کشتہ یسپ، کشتہ عقیق سب برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے مثل خبار بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی ہمراہ دودھ بکری دیجئے روزانہ دو خوراک روزانہ دودھ بکری بڑھاتے طے جائیں حتیٰ کہ دو گلو دودھ روزانہ پی لے۔
فائدہ: دق کے بخار کو رفع کرنے کیلئے بے حد مفید دوا ہے کمزور مریض آہستہ آہستہ توانائی محسوس کرنے لگتا ہے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔

378- عرق کیمیا

عنايت: جناب حکيم امام بخش صاحب بہاولپور۔
هو الشافي: کافور پانچ تولہ، صندل سفید دس تولہ، صندل سرخ ایک پاؤ، پیٹھا تازہ چار گلو، گل گاوزبان ایک پاؤ، عناب دس تولہ، ابریشم مقروض دس تولہ، کشیز خشک دس تولہ، عرق بید مشک، عرق شفا، عرق کلو، عرق گلاب، عرق کیوڑہ ہر ایک ایک گلو، تازہ پانی چھ گلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کا قرع انبیق کے ذریعے عرق کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ سے ایک تولہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: تپ دق و سل میں نہایت ہی لاجواب ہے جب حرارت کی تیزی ہو اور مریض خون تھوکتا ہو اس وقت یہ نسخہ کیمیا ہے۔

379- کشتہ ابرک سیاہ

عنايت: جناب حکيم محمد بکرم الدین صاحب سیالکوٹ۔
هو الشافي: قلمی شورہ دس تولہ، پانی دو گلو، ابرک سیاہ پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: قلمی شورہ کو پانی میں حل کر کے ابرک کو اس میں بجھا دیں بار بار دیجئے ابرک کڑے ہو جائے گا پھر گروندہ سبز کے رس میں ابرک کو کھل کر کے سکورہ میں بند کر کے پانچ گلو ادویوں میں پھونک دیجئے کشتہ تیار ہوگا۔
ترکیب استعمال: ایک رتی شربت انجبار میں ملا کر چٹائیے دن میں تین مرتبہ۔

جلد کے امراض

جلد کی تشریح:

حکیم وڈاکٹر غلام جیلانی صاحب مخزن الجواہر میں جلد کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ جلد تمام جسم کی بیرونی سطح پر بطور پوشش یا غلاف کے واقع ہے یہ لبوں اور ناک کے نتھنوں اور پونوں اور کان کے سوراخوں اور مقعد کے کناروں پر اس جھلی سے ملتی ہے جو جسم کی اندرونی تجادیف میں استر کرتی ہے جس کو غشاء مخاطی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گویا جلد جسم کی بیرونی پوشش ہے اور غشاء مخاطی اور تجادیف جسم کا اندرونی استر ہے۔ جلد کے دو پرت ہوتے ہیں:

(1) بالائی پرت

(2) اندرونی پرت

بالائی پرت کو عربی میں بشرہ یا جلد کاذب اور انگریزی میں اپی ڈرمس یا کیوٹیکل کہتے ہیں جبکہ اندرونی پرت کو عربی میں آدمیہ یا جلد صادق اور انگریزی کو روم باڈرما کہتے ہیں۔ عروق و اعصاب بالوں کی جڑیں اور پسینہ کے غدود اسی تہہ میں ہوتے ہیں جلد کے اندر لاکھوں سوراخ ہوتے ہیں انہیں مسامات کہتے ہیں ان کے ذریعے فضلات بھی خارج ہوتے ہیں جلد کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔

داد (Ring Worm)

تعریف مرض:

یہ ایک مشہور مرض ہے جو دائرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔

وجوہات:

خرابی ہاضمہ، خرابی جگر، پیریائی، بخار، زہریلے ثرت، کثرت سودا، خشک ادویات کی بھرمار وغیرہ۔

علامات:

یہ مرض عموماً کمر، سر، گردن کے پچھلے حصہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی گول پھنسیاں اکتھی پیدا ہوتی ہیں شروع میں سوزش ٹیس اور جلن ہوتی ہے اکثر شدید خارش ہوتی

ہمس لقمائی فارمولے
تمام مرض پر داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

381- اکسیر داد

عنايت: جناب حکیم ابوالقاروق حکیم مخدوم محمد اعظم صاحب، بھیرہ شریف
ہو الشافی: شہد ایک تولہ، گوشت خورہ پانچ ماشہ۔
لاکھب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب حل کر لیجئے اور محفوظ فرما لیجئے۔
لاکھب استعمال: پہلے تین یوم سوڑھے کا پتہ خوب گرم کر کے اور کھی میں چرب کر کے
تمام داغ پر پاندھیں پھر بعد میں دوا مذکورہ لگا دیجئے۔
فائدہ: داد کے لئے بے حد مفید ہے۔

382- تریاق سوداوی

عنايت: جناب حکیم محمد عظیم صاحب نوگزہ میرٹھ (ہند)۔
ہو الشافی: روغن جمالگوٹہ ایک تولہ، روغن کشر آکل ایک تولہ، روغن عقرقر حاتین ماشہ۔
لاکھب تیاری: تینوں روغنوں کو ملا کر رکھ لیجئے۔
لاکھب استعمال: تین قطرے کپسول میں بند کر کے نگل لیجئے اوپر سے گرم گرم دودھ نوش
فرما لیجئے۔

فائدہ: آتشک، داغ، چنبل، بواسیر، خارش میں سو فیصدی مفید ہے۔

پہیز: تمام مصالحہ دار غذا میں دہی شیرینی اور سرخ مرچ سے پرہیز واجب ہے۔
(تخریج شدہ حکیم محمد عبد الوحید عطاری)

383- حب مصفا

عنايت: جناب حکیم محمد فضل الہی صاحب، راولپنڈی
ہو الشافی: ہر تال درقیہ ایک تولہ، لفل سیاه چہ ماشہ، شکر ف چہ ماشہ، منقی دو تولہ۔
لاکھب تیاری: پہلے تینوں دواؤں کو پانی کی مدد سے خوب کھل کیجئے پھر منقی ڈال کر پنے
مادہ گلیاں تیار کر لیجئے۔

لاکھب استعمال: ایک گولی بوت صبح تازہ پانی کے ہمراہ دیجئے۔

فائدہ: خون کو صاف کرتی ہے خارش، داغ، آتشک، چنبل، داد کے لئے نہایت مفید و مجرب ہے۔

384- دوائے داد

عنايت: جناب حکیم غلام غوث صاحب ڈنگہ گجرات۔

ہو الشافی: تخم ترب، تخم شلغم، نوشادر، گندھک آملہ سار ہر ایک تین تین ماش، طوطیا بزرگ، تولہ، مصری دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار پورڈر بنا کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: تھوڑی سی دوا لے کر لعاب دہن میں حل کر کے متاثرہ مقام پر ماش کیجئے۔

فائدہ: نہایت بھروسہ کا نسخہ ہے صرف تین مرتبہ لگانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

385- اکسیر داد

عنايت: جناب حکیم شبیر احمد انصاری صاحب راجو پورہ مظفر نگر (ہند)۔

ہو الشافی: گندھک آملہ سار ایک تولہ، مقل ارزق ایک تولہ، تخم ترب ایک تولہ، طوطیا بزرگ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مولیٰ کے پانے میں خوب کھل کیجئے اور لمبی لمبی گولیاں تیار کر کے محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: صرف پانی سے گھس کر مقام ماؤف پر لگا دیجئے۔

فائدہ: خواہ کیسے ہی نازک مقام پر داد ہو مریض کھلی سے جان بلب ہو نہایت بے نظیر ہے ہزاروں مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

386- مصفی ہار

عنايت: جناب حکیم محمد شفیق صاحب کاندھلہ۔

ہو الشافی: رسکپور دو تولہ، سم الفار سفید تین ماش، طباشیر دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور دو پیالوں میں گل حکمت کر کے بطریقہ معروف جوہر اڑائیں اور جوہر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو چاول ہمراہ مسئلہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: داؤ برس، خنازیر، خارش، جذام کے لئے اکسیر و مجرب ہے۔

پہیز: بادی و دیر ہضم غذاؤں سے پرہیز کیجئے۔

387- شربت صافی

عنايت: جناب حکیم رشید احمد صاحب دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ ملتان۔

ہو الشافی: زخم حیات پاؤ، پوست درخت نیم پانچ تولہ، نغ اندرائن پانچ تولہ، پوست شیشم پانچ تولہ، پوست سرس پانچ تولہ، پانی پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں بھگو دیجئے چوبیس گھنٹے بعد خوب جوش دیجئے جب پانی لڑکھب رہ جائے تو چینی تین کلو گرام ڈال کر شربت کا توام لے آئیے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو تولہ روزانہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: آتک، جذام، داؤ، جنبل، پھوڑے، پھنسی، جو رو غیرہ غرض دنیا بھر کی مصفی خون ادویات کی راج دوا ہے۔

388- مرہم اکسیری

عنايت: جناب حکیم محمد علی صاحب زپرہ فیروز پور (ہند)۔

ہو الشافی: روغن زرد پانچ تولہ، ڈنڈا اسکہ ایک عدد، برتن کانسی ایک عدد، کافور تین ماش، کھتہ سفید تین ماش۔

ترکیب تیاری: روغن زرد کو کانسی کے برتن میں ڈال کر سکھ کے ڈنڈے سے گھوٹیں جب سیاہ رنگ ہو جائے تو کافور اور کھتہ ملا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دن میں دو وقت مقام ماؤف پر لگائیے۔

فائدہ: مسوں کی تکلیف، داؤ، خارش کے لئے نہایت ہی جید الاثر دوا ہے۔

389- اکسیر مصفی

عنايت: جناب حکیم محمد عبدالکریم صاحب ملہاروشنگ (ہند)۔

ہو الشافی: پارہ گندھک آملہ سار، رال سفید، سہاگہ ہر ایک چھ ماش، عرق تلسی تین تولہ، دودھ بکری تین تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی کبلی تیار کر لیجئے بعد دیگر ادویات شامل کر کے خوب کھل کر لیجئے اور بخوردی جوہر تیار فرمایجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی باسی پانی میں رگڑ کر دواؤں و جنبل پر لگا دیا کیجئے۔

فائدہ: دو تین روز میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور مرض کا قلع قمع ہو جائے گا۔

392- دوائے صافی

عنايت: جناب حکیم خوشی رام صاحب نوالا شہر جالندھر (ہند)۔

ہو الشافی: گندھک آملہ ساز پارہ کیرد قلمی شورہ ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: ایک کڑا ہی کوردغن زرد سے چڑھ لیجئے پھر گندھک آملہ ساز کو اس میں ڈال کر گرم کریں تاکہ تیل کی مانند ہو جائے پھر اس میں پارہ ڈال کر ہلا دیجئے سیاہی مائل کشتہ تیار کیجئے۔ پھر کیرد ملا کر اچھی طرح ہلا دیجئے اور آخر میں قلمی شورہ بھی ملا کر خوب کھل کر کے ہلا دیجئے سرد ہونے پر کھل کر کے محفوظ رکھیں۔

عنايت: جناب حکیم فیض احمد خان صاحب مرلہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہو الشافی: رسکوز ہڑتال درتی، دارچینا، طوطیا، زنگار مسی، شکر ف روئی، سیماب ہر ایک ایک تولہ سم الفار چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پہلے سر پھوکہ کے پانی میں کھل کیجئے پھر کاغذی لیٹوں کے پانی میں کھل کیجئے دوئی ہانڈیوں میں رکھ کر گل حکمت کر کے بطریقہ معروف جوہر اڑائیں چار گھنٹے آگ دینے سے جوہر اوپر آجانے کا پوناشیم آیوڈائیڈ آٹھ تولہ ملا کر خوب کھل کیجئے اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

393- مصفین

عنايت: جناب حکیم تاضی عبدالحق انصاری صاحب توپ خانہ بازار راولپنڈی

ہو الشافی: چھال نیم، ہلیلہ زرد ہر ایک دو تولہ، عشبہ منڈی بوئی، شاہترہ، چوب چینی ہر ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پورڈر بنا لیجئے اور نگاہ رکھئے۔

عنايت: جناب حکیم محمد یاسین صاحب حویلی پاٹھے بنارس (ہند)

ہو الشافی: برگ مہندی، برگ نیم، شاہترہ، مندل سفید، مندل سرخ ہر ایک چار تولہ منڈی بولی آٹھ تولہ، چراتہ چھ تولہ، برادہ شیشم آٹھ تولہ، عناب پچاس دانہ، پانی پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں بھگو دیں بارہ گھنٹے بعد جوش دیجئے جب پانی ڈیڑھ کلو خشک ہو جائے ل چھان کر صاف کر لیجئے اور دو کلو چینی ڈال کر شربت تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام دو تولہ ہمراہ آب تازہ کس کر کے پی لیجئے۔

فائدہ: اعلیٰ درجہ کا مصفی خون شربت ہے پھوڑے پھنسیوں کو پر فح کرتا ہے بدن کو چمکا دیتا ہے بہترین مصفی خون ملائج ہے۔

394- کشتہ سنکھیا

عنايت: جناب حکیم ملا محمد علی صاحب ناگلواری تماڑا اندور (ہند)

ہو الشافی: سم الفار ایک تولہ، حزل چار کلو۔

ترکیب تیاری: حزل کو باریک پورڈر بنا کر اس کا نغده تیار کر لیجئے اور سم الفار درمیان میں رکھ کر کڑی فرما کر دس کلو ادیوں کی آگ دیجئے، کشتہ تیار ہو جائے گا سرد ہونے پر نگاہ کر حفاظت رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول روزانہ حلوہ ترہہ تر کھی دیسی میں رکھ کر تناول فرما لیجئے۔

فائدہ: مصفی خون نہایت بے نظیر ہے آتشک، خنازیر، داڑ، چنبل، کوزہ تک رفع کر دیتا ہے مقوی

مصفی خون نسخہ جات

اکثر اوقات موسم کے باعث یا اعضاء میں خرابی کے باعث خون کے اندر تہذیبیاں پیدا ہو کر جسم پر پھوڑے پھنسیاں کیل مہاسے چھائیاں خارش، داڑ، چنبل، آگزیمیا وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا ان کے لئے چند خاص الحام مفید و مجرب نسخہ جات پیش خدمت ہیں دل کے گلدستے میں سجا کر ان کی خوشبوؤں سے دماغ کو معطر کیجئے۔

390- جوہر اعظم

عنايت: جناب حکیم فیض احمد خان صاحب مرلہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہو الشافی: رسکوز ہڑتال درتی، دارچینا، طوطیا، زنگار مسی، شکر ف روئی، سیماب ہر ایک ایک تولہ سم الفار چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پہلے سر پھوکہ کے پانی میں کھل کیجئے پھر کاغذی لیٹوں کے پانی میں کھل کیجئے دوئی ہانڈیوں میں رکھ کر گل حکمت کر کے بطریقہ معروف جوہر اڑائیں چار گھنٹے آگ دینے سے جوہر اوپر آجانے کا پوناشیم آیوڈائیڈ آٹھ تولہ ملا کر خوب کھل کیجئے اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: گرم و خشک مزاجوں کو مکھن میں جب کہ سرد مزاجوں کو منقی میں رکھ کر ایک چاول سے دو چاول صبح کھانے کے بعد دیجئے۔

فائدہ: خرابی خون کے لئے نہایت مجرب اور مطب کا خاص نسخہ ہے۔

عنايت: جناب حکیم محمد یاسین صاحب حویلی پاٹھے بنارس (ہند)

ہو الشافی: برگ مہندی، برگ نیم، شاہترہ، مندل سفید، مندل سرخ ہر ایک چار تولہ منڈی بولی آٹھ تولہ، چراتہ چھ تولہ، برادہ شیشم آٹھ تولہ، عناب پچاس دانہ، پانی پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں بھگو دیں بارہ گھنٹے بعد جوش دیجئے جب پانی ڈیڑھ کلو خشک ہو جائے ل چھان کر صاف کر لیجئے اور دو کلو چینی ڈال کر شربت تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام دو تولہ ہمراہ آب تازہ کس کر کے پی لیجئے۔

فائدہ: اعلیٰ درجہ کا مصفی خون شربت ہے پھوڑے پھنسیوں کو پر فح کرتا ہے بدن کو چمکا دیتا ہے بہترین مصفی خون ملائج ہے۔

391- شربت مصفد

عنايت: جناب حکیم محمد یاسین صاحب حویلی پاٹھے بنارس (ہند)

ہو الشافی: برگ مہندی، برگ نیم، شاہترہ، مندل سفید، مندل سرخ ہر ایک چار تولہ منڈی بولی آٹھ تولہ، چراتہ چھ تولہ، برادہ شیشم آٹھ تولہ، عناب پچاس دانہ، پانی پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں بھگو دیں بارہ گھنٹے بعد جوش دیجئے جب پانی ڈیڑھ کلو خشک ہو جائے ل چھان کر صاف کر لیجئے اور دو کلو چینی ڈال کر شربت تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح دوپہر شام دو تولہ ہمراہ آب تازہ کس کر کے پی لیجئے۔

فائدہ: اعلیٰ درجہ کا مصفی خون شربت ہے پھوڑے پھنسیوں کو پر فح کرتا ہے بدن کو چمکا دیتا ہے بہترین مصفی خون ملائج ہے۔

عنايت: جناب حکیم ملا محمد علی صاحب ناگلواری تماڑا اندور (ہند)

ہو الشافی: سم الفار ایک تولہ، حزل چار کلو۔

ترکیب تیاری: حزل کو باریک پورڈر بنا کر اس کا نغده تیار کر لیجئے اور سم الفار درمیان میں رکھ کر کڑی فرما کر دس کلو ادیوں کی آگ دیجئے، کشتہ تیار ہو جائے گا سرد ہونے پر نگاہ کر حفاظت رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول روزانہ حلوہ ترہہ تر کھی دیسی میں رکھ کر تناول فرما لیجئے۔

فائدہ: مصفی خون نہایت بے نظیر ہے آتشک، خنازیر، داڑ، چنبل، کوزہ تک رفع کر دیتا ہے مقوی

395- کندن

عنايت: جناب حکیم شیخ محمد حسین صاحب جو دھپور مارواڑ (ہند)

ہوالہ شافی: روغن گاؤ قد سفید آب صمغ صندل میدہ گندم ہر ایک آدھا کلو طہا شہر

موسلی سفید انڈین ثعلب مصری ہر ایک دو تولہ الاچھی خورد چار تولہ باچھڑ دار چینی دو تولہ

ترکیب تیاری: پہلے چاروں ابتدائی اجزاء کا حلوہ تیار کر لیجئے بعدہ دیگر اجزاء نہایت باریک کر کے شامل فرمایئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: تین تولہ صبح و شام ہمراہ شیر بکری یا گاؤ دیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ درجہ کا مصفی خون ہے مقوی باہ ہے اور بدن کو از حد طاقت عطا کرنے میں

سے اپنی مثال آپ ہے۔

396- دوائے اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم قیصر نوید صاحب سرگودھا۔

ہوالہ شافی: عشب دو تولہ چراسہ چار تولہ میگنیشیا دس تولہ پانی ڈیڑھ کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے ابتدائی دونوں دواؤں کو خوب خوب دیجئے جب پانی آدھ حصہ رہ جائے

تو میگنیشیا حل کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات سوتے وقت ایک اونس لیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ مصفی خون ہے تبدیلی موسم کے باعث پیدا ہونے والی جلدی امراض میں

خصوصیت سے مفید ہے پھوڑے پھنسیاں اور پت وغیرہ کو بھی رفع کرتا ہے نہایت جید اثر ہے۔

397- دوائے سار سپریلا خاص

عنايت: جناب حکیم جہانگیر کرامت صاحب گلگوار کشمیر۔

ہوالہ شافی: لائیگوار آرسنی چھ تولہ پونا شیم آئیوڈائیڈ ریکی فائیڈ سپرٹ ہر ایک دو تولہ

ہوئی یعنی قدرے مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آپس میں ملا کر محفوظ رکھئے یہ بالکل دوائی سار سپریلا کے

مقام ہے۔

ترکیب استعمال: ایک ڈرام دوا ایک اونس پانی میں ملا کر بعد غذا دو وقت استعمال کیجئے۔

فائدہ: مصلی خون اعلیٰ درجہ کی ہے مومکی اثرات کے باعث ہونے والے امراض میں

خارش خشک وتر میں مفید ہے۔ آتشک کے ماروں کو مؤثر ہے۔

چھپا کی

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

مرض بھی خون میں حدت یا کثرت تیزابیت یا زہریلے مادے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

خارش

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
خارش	فکھ	پرورا ایگو

مرض:

معدی کے فقدان کے باعث جسم پر گردن سینہ بغل یا دیگر مقامات پر خارش ہونے لگتی

ہوتی ہے۔ خارش دیر تک کرتے کرتے اکثر اوقات جلد چھل کر خون بھی نکل آتا ہے جبکہ

خارش کی دو مشہور اقسام ہیں:

(2) تر خارش

خاک خارش

ترخارش خشک ہو یا تر دونوں کے اسباب قریب قریب ہیں مثلاً دونوں میں ترشی اور تیزابیت کی زیادتی شامل حال ہے ترخارش میں ہلکی رطوبت خون میں موجود ہوتی ہے تیزابیت کی زیادتی کے باعث یہی رطوبت غلیظ و سیاہ ہونے لگتی ہیں اور خشکی بھی نمایاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریانوں اور وریدوں میں دوران خون میں رکاوٹ کے باعث رکاوٹ کے مقام پر پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ متاثرہ مقام پر ہلکی ہلکی خارش ہونے لگتی ہے۔ مارے کی بیشی کے لحاظ سے خارش میں کمی بیشی یعنی ہے۔ اکثر مارے کی کمی بیشی کے باعث مقامات پر خارش ہوتی ہے جب کہ مارے کی زیادتی کے باعث پورے وجود میں خارش پیدا ہو جاتی ہے نیز متاثرہ مقام سے لیسدار پانی بھی نکلتا ہے۔

خشک خارش:

حقیقی خشک خارش بھی ترشی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے مگر اس میں ہلکی رطوبت بالکل نہیں ہوتی بلکہ یہ رطوبت خشک ہو چکی ہوتی ہیں اسی وجہ سے جسم سوزش ناک ہو جاتا ہے مریض چاہے جتنی مرضی خارش کرے نہ ہی پھنسی بنتی ہے اور نہ ہی خون نکلتا ہے البتہ جسم لکیریں سی بن کر جسم زخمی ہو جاتا ہے اکثر خشک خارش کے باعث جلد کھردری ہو جاتی ہے جو جاتی ہے۔ مریض شدید بے چینی اور گھبراہٹ اور جلن محسوس کرتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب کر کے علاج کیجئے۔

398- تریاق خارش

عنایت: جناب حکیم محمد سرور الدین صاحب کوہاٹ۔

ہو الشافی: گندھک آملہ سار قسط تلخ باجی انبہ ہلدی ہر ایک چھ ماشہ پانی چھناک۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو جو کوہ کر کے سولہ گھنٹے تک پانی میں بھگو دیتے پھر اس کو چھناک تیل سروسوں ڈال کر آگ پر رکھ دیتے جب پانی جل جائے ادویات سیاہ ہو جائیں تیل فلٹر کر کے سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: خارش زدہ مقام پر خوب مالش فرمائیجئے۔

فائدہ: خشک و تر خارش میں سوسالہ مجرب نسخہ ہے بنا کر مخلوق کی دعائیں لیجئے۔

399- اکسیر خارش

عنایت: جناب حکیم جلال الدین صاحب رادیتانی نواب شاہ باب الاسلام سندھ۔

ہو الشافی: کالی زیری کیرڈ گندھک آملہ سار برابر مقدار۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح جب کہ چھ ماشہ صرف دوپہر کو دہی کے ہمراہ دیتے بقیہ چھ ماشہ دوپہر یا شام کے وقت تیل میں پورے بدن پر خوب مالش کیجئے۔

فائدہ: پہلے دن ہی فائدہ ہوگا البتہ پرہیز واجب ہے خارش خشک و تر میں مفید ہے۔

صرف دودھ چاول یا دھی میٹھی دیتے ہائی ہر چیز بند کر دیتے۔

400- دوائے خارش

عنایت: جناب حکیم محمد اکبر صاحب جلال پور آلہ آباد (ہند)۔

ہو الشافی: پارہ گندھک آملہ سار کلا چھڑ سفیدہ ہر ایک چھ ماشہ نیلا تھوٹھا چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے پارہ گندھک کی کجلی بنا کر پھر باقی ادویات ہر ایک کر کے اس میں ملا کر کرل کریں اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ دوا ایک تولہ مکھن جو متعدد مرتبہ دھویا گیا ہو میں خوب ملا کر دو رات مالش کریں۔

فائدہ: ہر قسم کی خارش تقریباً اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔

پرہیز: تمام تیل والی اشیاء کھٹی اور سرخ مرچ سے پرہیز ضروری ہے۔

401- مرہم خارش

عنایت: جناب حکیم محمد عظیم صاحب کنجاہ گجرات۔

ہو الشافی: پارہ گندھک آملہ سار کیلا باجی سندھوز لفلل سیاہ نیلا تھوٹھا مشک کافور ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی کجلی تیار فرمائیجئے پھر دیگر ادویات ہر ایک کر کے ملا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ دوا دو تولہ مکھن جو دھویا گیا ہو میں ملا کر خوب حال کریں اور پارے جسم پر خوب مالش کریں۔

فائدہ: تین چار یوم میں ہر طرح کی خارش نابود ہو کر صحت کلی حاصل ہوگی۔ (ان شاء اللہ)

(زویل)

402- دوائے خارش

176

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکيم عبدالرحيم صاحب خیر پور میرس باب الاسلام سندھ۔
هو الشافى: برگ کنیر خشک دو تولہ گندھک آملہ سار ایک تولہ روغن سرسوں پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر روغن سرسوں میں مکس کر کے آگ پر رکھنے تک مرہم سی بن جائے مگر آگ نرم ہو بعد اتار کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات سوتے وقت متاثرہ مقام پر مالش کیجئے صبح اٹھ کر گرم پانی سے غسل فرمائیجئے۔

فائدہ: دوسرے تیسرے روز خارش سے جان چھوٹ جائے گی مفید و مجرب آزمودہ ہے۔

پھنسی، پھوڑا، برن، بائل ایب سس

(Boil Abscess)

تعریف مرض:

اکثر موسم کی تبدیلی یا کثرت سودا کے باعث پھنسی پھوڑے نکل آتے ہیں۔

وجوہات:

اکثر جسم میلا پھیلا رہنے سے یا خون کی خرابی سے یہ شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔

علامات:

پھنسی کی صورت میں جلد پر سوجن ہو جاتی ہے بعض اوقات پیپ پڑ جاتی ہے جلد متورم اور درد بھنی ہوتا ہے وغیرہ۔

403- مرہم اسود

عنايت: جناب حکيم حسن محمد قریشی صاحب چودھری والا بنالہ (ہند)

هو الشافى: سندھور چار تولہ روغن کچھ دس تولہ نیلا تھو تھا ایک ماش۔

ترکیب تیاری: پہلے روغن کچھ کو کڑا ہی میں ڈال کر خوب گرم کیجئے پھر سندھور ڈال کر ہلانے رہیں یہاں تک کہ رنگت سیاہ ہو جائے تو چولہا بند کر کے نیلا تھو تھا باریک ڈال دیجئے مرد ہونے تک مرہم کو کھونٹے رہیں مرہم سخت ہو کر لاجواب تیار ہو جائے گی۔

ترکیب استعمال: پھیلائے ہوئے زخم پر لگا دیجئے۔

177

شہس لقمائی فارمولے

عنايت: جب زخم یا پھوڑا اچھا ہو جائے تو یہ پھیلائے خود بخود اتر جائے گا نہایت مفید مرہم ہے۔

404- مسیحائی

عنايت: جناب حکيم شایم نرائن صاحب جھنگ۔

هو الشافى: گندہ بروزہ نیلا تھو تھا زنگار پچاس پچاس ربی، تیل سرسوں 250 گرام۔

ترکیب تیاری: پہلے بروزہ کو پانچ چھ مرتبہ اچھی طرح دھو لیجئے پھر دیگر ادویات ملا کر روغن میں لگا کر خوب گھوٹیں مرہم سی بن جائے گی محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: پھوڑے وغیرہ پر لگا دیں۔

فائدہ: پھوڑے پھنسی وغیرہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

405- مرہم جادو

عنايت: جناب حکيم محمد اسید رضا مدینہ المرشد کراچی۔

هو الشافى: روغن کچھ پاؤ، سندھور آدھا پاؤ، رال سفید گندہ بروزہ ہر ایک ایک تولہ، موم سفید ایک تولہ، مردار سنگ چھ ماش، نیلا تھو تھا ایک ماش۔

ترکیب تیاری: اول روغن کچھ کڑا ہی میں ڈال کر چولہے کو روشن کیجئے پھر سندھور ڈال کر ہلانے رہیں یہاں تک کہ آئل سیاہ ہو جائے بعدہ دیگر ادویات پورڈر بنا کر ڈال کر خوب ہلائیے اور آگ بند کر کے کڑا ہی کو ایک پانی میں بھیگی ہوئی بوری پر رکھ کر ڈھکے سے خوب گھوٹیں کر مرہم بن جائے اور سرد ہو جائے پھر ڈبیوں میں محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ذرا سی مرہم آگ پر سینک کر پھوڑے یا پھنسی پر چپکا دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کے پھوڑے پھنسی، ذیل زخم آگ سے جلے ہوئے مقام پر لگانے سے متاثرہ مقام بہت مند ہو جاتا ہے تمام مرہمیں اس کے آگے بیچ ہیں پھوڑا پکانا پھوڑنا اور صحت مند کرنا ب اسی مرہم سے انجام پاتے ہیں زخم درست ہونے پر پھیلائے اترتا ہے حاجت مندوں کو دے کر ذب کا انبار حاصل کیجئے۔

406- نشتری لوشن

عنايت: جناب حکيم محمد عمران قادری صاحب مدینہ المرشد کراچی

هو الشافى: تیزاب گندھک ایک تولہ، سادہ پانی منرل وارڈ دس تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: متاثرہ حصہ پر دن میں تین چار مرتبہ پھیلائے سے لگا دیجئے۔

فائدہ: جو درم ابھی خام ہو بیٹھ جائے اور اگر نیم پختہ ہو تو پک کر پھٹ جانے میں دنیا کی چوٹی

علاج: درج ذیل مجربات میں سے علاج کیجئے۔

408- طاعونی پھایہ

عنايت: جناب حکیم فقیر محمد صاحب بیچ پیر جالندھر (ہند)۔
ہوالشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، افیون ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب ملا کر لہسن کے عرق میں گوندھ کر چھ پھائے تیار کیجئے۔
ترکیب استعمال: ورم پر ہر دو دو گھنٹے بعد ایک ایک پھایہ چپڑ کر لگاتے رہئے اور اوپر پیاز بون کر باندھ دیجئے اور توے پر کپڑا گرم کر کے پیش برابر رکھئے پھر دو گھنٹے بعد نیا پھایہ لگاتے رہئے۔

فائدہ: اگر پہلے دن ورم نہ پکا تو یقیناً دوسرے دن ضرور پک جائے گا اور پک کر پھوٹ جائے گا نہایت مفید و مجرب ہے۔

409- حب طاعون

عنايت: جناب حکیم خواجہ محمد علی صاحب دھوبی گھاٹ کراچی

ہوالشافی: گل ارمنی، جدوار خطائی، تخم لیموں، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک چھ ماشہ، کافور ایک ماشہ، رن نیلوفر بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق نیلوفر میں سلق کیجئے اور جنگلی بیر کے برابر خوب تیار فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ عرق گاؤزبان صبح، دوپہر، شام دیجئے۔

فائدہ: ہزاروں مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے طاعون میں بے حد مفید ہے۔

410- اکسیر طاعون

عنايت: جناب حکیم شیخ محمد عبداللہ صاحب تلونڈی چودھریاں کپورتھلہ (ہند)

ہوالشافی: اجوائن دیسی آٹھ تولہ، فلفل سیاہ پانچ تولہ، زنجبیل ایک تولہ، پوست ہلیلہ کلاں دو

تولہ، زیرہ سیاہ ایک تولہ، پوست بیخ مدار دو تولہ، نمک دیسی آٹھ تولہ، تیزاب گندھک پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور تیزاب گندھک قطرہ قطرہ ڈال کر کھرل کتے رہیں۔ تمام تیزاب ختم ہو جائے تو شیشے کی بوتل میں ڈال کر منہ اچھی طرح بند کر دیجئے

چمکھنے پڑا رہنے دیجئے تاکہ رنگت دوا سیاہ ہو جائے پھر محفوظ رکھئے۔

کی بلتی دوا ہے۔ اکثر ذہل پھوڑے وغیرہ کو نشتر کرتے ہیں مریض گھبراتا ہے طب یونانی کے موجدوں نے ایسی ایسی لائانی ادویات ایجاد کی ہیں کہ عقلمیں دنگ رہ جاتی ہیں الحمد للہ عزوجل۔

407- پھٹی

عنايت: جناب حکیم خلیل الرحمن نقشبندی کوٹلی کشمیر۔

ہوالشافی: نیلا تھوٹھا چاررتی، سہا کہ ایک ماشہ، میدہ گندم چھ ماشہ پانی حسب ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر پانی میں ملا کر آگ پر پکا نہیں جب مرہم کی بنا جائے تو

ترکیب استعمال: گرم گرم ہی بقدر برداشت لپ کر دیجئے۔

فائدہ: چند گھنٹوں میں پھوڑے کو پکا دے گا اور مواد خارج ہو جائے گا۔

نوٹ: زخم کو مندل کرنے کے لئے مرہم جادو کا استعمال کیجئے۔

طاعون / اگنی روہنی / پلگ

(Plague)

تعریف مرض:

یہ مرض بھی وبائی صورت میں پیدا ہوتا ہے یہ دراصل چوہوں کی وباء ہے جس میں انسان بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔

وجوہات:

جب چوہوں میں وباء پھیلتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں اور ان میں سے پسو پیدا ہو کر یہ پو مریض کو کاٹنے سے مرض انسانوں میں پھیلتی ہے مریض کے بستر، کھانے پینے کے سامان وغیرہ سے بھی مرض کی چھوت لگ جاتی ہے۔

علامات:

چھوت لگنے سے تقریباً آٹھ روز بعد مریض شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے سخت درد ہوتا ہے گلا دکھنے لگتا ہے نیز الٹیاں بھی آنے لگتی ہیں بخار کے بعد جلد سے سبوس جھرنے لگتی ہے۔

پس تمہاری فارمولے
(2) تریب سفید پانچ تولہ، زخمیل پانچ تولہ، نبات سفید دس تولہ۔
نمبر 1 خوب گرینڈ کر کے مکھن میں ملا کر مرہم بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
نمبر 2 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 3 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 4 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 5 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 6 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 7 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 8 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 9 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 10 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 11 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 12 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 13 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 14 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 15 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 16 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 17 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 18 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 19 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 20 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 21 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 22 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 23 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 24 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 25 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 26 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 27 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 28 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 29 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 30 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 31 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 32 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 33 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 34 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 35 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 36 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 37 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 38 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 39 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 40 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 41 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 42 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 43 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 44 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 45 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 46 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 47 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 48 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 49 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 50 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 51 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 52 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 53 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 54 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 55 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 56 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 57 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 58 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 59 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 60 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 61 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 62 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 63 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 64 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 65 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 66 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 67 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 68 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 69 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 70 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 71 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 72 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 73 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 74 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 75 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 76 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 77 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 78 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 79 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 80 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 81 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 82 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 83 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 84 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 85 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 86 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 87 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 88 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 89 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 90 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 91 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 92 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 93 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 94 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 95 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 96 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 97 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 98 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 99 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
نمبر 100 خوب گرینڈ کر کے پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

نہایت اکیسیر الاثر موثر شدید خنازیر کا نسخہ ہے بنا کر خوب عزت بڑھائیے۔

413- تریاق خنازیر

عنایت: جناب حکیم خدا بخش قادری صاحب چک نمبر 429 بہاول نگر۔

ہو الشافی: جنگلی چوہا سفید ایک عدد قد سیاہ کہنہ دس تولہ۔

ترکیب تیاری: چوہے کی دم کاٹ کر کھال اتار کر خوب قیمہ بنا لیجئے اور قد سیاہ ملا کر خوب

باریک کر لیجئے اور خوب بقدر خود تیار کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: ہزاروں مرتبہ کا مجرب و مفید دوا ہے۔

پہنچا: سرخ مرچ ترش اغذیہ وغیرہ سے پرہیز واجب ہے۔

414- دوائے خنازیر

عنایت: جناب حکیم سلطان بخش انصاری صاحب کراڑی ہوشیار پور (ہند)۔

ہو الشافی: تھوہر ناگ بھنی کے پھول ایک تولہ روغن سرسوں سیاہ خالص تین تولہ۔

ترکیب تیاری: روغن سرسوں کو کڑا ہی میں ڈال کر خوب گرم کر کے آگ سے اتار کر پھول

ذکر نہایت باریک کر کے ڈال دیجئے اور تیل محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دن میں دو مرتبہ یہ تیل گلیوں پر مل دیا کریں۔

فائدہ: دس سے اکتالیس دن کا کورس ہے۔ خنازیر کی گلیاں مکمل تحلیل ہو جائیں گی اور پھر

دوبارہ مرض نمودار بھی نہ کرے گا سو فیصد مجرب شرطیہ مکمل شفا بخشنے والا نسخہ ہے۔

415- اکیسیر خنازیر

عنایت: جناب زبدۃ الحکماء استاد الاطباء حکیم حافظ محمد سعید دہلوی صاحب کھاری ہادلی کوچہ

لب مرزا مکان نمبر 20 دہلی (ہند)۔

ہو الشافی: گھوچی سرخ ایک تولہ، طوطیا سبز ایک تولہ، روغن نیم تین تولہ، روغن کنجد تین تولہ۔

ترکیب استعمال: ہر چار گھنٹے بعد ایک ماشہ ہمراہ عرق گلاب دیجئے۔

فائدہ: مرض طاعون ختم کرنے میں بے مثال نسخہ ہے۔

نسخہ نمبر 62 ملاحظہ فرمائیے۔

خنازیر / کنٹھ مالا / ہجیراں

(Scrufula)

تعریف مرض:

اس مرض میں گردن کے غدود پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں۔

اسباب:

جدید تحقیقات کے مطابق اس مرض کا باعث مادہ سل ہے شرابی والدین یا مرض موروثی

بھی ہو سکتا ہے۔

علامات:

گردن کے غدود پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں یہ گلیاں الگ الگ نظر آتی ہیں

کمزور بچوں میں سلی مادہ کی موجودگی سے گردن کے غدود پھول جاتے ہیں یا بعض اوقات پیٹ

میں گلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

411- روغن خنازیر

عنایت: جناب حکیم سید احسان حسین صاحب دھوڑی میرٹھ (ہند)۔

ہو الشافی: پنجال کبوتر صحرائی تین ماشہ، کشینز آبی تین ماشہ، شیر مدار بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو شیر مدار میں کھل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: متاثرہ مقام پر ہلکا ہلکا لپ کر دیجئے۔

فائدہ: ان شاء اللہ عذوجل ایک ہفتہ میں خنازیر ختم ہوگی اور مزید زخم ایک ہفتہ بعد ختم ہو جائیں

گے۔

412- اکیسیر خنازیر

عنایت: جناب حکیم گل حسین شاہ صاحب چھوکر کلاں گجرات۔

ہو الشافی: (1) قفل سیاہ نیلا تھوٹھا، برگ حنا سرخ ہر ایک ایک تولہ، مسکہ (دھلا ہوا) آدھا

ترکیب تیاری: روغنیاں کو خوب گرم کر کے گھونچ کر ڈال کر جلا دیجئے پھر طوطیا نہایت باریک کردہ ڈال دیجئے اور آگ سے فوراً نیچے اتار دیں رگڑ کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دن میں دو تین مرتبہ خنازیر پر لگا دیا کریں۔
فائدہ: خنازیر گلیوں کو تحلیل کرنے میں بے نظیر مجرب نسخہ ہے۔

416- اکسیر خبیثہ

عنايت: جناب حکیم محمد شفیق احمد صاحب موتی بازار مرکز الاولیاء لاہور۔
ہو الشافی: سم الفار سفید چوب چینی، ازرائی، فلفل سیاہ، فلفل دراز ہر ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے اکٹالیں یوم تک آب اورک میں کھل کیجئے اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: بھکندہ اور ہر قسم کے باطنی پھوڑوں اور ہر وقت بہنے والے زخموں کے لئے اکسیر الازر ہے۔ خنازیر، ناسور، بھکندہ اور دیگر زخم ہائے خبیثہ کو جب خارجی علاج سے فائدہ نہ ہو تو یہ گولیاں اندرونی طور پر استعمال کیجئے لاجواب کامل الاکمل نسخہ ہے۔

417- شفاقی

عنايت: جناب حکیم عبدالطیف بہاری صاحب پٹیالہ (ہند)۔
ہو الشافی: رسکپور ایک تولہ، گندھک آملہ سار دس تولہ۔
ترکیب تیاری: رسکپور کو کڑا ہی میں آگ پر رکھئے اور گندھک آملہ سار کی چنگی دیتے رہئے جب ایک چنگی جل جائے تو پھر دوسری چنگی دیجئے گندھک ختم ہونے پر سرد کر کے باریک کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: دورتی ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: بھکندہ، جذام، آتشک، بواہر، آتشک میں اکسیر الازر اور مجرب لاجواب دوا ہے۔

418- اکسیر جذام

عنايت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب اندرون بازار گورداسپور (ہند)۔
ہو الشافی: عرق پیاز سفید تیس تولہ، عرق اورک چالیس تولہ، عرق حنظل اسی تولہ، پوست درخت کرنجہ کا عرق بیس تولہ، روغن کنجد اسی تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام عرقیات کو روغن کنجد میں ڈال کر خوب ایالیں جب $\frac{3}{4}$ حصہ عرق جل جائے تو سفوف خربق سیاہ گیارہ تولہ ڈال دیجئے جب بالکل عرق جل جائے تو فلٹر کر کے محفوظ

ترکیب استعمال: روزانہ تین ماشہ سے لے کر ایک تولہ مزاج کے مطابق استعمال کیجئے۔
فائدہ: جذام کے لئے لاجواب تیر بہدف تجربہ شدہ دوا ہے نیز دیگر معضی خون امراض میں یقینی

419- تریاق جذام

عنايت: جناب حکیم بنڈت انوپ سنگھ امین نگر میرٹھ (ہند)۔
ہو الشافی: ہڑتال طبعی دس تولہ، مرچ سیاہ دس تولہ، عرق اورک بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو پانچ مرتبہ تر و خشک عرق اورک میں کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے تین ماشہ دن میں دو وقت مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: جذام کو نابود کرنے میں اکسیری تجربہ شدہ لاثانی نسخہ ہے بنا کر فوائد اٹھائیے۔ تین ماہ تک دوا جاری رکھئے۔

420- حب آر سینگی

عنايت: جناب حکیم ایسے جے رمانند کپرت پور ہوشیار پور (ہند)۔
ہو الشافی: سم الفار سفید ڈیڑھ ماشہ، فلفل سیاہ چھ ماشہ، مویز منقی بیس عدد۔
ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو نہایت باریک کھل کیجئے پھر منقی ڈال کر جنوب بخودی تیار فرمایئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: آتشک کے لئے ایک گولی منقی میں رکھ کر استعمال کیجئے اور بعدہ شیر گاؤ بکرت پی لیجئے۔ جذام، فاج، لقوہ کے لئے ایک حصہ نیم گرم پانی سے کھالیجئے اور دودھ سے پہیز کر دئیے مگر روغن زرد بکثرت دیجئے۔
فائدہ: آتشک، جذام، فاج، لقوہ کے لئے بے حد مفید ہے فائدہ اٹھائیے۔

421- اسراری

عنايت: جناب حکیم غلام رسول صاحب جالندھر (ہند)۔
ہو الشافی: پارہ پانچ تولہ، گندھک پانچ تولہ، مغز جما لگوٹہ پانچ تولہ، سنک بھری پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی کجلی تیار کیجئے پھر دیگر دونوں ادویات ڈال کر خوب کھل کیجئے پھر مٹی کے کورے برتن میں پھیلا دیجئے اور تھوڑا سا پانی بھی لگا دیجئے تاکہ جما لگوٹہ کٹری کم ہو جائے خشک ہونے پر دوا محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دورتی دوا روزانہ دودھ گرم سے کھلائیں۔

ترکیب تیاری: روزانہ تین ماشہ سے لے کر ایک تولہ مزاج کے مطابق استعمال کیجئے۔
فائدہ: جذام کے لئے لاجواب تیر بہدف تجربہ شدہ دوا ہے نیز دیگر مصنفی خون امراض میں یقینی

419- تریاق جذام

عنايت: جناب حکیم پنڈت انوپ سنگھ امین نگر میرٹھ (ہند)۔
ہوالشافی: ہڑتال طبعی دس تولہ، مرج سیاہ دس تولہ، عرق ادرک بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو پانچ مرتبہ تر و خشک عرق ادرک میں کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے تین ماشہ دن میں دو وقت مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: جذام کو نابود کرنے میں اکیسری تجربہ شدہ لاثانی نسخہ ہے بنا کر فوائد اٹھائیے۔ تین ماہ تک دوا جاری رکھئے۔

420- حب آریسکی

عنايت: جناب حکیم ایسے جے رمانند کپرت پور ہوشیار پور (ہند)۔
ہوالشافی: سم الفار سفید ڈیڑھ ماشہ، فلفل سیاہ چھ ماشہ، مویز منقی بیس عدد۔
ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو نہایت باریک کھرل کیجئے پھر منقی ڈال کر جنوب بخودی پار فرمایجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: آتشک کے لئے ایک گولی منقی میں رکھ کر استعمال کیجئے اور بعدہ شیر گاؤ بکرت پی لیجئے۔ جذام، فالج، لقوہ کے لئے ایک حصہ نیم گرم پانی سے کھالیجئے اور دودھ سے پہیز کروائیے مگر روغن زرد بکثرت دیجئے۔
فائدہ: آتشک، جذام، فالج، لقوہ کے لئے بے حد مفید ہے فائدہ اٹھائیے۔

421- اسرارکی

عنايت: جناب حکیم غلام رسول صاحب جالندھر (ہند)۔
ہوالشافی: پارہ پانچ تولہ، گندھک پانچ تولہ، مغز جما لگوٹہ پانچ تولہ، سنک بھری پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی کجلی تیار کیجئے پھر دیگر دونوں ادویات ڈال کر خوب کھرل کیجئے پھر مٹی کے کورے برتن میں پھیلا دیجئے اور تھوڑا سا پانی بھی لگا دیجئے تاکہ جما لگوٹہ کی تیزی کم ہو جائے خشک ہونے پر دوا محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دورتی دوا روزانہ دودھ گرم سے کھلائیں۔

ترکیب تیاری: روغنیات کو خوب گرم کر کے گھوچی ڈال کر جلا دیجئے پھر طوطیا نہایت باریک کردہ ڈال دیجئے اور آگ سے فوراً نیچے اتار دیں رگڑ کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دن میں دو تین مرتبہ خنازیر پر لگادیا کریں۔
فائدہ: خنازیر گلیوں کو تحلیل کرنے میں بے نظیر مجرب نسخہ ہے۔

416- اکیسری خبیثہ

عنايت: جناب حکیم محمد شفیق احمد صاحب موتی بازار مرکز الاولیاء لاہور۔
ہوالشافی: سم الفار سفید، چوب چینی، ازراقی، فلفل سیاہ، فلفل دراز ہر ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے اکٹالیں یوم تک آب ادرک میں کھرل کیجئے اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: بھکند ر اور ہر قسم کے باطنی پھوڑوں اور ہر وقت بننے والے زخموں کے لئے اکیسری اثر ہے۔ خنازیر، ناسور، بھکند ر اور دیگر زخم ہائے خبیثہ کو جب خارجی علاج سے فائدہ نہ ہو تو یہ گولیاں اندرونی طور پر استعمال کیجئے لاجواب کامل الاکمل نسخہ ہے۔

417- شفاقی

عنايت: جناب حکیم عبدالطیف بہاری صاحب پٹیالہ (ہند)۔
ہوالشافی: رسکپور ایک تولہ، گندھک آملہ سار دس تولہ۔
ترکیب تیاری: رسکپور کو کڑا ہی میں آگ پر رکھئے اور گندھک آملہ سار کی چٹکی دیتے رہئے جب ایک چٹکی جل جائے تو پھر دوسری چٹکی دیجئے گندھک ختم ہونے پر سرد کر کے باریک کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: دورتی ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: بھکند ر، جذام، آتشک، بواہر، آتشک میں اکیسری اثر اور مجرب لاجواب دوا ہے۔

418- اکیسری جذام

عنايت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب اندرون بازار گورداسپور (ہند)۔
ہوالشافی: عرق پیاز سفید تیس تولہ، عرق ادرک چالیس تولہ، عرق حنظل اسی تولہ، پست درخت کرنجوہ کا عرق بیس تولہ، روغن کنجد اسی تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام عرقیات کو روغن کنجد میں ڈال کر خوب ایالیں جب 3/4 حصہ عرق جل جائے تو سفوف خربق سیاہ گیارہ تولہ ڈال دیجئے جب بالکل عرق جل جائے تو فلفل کر کے ٹھنڈا

درد ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کے علاج کیجئے۔

423- راحت

عنایت: جناب حکیم محمد سلطان صاحب دہاڑی ملتان
ہوالشافی: ہلدی چار تولہ، منسل، گندھک آملہ ساز، لوناجی ہر ایک ایک تولہ روغن کنجد آدھ
ترکیب تیاری: پہلی چار ادویات کو ایک برتن میں ڈالیں اور اس میں ایک پھڑے کا پیشاب
ڈال دیجئے ساری رات پڑا رہنے دیجئے صبح اس میں روغن کنجد ڈال کر خوب پکائیں کہ پیشاب
میں جائے تو تیل کو فلٹر کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: چنبیل پر یہ تیل لگا کر چار گھنٹے بعد نہر کے پانی سے دھو ڈالیں۔
فائدہ: چنبیل کیلوس سمیت نیست و نابود ہو جائے گی یہ ایک فقیر صاحب کا نسخہ ہے نہایت مفید
جرب ہے کوڑیوں کا نسخہ ہے بنائیں اور فوائد اٹھائیں۔

424- حب اکسیری

عنایت: جناب حکیم خدا بخش صاحب اقبال نگر ساہیوال۔
ہوالشافی: گوند پھلاہ ڈھالی تولہ، طوطیا ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر خوب بخوردی تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ باسی پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔
فائدہ: چند ہفتوں میں چنبیل نابود ہو جائے گی خوردنی دوا ہے اور مجرب ہے۔
پہنچ: ایک ہفتہ تک ہانڈی نہ کھائیں دیسی گھی کی چوری بغیر میٹھے اور بغیر نمک کے کھائیے۔
پہیز واجب ہے۔

425- ضاد چنبیل

عنایت: جناب حکیم محمد حیات صاحب سنگھ پور کشمیر۔
ہوالشافی: رسکپور ایک ماشہ، دار چکنا ایک ماشہ، سرکہ ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں چیزوں کو سرکہ میں کھل کر کے ضاد تیار فرما لیجئے۔
ترکیب استعمال: مقام ماؤف پر ضاد کیجئے پندرہ منٹ بعد اتار کر روغن چنبیلی لگا دیجئے۔
فائدہ: بے خط معمول مطب صرف تین ہفتہ کے استعمال سے چنبیل کا نام و نشان نہیں رہتا۔

فائدہ: سودا کو خارج کرنے کے لئے بے نظیر دوا ہے آتشک کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کوڑھ کے
لئے لاجواب جلاب ہے جو جو دست آتے ہیں ویسے ویسے زخم درست ہوتے ہیں۔

422- جذامی

عنایت: جناب حکیم محمد سلطان صاحب سرگودھا۔
ہوالشافی: ہڑتال طبعی ایک تولہ، مغز کرنجوہ ایکس تولہ، شب میانی دو تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے مغز کرنجوہ ایک حصہ ایک کوڑھ میں پھیلا دیجئے پھر شب میانی ایک حصہ
پھیلا دیجئے بعد ہڑتال طبعی پھیلا کر اوپر پہلے کرنجوہ اور بعد میں شب میانی پھیلا کر خوب کھ
حکمت کر کے خشک ہونے پر سات کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: نصف رتی منقی میں لپیٹ کر مریض نکل لیا کرے۔
فائدہ: جذام میں نہایت مفید دموثر ہے خونی فسادی امراض میں بے مثل ہے۔ کورس دوا داکا
ہے۔

چنبیل

اُردو نام	طبعی نام	ڈاکٹری نام
چنبیل	سمکہ صدفیہ	سوراکیس

یہ جلد پر ابھرا ہوا گول ساداغ ہوتا ہے جس کے نیچے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جو کیل کی
ماندخت ہوتی ہیں نہایت عسرالعلاج تکلیف ہے۔

اسباب:

میلا پھیلا رہنا، بد ہضمی، تیزابیت، سوداوی مادے کی زیادتی، خون کا گاڑھا پن، جنسی
فضلات کے اخراج میں بے قاعدگی وغیرہ۔

علامات:

جس مقام پر چنبیل ظاہر ہوتی ہے پہلے گلابی رنگ کے متفرق ابھار پیدا ہوتے ہیں جس
کی سطح پر چھوٹے چھوٹے چھلکے تہہ در تہہ اترتے رہیں یہ متاثرہ حصہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔
شدید خارش ہوتی ہے اور پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں خارش سے جو جگہ چھل جاتی ہے وہاں سے
لیسدار سیاہی مائل رطوبت نکلتی ہے خارش کرتے کرتے اکثر جی نہیں بھرتا اور مزید مریض کنگھے یا
لکڑی سے کھجانے لگتا ہے جب خارش کر چکتا ہے تو کچھ دیر بعد ماؤف جگہ درد ناک ہو جاتی

یہ مرض بھی شروع ہوجاتی ہے۔

اسی آبلہ میں ایک دم سوزش بڑھ جاتی ہے درم یا زخم میں شدید درد ہونے لگتا ہے یہ زہر
ذاتی میں سرایت کر جانے کے باعث ہوتا ہے شدید بخار ہونے لگتا ہے یہ بخار کبھی شدید کبھی
نہیں ہوتا ہے تو کبھی نوبتی ہوجاتا ہے مریض کی ہڈیوں میں اور گوشت میں درد محسوس ہوتا
ہے مریض ہمت چھوڑ کر بے حال ہوجاتا ہے۔ نیند میں کمی ہوجاتی ہے درد ہونے لگتا ہے جسمانی
ہمت چھٹی ہو کر کسی خون کا اظہار کرتی ہے اعصابی سوزش کے باعث حلق، تالو اور لوزٹین میں
اجاب اور درم ہونے لگتا ہے بازوؤں اور رانوں کے پچھلے حصے میں گلابی داغ پڑنے لگتے ہیں۔
متاثرہ مقامات پر جو دانے یا آبلے نکلتے ہیں وہ دو سے چار ہفتوں تک نکلتے ہیں اور پھر
دماغ کے اندر اندر مرجھا جاتے ہیں اور سیاہ داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ان دانوں میں
پھپ بھی پڑ جاتی ہے مگر جلن یا خارش بالکل نہیں ہوتی کچھ رانوں اور گردن کی گلیاں متورم
ہوجاتی ہیں لبوں، زبان اور رخساروں کے اندر سفید داغ بن جاتے ہیں عورت کے جسم کے زیریں
حصے میں جب کہ مرد کے فوطوں پر انگلیوں کے درمیانی حصوں میں رطوبت بننے لگتی ہے یہ
رطوبت جہاں لگتی ہے وہاں سوزش پیدا کر دیتی ہے۔

بعض اوقات مریض کے ناخن جھڑنے لگتے ہیں بال کرنے لگتے ہیں جسم پر دھبے بن
جاتے ہیں ان دھبوں میں خشکی نمایاں ہوتی ہے اور چھلکے اترتے ہیں۔ بعض اوقات ابتداء ہی سے
جلد پر سخت پھنسیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں ان پھنسیوں پر
مولے کھرٹ بن جاتے ہیں اور مریض کی شکل بد صورت ہوجاتی ہے۔ ان پھنسیوں میں نہ ہی
خارش ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی محسوس ہوتی ہے جب کہ جسمانی رنگت تانے کی طرح ہوجاتی
ہے۔

درجہ سوم:

تیسرے درجے کی علامات عموماً چھ سے آٹھ ماہ بعد پیدا ہوتی ہیں اور بعض مریضوں میں
نمبرے درجے کی علامات برسوں تک رہتی ہیں۔ دماغ میں شریانی سدہ قائم ہوجاتا ہے ہاتھوں
اور پاؤں کی جلد موٹی ہوجاتی ہے اور بعض مقامات سے جلد پھٹ جاتی ہے اور پھلکی کے چھلکوں
کی مانند چھلکے اترتے ہیں متاثرہ جسمانی حصے کے کنارے مولے ہوجاتے ہیں۔ آنکھ کے پردوں
میں درم ہوجاتا ہے ٹانگوں اور بازوؤں پر تقریباً گول زخم ہوجاتے ہیں انہیں عرف عام میں روپیا
کہتے ہیں۔ بعض جسمانی حصوں میں گلیاں پیدا ہوجاتی ہیں بعض اوقات دل، زبان، پھیپھڑے
مخ، اعصاب دماغ، نخاع، جگر، تلی گردوں اور جلد وغیرہ میں حتیٰ کہ ہڈیوں میں بھی یہ گلیاں پیدا

نوٹ: ایک مرتبہ مناد کے بعد ایک ہفتے کا نانہ کیجئے اس دوران زخم درست کرنے کے لئے
روغن چینی لگاتے رہئے۔

آتشک

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
باد فرنگ	زہرہ	سگلس یا ہارڈنکسٹر

تعریف مرض:

مرد و عورت کے جنسی اعضاء میں کسی پھنسی یا آبلہ کی شکل میں نمودار ہونے والی چیز کو
آتشک کہتے ہیں مریض آتشک کے ماؤف مقام پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگ کا انگارہ روک
دیا گیا ہے۔

اسباب:

جب اعصاب دماغ میں سوزش پیدا ہوجائے تو اس سوزش کے باعث مادے میں تھن
دخیر پیدا ہو کر زہریلا مادہ آتشک کا سبب بنتا ہے۔ کبھی ادویات کی تیزی کے باعث بھی آتشک
ہوجاتی ہے کبھی موسم کی وجہ سے تو کبھی چھوت کے باعث لہذا اسباب جو بھی ہو یہ اسباب دماغ و
اعصاب میں تیزی پیدا کر کے مرض آتشک کا باعث بنتے ہیں۔

علامات:

علامات کے لحاظ سے آتشک کے تین درجات ہیں:

درجہ اول:

جب جسم میں آتشک کا زہر داخل ہوتا ہے یا بنتا ہے تو فوراً پہلا درجہ شروع ہوجاتا ہے
جو تین ہفتوں سے لے کر پانچ ہفتوں تک قائم رہتا ہے۔ عموماً آٹھ سے دس یوم کے اندر اندر
زہر داخل ہونے کی جگہ پر آلہ یا پھنسی پیدا ہوجاتی ہے جو نیچے سے سخت ہوتی ہے اور آہستہ
آہستہ بڑھ کر پھٹ جاتی ہے اس سے رقت مادہ نکلتا ہے اس پھنسی میں سختی ہوتی ہے اس میں درد
نہیں ہوتا کبھی کچھ ران کی گلیاں متورم ہوجاتی ہیں اور ان گلیوں کو دبانے سے سخت تکلیف ہوتی
ہے مگر درد نہیں ہوتا ان میں پیپ بھی نہیں پڑتی ان گلیوں سے اگر نیڈل کے ذریعے رطوبت
لے کر خورد بینی معائنہ کیا جائے تو اس میں جراثیم آتشک نظر آئیں گے۔ اس درجے میں تکلیف
نہایت کم ہوتی ہے اس لئے مریض لا پرواہی کرتا ہے اسی وجہ سے دوسرے درجے کی علامات

427- اکسیر آتشک

عنايت: جناب حکیم سید ناصر عباس شاہ صاحب پرنسپل طبیہ کالج دہلی (ہند)
ہوالشافی: مردار سنگ، کبابہ، الاچھی خورد، کھتہ سفید، ہم وزن
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو چار پہر خوب کھرل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
فائدہ: آتشک و سوزاک میں بے حد مفید ہے ایک ہفتہ میں آرام آجاتا ہے۔

428- اکسیر خاص

عنايت: جناب حکیم ملک محمد حیات خانکی ہیڈورکس گوجرانوالہ
ہوالشافی: شکر، گندھک آملہ ساز، پارہ ہڑتال درقیہ ہر ایک ایک تولہ، مغز کول ڈوڈا، مغز
 ریحا، مغز جمالگوٹہ ہر ایک ایک تولہ، افیون تین ماشہ، شیر مدار بقدر مناسب، آب پیاز بقدر
 ضرورت۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک اور پارہ کو تین گھنٹے خوب کھرل کیجئے اور اسی طرح شکر
 اور ہڑتال درقیہ کو تین گھنٹے خوب کھرل کیجئے۔ پھر دونوں پورڈر کو ملا کر آب پیاز کی مدد سے
 خوب بنا لیجئے پھر دیگر ادویات کو نہایت باریک کر کے شیر مدار میں کھرل کر کے ان گولیوں پر
 پ کر دیجئے اور اوپر برگ ببول دس تولہ کا نغدہ چڑھا دیجئے اور ایک کڑا ہی میں ریت بھر کر
 درمیان میں ان گولیوں کو رکھ کر اوپر ریت دے کر اوپر جوار کے چند دانے ڈال دیجئے نیچے آگ
 جلا دیجئے جب جوار کے دانے بریاں ہو جائیں تو آگ بند کر دیجئے سرد ہونے پر نکال کر گولے
 سے گولی کو نکال کر باریک پیس کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو چاول تک مکھن میں رکھ کر دیجئے مکھن پانچ تولہ ہوتا
 ضروری ہے دوران دوا دس گھی دودھ بکثرت پلائے۔
فائدہ: یہ اکسیر آتشک، سوزاک اور نامردگی کے لئے نہایت جید الاثر دوا ہے۔
پرہیز: تیل، ترش، جماع اور سرخ مرچ سے لازمی پرہیز کریں۔

429- جوہر قادری

عنايت: جناب حکیم محمد نور جمال قادری صاحب چک نمبر 615 گ-ب فیصل آباد
ہوالشافی: شکر، روئی، گندھک آملہ ساز، دارچینا، رسکپوز، سم الفار ہر ایک دو تولہ، سیماب
 نسی، چار ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو جو کوب کر کے ایک پیالہ میں رکھ کر دوسرا پیالہ اوپر دے کر

188
 ہو جاتی ہیں مرض کے اسی آخری درجے میں ہڈیاں گلنے لگتی ہیں تالو گل جاتا ہے تاک کا بانسہ پڑ
 جاتا ہے اور مریض آخر کار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

آتشک کی اقسام:

آتشک کی دو معروف اقسام ہیں:

- (1) سافٹ فیکر یا نر آتشک
- (2) ہارڈ فیکر یا مادہ آتشک

نر آتشک:

جب رقیق بلم میں سودا مل جاتا ہے اور اس ملاپ سے جو تعفن پیدا ہوتا ہے تو یہ نر آتشک کہلاتا ہے اس میں جلد زخم پھٹ کر زہریلا مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور کچ لہو کی صورت میں جلد سے نکلتا ہے۔

مادہ آتشک:

جب بلم کے ساتھ صفرا مل کر متعفن ہوتا ہے تو اس مادہ سے آتشک پیدا ہوتا ہے اس میں آگ سی جلن محسوس ہوتی ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے علاج کیجئے۔

426- نسخہ شمسیہ

عنايت: جناب حکیم نبی داد خان صاحب دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: ایک عدد غوک کلاں نہری، رسکپور ایک تولہ، کانور ایک تولہ، آب کرینا 750 ملی لیٹر۔

ترکیب تیاری: غوک کا نام اور ناخن دور کر کے رسکپور اور کانور پیٹ میں ڈال کر خوب ملائی کر دیجئے اور اوپر آب کرینا ڈال کر کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے لید میں چالیس یوم کے لئے دن کر دیجئے چالیس یوم بعد تمام چیزیں سوختہ ملیں گی باریک پورڈر بنا کر سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی بعد مسہل ملائی کے ساتھ استعمال کیجئے۔

فائدہ: آتشک سوزاک کہنے، نواسیر، بھکند روغیرہ میں مجرب اور بلا ضرر ہے۔

پرہیز: نمک سے پرہیز واجب ہے۔

190
اچھی طرح بند کر دیجئے اور معروف طریقہ کے مطابق جوہر حاصل کیجئے پھر تیار شدہ جوہر سے مزید جوہر نکالیں یعنی دو آتشہ حاصل کریں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک چاول نمھن یا ملائی میں پیٹ کر دیجئے۔
فائدہ: آتشک، قرحہ، خیشہ اور ناسور، جذام نیز ہر قسم کے لئے بے مثال دوا ہے۔

430- اکسیر آتشک

عنايت: جناب حکیم نور محمد صاحب ریاست گولیار (ہند)۔

ہو الشافی: میٹھا تیلیہ، دارچکنا، رسکپوز ہر ایک دو دو تولہ، سرکہ انگوری بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو سرکہ انگوری میں خوب کھرل کیجئے اور بطریقہ معروف جوہر حاصل فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: نصف چاول سے ایک چاول نمھن میں پیٹ کر نگل لیجئے۔
فائدہ: آتشک، خیشہ اور ناسور وغیرہ میں اکسیر دوا ہے۔

431- تریاق آتشک

عنايت: جناب حکیم سید پیر شاہ صاحب سرائے عالمگیر گجرات۔

ہو الشافی: سیماب تین تولہ، دارچکنا سات ماشہ، آٹا گیہوں گیارہ ماشہ، آب لیموں بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: پہلے آب لیموں میں سیماب پھر دارچکنا کو خوب کھرل کیجئے پھر آٹا ملا کر ایک سو عدد گولیاں تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ پانچ یوم تک کھائیے پھر مسہل لیں پھر روزانہ دس یوم تک تین گولیاں کھائیں پھر مسہل لیجئے اور پھر تاحصت ایک گولی روزانہ کھاتے رہیں ہمراہ پانی۔
فائدہ: آتشک کا شرطیہ علاج ہے خواہ کہنہ ہی کیوں نہ ہو۔

پرہیز: ترش اور سرد اشیاء، ثقل چیزوں سے پرہیز واجب ہے۔

نوٹ: سیماب یہاں تک کھرل کیجئے کہ چمک باقی بالکل نہ رہے۔

432- آتشکی

عنايت: جناب حکیم اسد اللہ خان صاحب اسلام آباد کشمیر۔

ہو الشافی: بلادر، پارہ، سرد چینی، طباشیر، بیروزہ، قلمی شورہ، قرفل، الاچی کلاں، مرج سیاہ، کانور، نوشادر، کیمبر برابر وزن گرکہنہ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کیجئے اور گڑ ملا کر کوکن بیر برابر گولیاں تیار

شہس قلمانی فارمولے

191
ذرا محفوظ کیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح نہار منہ ہمراہ دہی استعمال کیجئے۔

فائدہ: آتشک کے ہر درجہ میں اور ہر قسم میں جید الاثر دوا ہے چند یوم کے استعمال سے کلی فائدہ ہو جاتا ہے۔
پرہیز: تمام ترش بادی اور سرد اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

433- جوہر آتشک

عنايت: زبدۃ الکماء، جناب حکیم امام بخش صاحب بہالپور۔

ہو الشافی: رسکپوز، دارچکنا، سم الفار سفید ہر ایک ایک تولہ، لوبان، کوڑیہ دو تولہ، سہاگہ خام چھ اش، آب اورک بقدر ضرورت، سرکہ انگوری بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پہلے آب اورک میں ایک یوم کھرل کیجئے پھر سرکہ انگوری میں ایک دن کھرل کریں اور جنوب کوکن بیر برابر بنا کر بطریقہ معروف جوہر حاصل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو چاول ہمراہ مویز منقہ دیجئے۔
فائدہ: آتشک، سوزاک، جذام، ناسور، بھکندہ وغیرہ میں مستعمل ہے۔

434- اکسیر آتشک

عنايت: جناب حکیم قمر الدین صابری صاحب کوہاٹ شہر۔

ہو الشافی: بھلاواں سر بریدہ چھ ماشہ، گرکہنہ دس سال پرانا دو تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو اس قدر گھوٹیں کہ یک ذات ہو جائیں پھر جنگلی بیر برابر جنوب بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دہی کا پانی نکال کر منجھ دہی سے ایک تولہ میں گولی رکھ کر نگل جائیں پھر ایک دن ناغہ کر کے ایک گولی کھائیں پھر ایک دن ناغہ کر کے تیسری گولی کھلائیں۔
فائدہ: صرف تین گولیاں کھانے سے آتشک نابود ہو جائے گی ان شاء اللہ عزوجل۔

435- دوائے آتشک

عنايت: جناب حکیم محمد صدیق صاحب پروفیسر کالج شاہدرہ لاہور۔

ہو الشافی: نانخواہ، اجوائن خراسانی، اجوائن کرفس، تخم ستیاناسی، الاچی سبز، لوگ، مرج سیاہ، ٹیل رسکپوز ہر ایک چھ ماشہ، سیماب، گندھک، آملہ، سار ہر ایک آٹھ ماشہ، آب پان پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے گندھک و سیماب کی کبلی تیار کر لیجئے پھر تمام ادویات کو آب پان میں

خوب کھل کیجئے اور خودی خوب تیار فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ

فائدہ: آتشک سافٹ شکر یا ہارڈ شکر جو بھی ہو چند یوم میں جڑ سے نکالنے والا نسخہ ہے تاکہ

اور دعائے مدینہ سے نوازتے رہیں۔ اس کا کورس دو ہفتہ ہے۔

پرہیز: مرچ سرخ، تیل دکھنی اشیاء وغیرہ۔

شام لقمائی فارمولے

پہلے سم الفار کو پانی برگ پان میں خوب کھل کیجئے بعدہ ایک کوزہ گلی میں

تمام ادویات کو پورڈر کر لیجئے اور سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: نمبر 1 دوا کشتہ سم الفار ایک چاول نمبر 2 دوا تین رتی میں ملا کر مکھن

ایک تولہ کے درمیان رکھ کر کھلا دیجئے اوپر سے دو تولہ مکھن مزید کھلا دیجئے۔

فائدہ: اسیر صفت بے خطا ہر اڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے جو آتشک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے

میں نہایت ہی جید الاثر دوا ہے۔

پرہیز: دوران دوا نمک ترشی اور دیگر ثقیل و بادی و سرخ مرچ اور گوشت وغیرہ سے پرہیز لازم

439- اکسیر آتشک

عنایت: جناب حکیم ایشر داس صاحب کنجاہ گجرات۔

حوالہ شافی: رسکپور ایک تولہ نیلا تھو تھا تین تولہ ہلیلہ سیاہ تین تولہ لیموں کا پانی سو عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب لیموں میں خوب کھل کیجئے اور دانہ موگک برابر گولیاں

تیار فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی دودھ کی دہی کے ساتھ استعمال کیجئے خنازیر پر پانی میں گھس

کرگا دیجئے۔

فائدہ: آتشک ناسور، بھکند، خنازیر پرانے پھوڑوں میں مجرب ہے آتشک کو بغیر کسی تکلیف

کے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اسہال، گرمی، گھبراہٹ، منہ آنا وغیرہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی مرض دوبارہ

ہو نہیں کرتا بڑی بے مثال دوا ہے استعمال کیجئے اور دعائیں دیجئے۔

440- اکسیر نایاب

عنایت: جناب حکیم سید طالب علی شاہ قادری بریلوی صاحب بریلی شریف (ہند)۔

حوالہ شافی: مالکنسی، اجوائن خراسانی، اجموڈ از راتی مدبر، کلونجی، تخم دھتورہ ہر ایک ایک تولہ گوگرد

کمزرا چہ ماشہ، افیون ایک ماشہ، گیر و چہ ماشہ۔

ترکیب تیاری: گوگرد، افیون، گیر و کے علاوہ تمام ادویات کو بھونیں مگر جلنے نہ پائے پھر دیگر

نبیوں اجزاء بھی ڈال کر خوب پورڈر بنا کر خوب خودی تیار فرمائیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام تازہ پانی سے کھائیجئے۔

437- حب شگرف

عنایت: زبدۃ الحکماء سلطان الاطباء جناب حکیم سلطان احمد صاحب سکندر آباد دکن (ہند)۔

حوالہ شافی: شگرف رومی آٹھ ماشہ، کھتہ سفید آٹھ ماشہ، طوطیا چہ ماشہ، عرق لیموں ڈھائی

کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق لیموں میں خوب کھل کیجئے اور حب دانہ موٹھ بنا کر محفوظ

رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں بوا سیر کی صورت

میں ایک گولی روزانہ مسوں پر بھی لگا دیا کریں۔

فائدہ: بوا سیر، سوزاک کہنے، آتشک کے لئے تریاق کامل ہے ہزاروں مرتبہ کا تجربہ ہے۔

پرہیز: گوشت دال ماش کھٹی ترش اور تیل والی اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

438- کشتہ سم الفار

عنایت: جناب حکیم شاہ محمد منہاج الحق صاحب گورکھپور (ہند)

حوالہ شافی: (1) سم الفار سفید ایک تولہ برگ پان سو عدد کا پانی۔

پس لقمائی فارمولے
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ روغن زرد کھا لیجئے۔
فائدہ: آتشک کا بے ضرر علاج ہے خواہ نیا ہو یا پرانا۔

444- حب آتشک

عنايت: جناب حکیم محمد احمد خان صاحب منڈی نارنگ شیخوپورہ۔
حوالہ شافی: کیلا نیلا تھوتھا رسکپور مردہ سنگ سپاری چھالیہ الاچی خورد کھتہ سفید ہر ایک برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دھی گائے میں چار پہر خوب کھل کیجئے اور خوب بخودی تیار فرما کر سنبال رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام تازہ پانی سے دیجئے ایک لعاب دہن میں حل کر کے زخموں پر لگا دیجئے۔
فائدہ: معمول مطب تجربہ شدہ نسخہ ہے قے اسہال وغیرہ نہیں آتے جملہ امراض جو خون کی خرابی سے پیدا ہوں ان میں مستعمل ہے۔ خفیف حالت میں ایک ہفتہ کافی ہے۔

445- حب آرام

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکیم اوتار سنگھ صاحب کلیانہ گجرات (ہند)۔
حوالہ شافی: رسکپور دارچکنا ہر ایک ایک تولہ آب ادراک ڈیڑھ پاؤ۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو آب ادراک میں ڈیڑھ پاؤ خوب کھل کیجئے اور خوب دانہ موگ بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی حلوے میں رکھ کر نگل لیجئے۔
فائدہ: آتشک خواہ کسی قسم کا ہونا بود ہو جاتا ہے نہایت ہی مجرب نسخہ ہے۔
خوراک: دودھ چاول گھی روٹی گندم دیجئے۔

446- دوائے آتشک

عنايت: جناب حکیم عبدالحکیم صاحب پیر محلہ چودھری ہوشیار پور (ہند)۔
حوالہ شافی: سم الفار سفید سم الفار سیاہ سم الفار سرخ الاچی خورد کافور کھتہ سفید کھریا مٹی ہم وزن عرق گلاب ڈیڑھ کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں خوب کھل کیجئے اور خوب دانہ موگ بنا کر سنبال رکھیئے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی تک صبح و شام ہمراہ کھن پانچ تولہ استعمال کیجئے۔

194
فائدہ: نہایت ہی بے نظیر قابل قدر نسخہ ہے صدری ہونے کے ساتھ ساتھ آتشک کو علاج دہن
بھکند اور دیگر امراض خبیثہ میں مستعمل ہے۔
پرهیز: ترش و نقل اغذیہ سے پرہیز جبکہ روغن زرد اور گیسوں کی چوری اور گوشت روغن زرد
میں بریاں کردہ کھائیں۔

441- راحت

عنايت: جناب حکیم محمد بشیر احمد صاحب بادی بجنور یوپی (ہند)۔
حوالہ شافی: کافور تین ماشہ رسکپور چار ماشہ مرچ سیاہ ڈیڑھ ماشہ قرنفل ڈیڑھ ماشہ آب ادراک بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھل کیجئے اور خوب دانہ موگ بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح مکھن یا ملائی میں رکھ کر کھلا دیجئے۔
فائدہ: ایک ہفتہ کے اندر اندر آتشک نیست و نابود ہو جائے گی ان شاء اللہ عزوجل۔

442- اکسیر بے خطا

عنايت: جناب حکیم مشیر الدین صاحب پنکا پور کانپور (ہند)۔
حوالہ شافی: رسکپور دارچکنا دانہ الاچی خورد زنگار کھتہ سفید مرچ سفید رال سفید ہر ایک تین تولہ قد سیاہ کہنہ چھ تولہ اجوائن خراسانی اجوائن دیسی اجوائن کرفس اجوائن اجود ہر ایک نو تولہ عرق گلاب بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں خوب کھل کر کے بخودی خوب تیار فرما کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی مکھن یا ملائی کے ساتھ استعمال کیجئے۔
فائدہ: آتشک جدید و قدیم کے لئے نہایت ہی بے خطا دوا ہے ہزاروں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے۔

443- دوائے ثانی

عنايت: جناب حکیم اللہ بخش صاحب خانیکے خورد بہادر پور۔
حوالہ شافی: ہلیہ سیاہ تین تولہ رسکپور ایک تولہ نیلا تھوتھا ایک تولہ عرق لیموں سو عدد۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق لیموں میں خوب کھل کیجئے اور قرنفل سیاہ برابر خوب تیار فرما کر محفوظ رکھئے۔

پہلے جمال گوہ کا مسہل دیجئے اور بعدہ تین گولیاں روزانہ ہمراہ روغن
عنايت: جناب حکیم محمد منیر بھٹی صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
فائدہ: سات یوم میں انشاء اللہ عزوجل مرض آتشک جڑ سے جاتا رہتا ہے۔

450- دوائے کامیاب

عنايت: جناب حکیم محمد منیر بھٹی صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
حوالہ شافی: پت پاپڑہ ایک پاؤ، سنگھیا بلوری ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: ڈیڑھ کلو پانی میں پت پاپڑہ کو بھگو دیجئے بارہ گھنٹے بعد سم الفار بلوی ایک تولہ
 ڈال کر خوب پکائیں جب آدھا پانی خشک ہو جائے اتار کر چھان کر محفوظ فرمائیے۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح، شام چھ چھ ماشہ دوا بعد غذا پلائیں اوپر سے دسی گھی
 چھٹا تک کھلا دیجئے۔
فائدہ: آتشک کے زہر کو رگ رگ سے نکال کر سینکڑوں گلے سڑے مریضوں کو زندگی ملی ہے
 ذرا زخم جس قدر گہرے یا پرانے ہوں چند روز ہی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

451- حب آتشک

عنايت: جناب حکیم محمد بخش ملتانی احمد آباد (ہند)
حوالہ شافی: جنگ ہرڑ ایک چھٹانک، کھتہ گلابی ایک چھٹانک، سہاگہ خام ایک چھٹانک، نیلا
 نونہا بریاں تین ماشہ، عرق لیموں آدھ کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے تھوڑا تھوڑا عرق ملاتے جائیں اور کھرل
 کرتے جائیں خشک ہونے پر سوالاکھ تھوڑے کی چوٹ لگائیں بعدہ کوکن بیر برابر خوب بنا کر
 ٹوڑ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی پانی سے دیجئے سیاہ دست آئیں گے پاؤں پانی میں نہ
 ڈالیں۔
فائدہ: آتشک تر ہو یا مادہ انشاء اللہ عزوجل چند دنوں میں نابود ہو جائے گا یہ ایک صدی نسخہ
 ہے یہ نسخہ ایک اشتہاری حکیم صاحب کا پوشیدہ نسخہ ہے۔

فائدہ: آتشک، جذام، بواہر وغیرہ میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔

447- دوائے لاشانی

عنايت: شمس الحکماء جناب حکیم محمد خالد صاحب شمیم آراء شاہ آباد (ہند)
حوالہ شافی: دارچین، مد برد مولیٰ، حب السلاطین، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: دارچین کو بڑی مولیٰ کو اندر سے کھوکھلا کر کے بھر دیں اور گرم بھوبھل میں دبا
 دیجئے اوپر سے جل جانے پر نکال کر دونوں دواؤں کو کورے پیالہ میں خوب رگڑیں اور محفوظ
 رکھئے۔
ترکیب استعمال: نازک مزاج ایک رتی جب کہ سخت مزاج دورتی تک حلوے میں ملا کر
 کھائیں۔
فائدہ: تے اور دست آ کر تمام آتشکی فاسد مادہ خارج ہو جائے گا پرانے سے پرانے آتشک
 میں اکیر ہے ایک دو خوراک سے فوائد کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

448- مرہم آتشک

عنايت: جناب حکیم کرم داد صاحب کوئٹہ بلوچستان۔
حوالہ شافی: روغن یا سیمین تین تولہ، مردار سنگ دو تولہ، پارہ ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے روغن اور پارہ کو خوب کھرل کیجئے تاکہ پارہ غائب ہو جائے پھر مردہ
 سنگ کو باریک کر کے جلا کر خوب کھرل کیجئے اور یک جان بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت آتشک کے زخموں پر لگا دیجئے۔
فائدہ: تین چار یوم کے استعمال سے گہرے زخم مندمل ہو جائیں گے۔

طفرے

- ① پوست ریٹھا حسب ضرورت مل چھان کر خودی خوب بنا کر صبح، دوپہر، شام دیا کریں
 مفید ہے۔
- ② ترہلہ دو تولہ کو جلا کر شہد میں مرہم بنا لیجئے برے سے برے زخم اچھے ہو جائیں گے۔

449- دوائے بے نظیر

عنايت: جناب حکیم عطاء محمد صاحب قلعہ گجر سنگھ۔
حوالہ شافی: ارٹھ کی نرم کوٹلیں دو تولہ، نیلا تھوٹھا چار ماشہ، دہی گائے نیم پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور خوب جنگلی بیر برابر بنا لیجئے۔

برص

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
سفید داغ	برص	لیوکودرما Leucoderma

تعریف مرض:

بعض جسمانی حصوں پر سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں اصطلاح طب میں برص کہتے ہیں۔

اسباب:

خوراکی لحاظ سے یا اخلاط کے تحت یا اعضاء کی کمزوری یا فساد پر مرض برص پیدا ہوتا ہے کیونکہ خواہ اسباب خواہ بیرونی ہوں یا اندرونی صفرا اور بلغم کی آمیزش سے جو امتزاج ہوتا ہے اس سے مرض برص وجود میں آتی ہے۔

علامات:

جلد پر جگہ جگہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں شروع میں چھوٹے چھوٹے جب کہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں عموماً ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ برص کی رنگت سفید اور چکنی ہوتی ہے مقام ماؤف دوسری جلد سے نرم ہوتا ہے جو اس جگہ بال پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سفیدی ہوتے ہیں۔ اگر اس جگہ نیڈل چھو دیں تو سفیدی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے جو برص کی علامت ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے علاج کیجئے۔

452- کرامت

عنایت: جناب حکیم محمد اکبر صاحب کپورتھلہ (ہند)۔

ہوالشافی: چوب چینی چھ ماشہ، تخم پنواڑ چھ ماشہ، بانجی چھ ماشہ، مرچ سیاہ چھ ماشہ، میٹھا تیل چھ ماشہ، کونین چھ ماشہ، عتر قرچا چھ ماشہ، عرق گلاب تازہ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب تازہ میں خوب کھرل کیجئے اور خودی خوب تیار فرما کر محفوظ رکھئے

پہلے کوئی سخت قسم (جلاب جذام) دیا جائے پھر ایک ایک گولی دن میں
تعمیر استعمال: پہلے کوئی سخت قسم (جلاب جذام) دیا جائے پھر ایک ایک گولی دن میں
 دو چوب و شام ہمراہ عرق منڈی کھلا دیجئے۔
 نفع: برص کے لئے ایک لاجواب نسخہ ہے فوائد کے لحاظ سے طبی کرامت ہے جو صندوق کا
 مددی نسخہ ہے آپ بھی ضرور فوائد حاصل کیجئے۔

453- کشتہ مار

عنایت: جناب حکیم سر جیت سنگھ گولیاری (ہند)۔

ہوالشافی: کالا سانپ تقریباً ڈھائی گز لبا ایک عدد، بانجی پانچ تولہ، پوست انجیر تین تولہ،
 بوب چینی تین تولہ، سنگ راسخ دو تولہ، سنگیا سفید دو تولہ، مازو سبز ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب گل حکمت کر کے چالیس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے۔ سرد
 ہونے پر نکال کر ایک پاؤ عرق گلاب میں کھرل کیجئے۔

تعمیر استعمال: مقام ماؤف پر دن میں تین یا چار مرتبہ لگا دیا کریں چار پانچ یوم میں
 دنے نکل آئیں گے چند دنوں کے وقفے کے بعد پھر لگانا شروع کر دیجئے انشاء اللہ عزوجل میں
 ہم میں شفاء مل جائے گی۔

طفرے

مور کی ہڈی بانجی اور ہلدی ہم وزن جلا کر عرق کر لیا یا شہد میں ملا کر مقام برص پر
 لگانے سے داغ نابود ہو جاتے ہیں۔
 ہلدی اور برگ حنا برابر وزن ملا کر آدھ ماشہ کی مقدار میں صبح دوپہر شام عرق منڈی سے
 لینے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

454- حب برص

عنایت: جناب حکیم محمد شہباز صاحب حیدرآباد دکن۔

ہوالشافی: زنجبیل، قافل سیاہ، مغز کرنجہ، مغز جما لکڑی ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کھرل کیجئے اور خوب خودی تیار کریں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی سے دو گولی ہمراہ دودھ کھلائیں۔

نفع: ہارنگ، جذام، برص، بہق وغیرہ میں جید الاثر ہے۔

455- حب برص

عنایت: جناب حکیم محمد شہباز صاحب حیدرآباد دکن۔

عنايت: جناب حکیم باجی، تخم پنواڑ، چاول مونگرا خالص ہر ایک بارہ تولہ، بوٹی قاضی دستار کا پانی آدھا کلو۔
ہو الشافی: باجی، تخم پنواڑ، چاول مونگرا خالص ہر ایک بارہ تولہ، بوٹی قاضی دستار کا پانی آدھا کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب قاضی دستار میں کھرل کیجئے پھر دودھک بوٹی کے پانی میں کھرل کیجئے بعدہ بذریعہ پتال جنتر روغن کشید کیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک بوند مسکہ میں رکھ کر نگل لیجئے اور اسی کی مقام ماؤف پر ماش کیجئے۔
فائدہ: سفید داغ، برص میں نہایت ہی مجرب نسخہ ہے جو کبھی خطا نہیں گیا۔ چالیس روز میں تریب آرام ہوگا انشاء اللہ عزوجل۔

460- تریاق برص

عنايت: جناب حکیم جمال الدین صاحب شاہ پور۔
ہو الشافی: پوست بلیہ، پوست بلیہ، پوست آملہ، انقیون، عقرقر جا ہر ایک ایک تولہ، فلفل دراز پور ماشہ، زنجبیل، زنجبیل، شہد خالص ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کر کے شہد ملا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح چھ ماشہ ہمراہ منڈی کھلا دیجئے جب کہ ضما کے لئے کوئی دوا استعمال کیجئے۔
فائدہ: برص میں فائدہ مند ہے۔

461- ضما برص

عنايت: جناب حکیم شیخ احمد صاحب راجواڑ رتناگری (ہند)۔
ہو الشافی: گل ارمنی تین تولہ، عرق گندھک آملہ سار پچاس گرام، عرق کافور سو گرام، آب برک حاسو گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کرتے جائیں حتی کہ تمام پانی ختم ہو کر مثل غبار پور ہو جائے تو سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: اس میں بوقت ضرورت سرکہ ڈال کر مقام ماؤف پر لپ کر دیجئے۔
فائدہ: چند دنوں تک بلاناغہ لپ کرنے سے جلد اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔

462- دوائے خاص

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن صاحب بستی شیخ جالندھر (ہند)۔
ہو الشافی: قطاخ، شیطرج ہندی، زریخ سرخ، فلفل سیاہ، زنگار، ہوزن سرکہ بقدر ضرورت۔

ہو الشافی: زنجبیل، فلفل سیاہ، مغز کرنجہ، مغز جملگوٹہ ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کھرل کیجئے اور خوب بخودی تیار کریں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی سے دو گولی ہمراہ دودھ کھلائیں۔
فائدہ: باد فرنگ، جذام، برص، بہت دغیرہ میں جید الاثر ہے۔

456- اکسیر پھلبہری

عنايت: جناب حکیم باوا بشیر ناتھ صاحب ہنڈوری باوا اداس ہوشیار پور (ہند)۔
ہو الشافی: سہاکہ، میٹھا حلیہ، رسونت، باجی، فلفل سیاہ ہر ایک ایک تولہ، شیر میش تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر میش میں ڈال کر محفوظ رکھ دیجئے روزانہ کسی چیز سے ہلاتے رہیں سات یوم تک یہ عمل کرنے کے بعد اس تمام دوا کو محفوظ کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: داغوں پر بطور ضما لگا دیا کریں۔

457- اکسیر پھلبہری

عنايت: جناب حکیم محمد امین صاحب موتی باغ دہلی (ہند)۔
ہو الشافی: باجی، نوشادر، سم الفار، ہڑتال، طبتی، لوہا چون، پھنکڑی سفید ہر ایک ایک تولہ، مندل سفید چھ ماشہ، مشک کافور دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کر کے محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: سرکہ انگوری میں تھوڑی سی دوا ملا کر مقام برص پر ضما کیجئے اور روکھئے بعد گرم پانی سے دھو دیں۔
فائدہ: برص میں اکسیر ہے۔

458- اکسیر برص

عنايت: جناب حکیم محبوب الہی صاحب، گوجرانوالہ۔
ہو الشافی: انجیر دشت کی جڑ، زچکوز، باجی، تخم پنواڑ، برابر وزن عرق لیموں بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق لیموں میں خوب کھرل کیجئے اور مرہم بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: مقام ماؤف پر ضما کر کے چار گھنٹے بعد گرم پانی سے دھو دیجئے۔
فائدہ: فساد خون برص دغیرہ میں اکسیر ہے۔

459- روغن پھلبہری

عنايت: جناب حکیم کیلاش چندر شرما غازی آباد میرٹھ (ہند)۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور سرکہ ملا کر رکھ دیجئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت داغوں پر ضماد لگا دیجئے۔
فائدہ: برص میں تجربہ شدہ ہے۔

463- اکسیر اوتاد

عنایت: جناب حکیم محمد خلیل احمد صاحب پیلی بھیت (ہند)
ہوالشافی: باپچی کیرڈ گندھک آملہ سار برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کر کے پانی کی مدد سے خوب تیار فرمایجئے۔
ترکیب استعمال: تین گولی صبح تین گولی شام ہمراہ عرق منڈی کھلا دیا کریں۔
فائدہ: برص میں خوردنی طور پر اعلیٰ اوصاف کا حامل نسخہ ہے متعدد مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے اللہ عزوجل کے اولیاء کرام سے منظور شدہ ہے۔

464- سہانجنہ پلز

عنایت: جناب حکیم عبدالغنی صاحب ڈگری باب السلام سندھ۔
ہوالشافی: بلادر کلاہ بریدہ پانچ تولہ ایک موٹی تازہ لکڑی سہانجنہ باپچی پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: سہانجنہ میں سوراخ کر کے بلادر بھر کر اوپر بورہ لگا کر گل حکمت کر کے دو ماہ کے لئے سنبھال رکھئے پھر بلادر نکال کر باپچی ڈال کر خوب کھرل کیجئے اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے چار ماشہ تک آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں ہمراہ دودھ۔
فائدہ: برص خواہ عمر سے بھی پرانا ہو انشاء اللہ عزوجل چند یوم میں ختم ہو کر صحت کلی حاصل ہوگی۔



دانتوں اور مسوڑھوں کی امراض

دانت عمر کے لحاظ سے دو اقسام کے ہوتے ہیں:

مرضی دانت: جو بچوں میں چھ ماہ سے سات سال تک نکلتے رہتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں انہیں
بچہ کے دانت بھی کہتے ہیں ان کی تعداد بیس ہوتی ہے۔
سنتل دانت: جو سات سال کی عمر سے بیس سال تک نکلتے رہتے ہیں ان کی تعداد بیس ہوتی ہے۔

سوڑھے: سوڑھے ایک طرح کی سخت اور مضبوط لعاب دار جھلی ہے اس میں اعصاب گوشت اور
لہجہ بھی ہوتے ہیں یہ جھلی دانتوں کی جڑوں سے چسپاں رہتی ہے انہیں سوڑھے کہتے ہیں۔

درد دانت

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
دانت کا درد	وجع السن	ٹوتھ ایک Toothache

تعارف: درد دانت سے ہر شخص بخوبی واقف ہے ایسا شدید ہوتا ہے کہ دن کو تارے نظر آجاتے

ہیں۔

اسباب و علامات:

دانتوں کی جڑ میں کریڈا لگ جانا اس کی وجہ سے سوڑھے متورم ہو کر درد کرنے لگتے
 ہیں دانتوں میں میل کچیل کا جمنا، ترش یا شیریں غذا میں زیادہ استعمال کرنا، حفظان صحت کے
 اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزارنا، مسواک شریف نہ کرنا وغیرہ۔
 بیمار دانت میں اس شدت سے درد ہوتا ہے کہ مریض بلبلاتا ہوتا ہے نزدیکی سوڑھے بھی
 قوم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات رخسار اور چہرہ بھی متورم ہو جاتا ہے۔

درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

465- سلطانی منجن

عنايت: جناب حکیم محمد بشیر سلطانی صاحب ملتان شریف۔

ہوالشافی: قنفل سیاہ تین ماشہ، مشک کافور تین ماشہ، یوکھٹس آئیل دس قطرے، بھنگوڑن بریاں چھ ماشہ، سوڈیم بائی کارب چھ ماشہ، خاکستر چھالیہ ایک تولہ، چاک مٹی دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے بعدہ یوکھٹس آئیل حل کر کے مٹھوڑ فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح و شام بعد طعام دانتوں پر خوب ملیں۔

فائدہ: خون بند ہو جاتا ہے، مسوڑھوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ روتا آئے اور ہستا جانے کے مصداق ہے۔

466- لقمائی آئیل

عنايت: جناب حکیم محمد اور لیس صاحب دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: کھول ہائیڈریٹ چار ماشہ، کافور دہلی چار ماشہ، نو دو کین چار رتی، ست پودینہ چار ماشہ، روغن لوگن ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھئے پانی ہو جائیں گی۔
ترکیب استعمال: مقام ماؤف پر پھریری سے لگائیے۔

فائدہ: یہ ایک مرکب دانت درد کے علاوہ جانوروں کے کانٹے پر لگانے سے فوراً درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

467- سنون قریشی

عنايت: جناب حکیم بشیر احمد صاحب اتھائیں بجنور (ہند)۔

ہوالشافی: ارہر کی دال 250 گرام، بھنگوڑی سفید 75 گرام۔

ترکیب تیاری: ارہر کی دال کو پہلے روغن زرد میں بریاں کیجئے بعدہ بھنگوڑی گرینڈ کر کے ملا دیجئے اور سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دانتوں پر ملیں اور لعاب باہر نکال دیا کریں۔

فائدہ: دانتوں کے جملہ امراض میں اکسیر ہے۔

468- پانیورین

عنايت: جناب حکیم سید قائم حسین شاہ صاحب کوچہ چیمپان دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: کالا دانہ بلدی دو دو تولہ پانی ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو پانی میں خوب جوش دیجئے۔

ترکیب استعمال: نیم گرم پانی سے کلمیاں کیجئے جس قدر پانی منہ میں رہے گا اس قدر

نہا ہوگا۔

فائدہ: دانتوں اور مسوڑھوں کا ورم، مسوڑھوں کا منہ دانتوں تیزوں اور مسوڑھوں سے پیپ اور

فون گنگا دانتوں کا جزیں چھوڑنا، بلنا، میرا ذاتی تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

469- شمشکی ٹوتھ پورڈر

عنايت: جناب حکیم حاجی بیچ بخش شمشکی صاحب ڈیرہ غازی خان۔

ہوالشافی: پوست مغیاں چار تولہ، شہبازحت سوختہ نمک پت پاپڑو چھالیہ ہر ایک ایک تولہ

قنفل سیاہ ایک ماشہ، زنجبیل دو ماشہ، بھنگوڑی بریاں، گل انداز پوست انداز ہر ایک دو تولہ، قرغزل تین

ہلکا لہجی خورد چھ ماشہ، پوست بادام سوختہ چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے ڈبیوں میں مٹھوڑ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ضرورت کے تحت دانتوں پر ملیں۔

فائدہ: دانتوں اور داڑھوں کے اکثر امراض کو دور کرتا ہے اور دانتوں کو صاف کرتا ہے دانت

بڑھ کو مستقل قائم کرتا ہے۔

470- پین آف ل

عنايت: جناب حکیم ہری سنگھ صاحب چک نمبر 55 بابا کالہ فیصل آباد۔

ہوالشافی: کریازوٹ، شجر آبیوڈین، کاربالک ایسڈ، کھول ہائیڈریٹ، کافور، زرد ورن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیشی میں ڈال کر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: روئی کے پھایہ سے دانت کے سوراخ میں لگا دیجئے چند سیکنڈ میں کامل

آرام آجائے گا۔

فائدہ: درد دانت وغیرہ میں روتا ہوا آئے مسکراتا لوئے سیکٹروں مریضوں پر آزمایا گیا ہے۔

471- ماخوره

عنايت: جناب حکيم محمد عبدالحق شاہپوری صاحب عنایت پور سرگودھا۔
ہوالشافی: نوشادر دو تولہ کا ہی سرخ تین تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت تھوڑا سا پورڈر مسوڑھوں پر ملیں اور لعاب دھن گرائئے رہیں اور بعدہ مسوڑھوں پر روغن گاؤ لگا دیجئے۔
فائدہ: ماخوره کے لئے نہایت ہی جید الاثر دوا ہے۔

472- اکسیر دندان

عنايت: جناب حکيم محمد اسماعیل صاحب جیدار بیٹ ضلع نیلور مدراس (ہند)۔

ہوالشافی: عققرحاً مرچ سیاہ نوشادر، مازو، کافور، پھنکڑی بریاں ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے سفوف بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت درد والے مقام پر لگا دیجئے۔

فائدہ: دانتوں کا درد منٹوں میں دور ہو جاتا ہے۔

473- اکسیر گوشت خورہ

عنايت: جناب حکيم کرم علی صاحب چک رائب ملکوال۔

ہوالشافی: سلفیورک ایسڈ آدھا اونس صاف پانی چار اونس۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام کھانے کے بعد کلیاں کیجئے۔

فائدہ: گوشت خورہ دفع ہو کر دانت موتی کی مانند سفید ہو جائیں گے۔

474- اکسیر دانت

عنايت: جناب حکيم محمد اسماعیل صاحب چک نمبر 228 ج۔ ب بھوانہ جھنگ۔

ہوالشافی: چونا تر، نوشادر ہم وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: انگلی سے درد والے مقام پر ملیں نیز مقام درد پر پھایہ رکھیں۔

فائدہ: فوراً درد دانت نابود ہو جائے گا مجرب ہے۔

475- تریاق گوشت خورہ

عنايت: جناب حکيم محمد مظفر ہاشمی صاحب سیانہ ضلع بلند یوپی (ہند)۔

ہوالشافی: شب میانی بریاں ایک تولہ نیلا تھوٹھا بریاں دو ماشہ گل سرخ تین ماشہ کھتہ سفید تین ماشہ طباشیر تین ماشہ خر مہرہ زرد سوختہ چار عدد زیرہ سفید دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: قدرے دانتوں پر مل لیجئے اور لعاب گراتے رہئے۔

فائدہ: گوشت خورہ میں از حد مجرب ہے۔

476- اکسیر دندان

عنايت: جناب حکيم محمد انور خان صاحب لکھی سرائے موٹگیر (ہند)۔

ہوالشافی: عققرحاً زیرہ سفید نمک لاہوری، نوشادر اجوائن دیسی ہر ایک تین تولہ، فلفل سیاہ دو تولہ، پھنکڑی بریاں چھ تولہ مازو سوختہ چھ تولہ ایون سوختہ چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے ڈبیوں میں محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دانتوں پر مالش کریں۔

فائدہ: درد دندان اور دیگر امراض دندان میں اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے۔

477- بنوں ٹوٹھ پورڈر

عنايت: جناب حکيم نصر اللہ صاحب بازار احمد خان صاحب بنوں۔

ہوالشافی: سوڈیم بائی کارب، پھنکڑی سفید برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر خوب کھرل کیجئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دانتوں پر مالش کیجئے۔

فائدہ: دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے خون کو روکتا ہے نہایت مفید اور مجرب نسخہ ہے۔

478- روغن رحمت

عنايت: جناب حکيم محمد عمر صاحب بڈھا پور بجنور (ہند)۔

ہوالشافی: کریازوٹ، ٹنگر لوبیائی، کلوروفارم، ست کافور، ست پودینہ، ست اجوائن، روغن لنگ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک شیشی میں ڈال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روئی کے پھایہ سے دانتوں پر پھریری سے لگا دیا کریں۔

فائدہ: ہر قسم کے درد دانت، درد کان، درد داڑھ، درم صلب وغیرہ میں جید الاثر دوا ہے۔

479- روغن مدینہ

عنايت: جناب حکیم مہتہ بدری ناتھ سترہ کجرات۔

ہوالشافی: ست کافور، کاربالک ایسڈ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو مضبوط ڈھکن والی بوتل میں ڈال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روئی سے مقام درد پر لگائیں۔

فائدہ: نہایت ہی قابل رشک نسخہ ہے الحمد للہ عذوجل میرا معمول مطب ہے نہایت قیامت نواز کا حال ہے۔

480- شفاقی منجن

عنايت: جناب حکیم عبدالحق صاحب پیرو وال پاکپتن۔

ہوالشافی: ازرائی کا کونکہ ایک تولہ، طوطیا بریاں ایک ماشہ، پھلکوی بریاں دو ماشہ، مرجیہ سیاہ ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت بطور منجن استعمال کیجئے۔

فائدہ: دانتوں کا درد، مسوڑھوں کا پھولنا، درم، درد مسوڑھ، پانی لگنا، دانت کا کیرا، پائیوریا کا دوا علاج ہے۔

481- اکسیر ماسخوره

عنايت: جناب حکیم تبرک حسین شاہ صاحب مرزا پور یو پی (ہند)۔

ہوالشافی: گل سپاری، ماجوسبز، عققرحہ، پھلکوی بریاں، کوکنار ہر ایک چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: پہلے گرم پانی سے کلیاں کیجئے بعد پورڈر کو دانتوں پر ملیں۔

فائدہ: ماسخورہ میں نہایت ہی مجرب ہے اور شرطیہ حکیمہ علاج ہے۔

482- تریاق اسنان

عنايت: جناب حکیم ٹٹا کر رام دھن صاحب بڑوہ کانڈرہ (ہند)۔

ہوالشافی: گل بول پانچ تولہ، پھلکوی بریاں پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر کے محفوظ رکھیں۔

دوسری کتاب فارمولے

فائدہ: ہر قسم کے درد دانت، درد کان، درد داڑھ، درم صلب وغیرہ میں جید الاثر دوا ہے۔

483- دوائے دندان

عنايت: جناب حکیم دیوان بوجھا رام صاحب ٹانک سرحد۔

ہوالشافی: کافور، کاربالک ایسڈ، کنیزازوٹ، کچھرا پوڈین، کلورل ہائیڈریٹ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک شیشی میں محفوظ رکھیں تیل ہو جائے گا۔

ترکیب استعمال: احتیاط سے دانت پر روئی سے لگائیں اگر سوراخ ہو تو سوراخ میں

لگائیں فوراً آرام آ جائے گا۔

فائدہ: پہلی مرتبہ کے بعد اگر درد پھر شروع ہو جائے تو دوبارہ لگائیں یا پتھری مرتبہ لگائیں پھر

ضرورت نہ ہوگی۔

484- سنون سکون بخش

عنايت: جناب حکیم سید اللہ بخش صاحب نصیر جن پٹن بنگلور (ہند)۔

ہوالشافی: پوست بنج مغیلاں آٹھ تولہ، سنگجراحت کھتہ پت پاپڑہ سپاری ہر ایک دو تولہ، فلفل سیاہ تین ماشہ، زخمیل تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے سنون سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: بطور دوا دانتوں پر ملیں اور لعاب بہنے دیجئے۔

فائدہ: دانتوں کے جملہ امراض میں مفید الاثر ہے۔

485- اکسیر دندان

عنايت: جناب حکیم محمد حیات صاحب چک نمبر 407 گ ب تاندلیانوالہ سردار آباد (فیصل آباد)۔

ہوالشافی: پوست بنج مغیلاں چار تولہ، مصطلکی روئی ایک تولہ، فلفل سیاہ ایک ماشہ، سنگجراحت ایک تولہ، ناگرموتھا چھ تولہ، پاپڑہ ایک تولہ، زخمیل ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے منجن سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دن میں تین مرتبہ استعمال کیجئے اور لعاب باہر گراتے

بائیں۔

فائدہ: امراض دندان میں ہر لحاظ سے لاجواب کمال ہے۔

فائدہ: ہر قسم کے درد دانت، درد کان، درد داڑھ، ورم صلب وغیرہ میں جید الاثر دوا ہے۔

479- روغن مدینہ

عنایت: جناب حکیم مہتہ بدری ناتھ سترہ گجرات۔

حوالہ شافی: ست کافور، کاربالک ایسڈ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو مضبوط ڈھکن والی بوتل میں ڈال کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: روئی سے مقام درد پر لگائیں۔

فائدہ: نہایت ہی قابل رشک نسخہ ہے الحمد للہ عزوجل میرا معمول مطب ہے نہایت ہی اعلیٰ فوائد کا حامل ہے۔

480- شفاقی منجن

عنایت: جناب حکیم عبدالحق صاحب پیرودال پاکپتن۔

حوالہ شافی: ازرائی کا کونکہ ایک تولہ، طوطیا بریاں ایک ماشہ، پھٹکڑی بریاں دو ماشہ، مرج سیاہ ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت بطور منجن استعمال کیجئے۔

فائدہ: دانتوں کا درد، مسوڑھوں کا پھولنا، ورم، درد مسوڑھ، پانی لگنا، دانت کا کیرا، پائوریا کا داء علاج ہے۔

481- اکسیر ماسخوره

عنایت: جناب حکیم تبرک حسین شاہ صاحب مرزا پور یو پی (ہند)۔

حوالہ شافی: گل سپاری، ماجوسبز، عترقرحہ، پھٹکڑی بریاں، کونار ہر ایک چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: پہلے گرم پانی سے کلیاں کیجئے بعد پورڈر کو دانتوں پر ملیں۔

فائدہ: ماسخورہ میں نہایت ہی مجرب ہے اور شرطیہ حکیمہ علاج ہے۔

482- تریاق اسنان

عنایت: جناب حکیم ٹھاکر رام دھن صاحب بڑوہ کانگرہ (ہند)۔

حوالہ شافی: گل ببول پانچ تولہ، پھٹکڑی بریاں پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دن میں دو یا تین مرتبہ مسوڑھوں پر مل لیا کریں۔

فائدہ: مسوڑھوں اور دانتوں کے امراض میں مفید ہے خون نکلنے میں بے حد نافع ہے۔

483- دوائے دندان

عنایت: جناب حکیم دیوان بوگھا رام صاحب ٹانک سرحد۔

حوالہ شافی: کافور، کاربالک ایسڈ، کڑیا زوٹ، فنگر آ پوڈین، کلورل ہائیڈریٹ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک شیشی میں محفوظ رکھیں تیل ہو جائے گا۔

ترکیب استعمال: احتیاط سے دانت پر روئی سے لگائیں اگر سوراخ ہو تو سوراخ میں لائیں فوراً آرام آ جائے گا۔

فائدہ: پہلی مرتبہ کے بعد اگر درد پھر شروع ہو جائے تو دوبارہ لگائیں یا تیسری مرتبہ لگائیں پھر ضرورت نہ ہوگی۔

484- سنون سکون بخش

عنایت: جناب حکیم سید اللہ بخش صاحب نصیر چن پٹن بنگلور (ہند)۔

حوالہ شافی: پوست بیخ مگیاں آٹھ تولہ، سنگجراحت کھتہ پت پاپڑہ، سپاری ہر ایک دو تولہ، فلفل سیاہ تین ماشہ، زخمیل تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے سنون سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: بطور دوا دانتوں پر ملیں اور لعاب بہنے دیجئے۔

فائدہ: دانتوں کے جملہ امراض میں مفید الاثر ہے۔

485- اکسیر دندان

عنایت: جناب حکیم محمد حیات صاحب چک نمبر 407 گ ب تاندلیانوالہ سردار آباد (فیصل آباد)۔

حوالہ شافی: پوست بیخ مگیاں چار تولہ، مصطلکی رومی ایک تولہ، فلفل سیاہ ایک ماشہ، سنگجراحت ایک تولہ، اگر موتھا چھ تولہ، پاپڑہ ایک تولہ، زخمیل ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے منجن سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دن میں تین مرتبہ استعمال کیجئے اور لعاب باہر گراتے

فائدہ: امراض دندان میں ہر لحاظ سے لاجواب کمال ہے۔

دل کے امراض

باب 12:

دل کی مختصر تشریح:
دل کو عربی میں قلب اور انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں یہ ایک عضو نہیں ہے جو کہ مخروطی شکل کے غلاف کے اندر ملفوف ہوتا ہے یہ سینے میں بائیں پستان کے قریب واقع ہے اس کا رجم تازگی میں سرخ اور پھر سرخ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اس کے اندر دائیں بائیں خانے ہوتے ہیں اور پر والے خانے اذن جب کہ نیچے والے بطن کہلاتے ہیں سارے جسم کا کشف خون دائیں اذن میں گرتا ہے پھر نیچے بطن میں آ جاتا ہے پھر وہاں سے صفائی کے لئے پھیپھڑوں میں گرتا ہے اور پھر شریان اعظم کے ذریعے تمام جسم میں چلا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے دل کی ضرب جو سینے پر ہاتھ رکھنے سے محسوس ہوتی ہے اس کی تعداد عمر کی مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے اس کی حرکت بند ہو کر سکون میں تبدیل ہوتی ہے (یعنی موت واقع ہوتی ہے) مردوں میں دل کا وزن پانچ سے چھ چھٹا تک جب کہ عورتوں میں چار سے پانچ چھٹا تک ہوتا ہے۔
دل کے حالات کا پتہ نبض، سانس، سینہ کے بالوں اور بدن کو چھونے سے چلتا ہے۔

ضعف قلب

اس مرض میں قلب کسی غیر معمولی صدمہ یا کسی اندرونی سبب سے مضطربانہ حرکت کرنے لگتا ہے۔

لگتا ہے۔

اسباب:

ضعف ہضم، خون کی کمی، ضعف اعصاب، تمباکو نوشی، کثرت چائے نوشی، شراب نوشی، کثرت جماع، مشت زنی، رنج و غم کی زیادتی وغیرہ اس کے اسباب میں شامل ہیں۔

علامات:

معمولی اتفاقی حادثے، میڑھیوں پر چڑھنے اور غصہ کی حالت میں دل سینے میں متغدد زور سے دھڑکتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے طبیعت ست دائی قبض اور بھوک کم ہو جاتی ہے خیالات زیادہ آتے ہیں وغیرہ۔

486- اکسیری منجن

عنايت: جناب حکیم محمد ساجد قادری صاحب بمبئی (ہند)۔
ہوالشافی: سہا کہ کفنتہ، مازد سبز، کباب چینی ہر ایک تین تولہ، ہلیلہ جلا ہوا، مہکلوئی کفنتہ سولہ، بایکارب ہر ایک چھ ماشہ، کوڑی کفنتہ تین تولہ، راکھ آک نو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے سفوف بنا لیجئے اور سنبھال رکھیں۔
ترکیب استعمال: بطور منجن استعمال کیجئے۔
فائدہ: اس سے دانتوں کی تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہیں ورم اتر جاتا ہے خون بند ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمک دار ہو جاتے ہیں۔

487- تریاق ماسخورہ

عنايت: جناب حکیم غلام رسول صاحب حیدرآباد باب السلام سندھ۔
ہوالشافی: شب یرمانی دو تولہ، نیلا تھو تھا ایک ماشہ، مصطکی رومی تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: شب یرمانی کو کڑا ہی میں رکھیں اور آگ جلا دیں جب پکھل جائے تو نیلا تھو تھا باریک شدہ ڈال دیجئے جب نئی قدرے باقی ہو تو مصطکی باریک کردہ اوپر چھڑک کر چاتوسے ہلاتے رہئے یہاں تک کہ رطوبت ختم ہو جائے پھر سرد ہونے پر سنبھال رکھئے۔
ترکیب استعمال: چار رتی منجن کی طرح دانتوں پر ملیں اور رال بہنے دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل رطوبت بہت سی خارج ہو کر ید بو پیپ خون وغیرہ رفع ہو جائے گا۔ دانت مضبوط اور سوڑھے طاقت ور ہو جائیں گے۔

488- دادو منجن

عنايت: جناب حکیم محمد حفیظ اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان۔
ہوالشافی: صدف سوختہ، سمندر جھاگ، سفیدہ کاشغری، مہکلوئی بریاں ہر ایک دو تولہ، مازد بریاں، چھالیہ سوختہ ایک تولہ، یوناشیم پرمینگنٹ نصف رتی، کاربالک ایسڈ ایک رتی، کانور ایک تولہ، برگ کنیر سفید، پوست انار، گنٹھلی جامن ہر ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے آپس میں ملا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: بطور منجن استعمال کریں۔
فائدہ: دانتوں کی تمام تکالیف کا مدد ادا ہے دانتوں کو موتیوں کی طرح چمکا دیتا ہے بڑے پایا کی چیز ہے۔



درج ذیل مجربات میں سے علاج کریں۔

489- خمیرہ گاؤ زبان عنبری

عنايت: جناب حکیم محمد شریف خان صاحب دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: گاؤ زبان دس ماشہ گل گاؤ زبان و ضیا خشک ابریشم مقررین بہمن سفید بہمن سرخ، مندل سفید، تخم بلنگو، تخم فرنج مشک ہر ایک ایک تولہ پانی دو کلو گرام، مصری تین پاؤ شہد خالص دس تولہ، عنبر شہب ڈیڑھ ماشہ، ورق نقرہ چھ ماشہ، ورق طلا تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد و مصری کا توام بنا کر ملا دیجئے بعد عنبر شہب مشک ورق نقرہ اور ورق طلا الگ الگ کیڑہ میں خوب کھل کر کے ملا کر خمیرہ تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ سے چھ ماشہ عرق گاؤ زبان اور عرق کیڑہ سے صبح و شام لیجئے۔

فائدہ: دماغی تقویت اور دل کی تفریح کے لئے بے نظیر ہے اس کے استعمال سے ہاتھ پیر خفقان اور ضعف قلب کی تمام شکایات رفع ہو جاتی ہیں ہزاروں مریضوں پر آزمایا جا چکا ہے نہایت ہی مجرب ہے۔

490- معجون عنبر

عنايت: شفا الملک جناب حکیم رشید احمد خان صاحب امر وہہ (ہند)۔

ہوالشافی: عنبر شہب ایک ماشہ، کستوری خالص، عتر قرحا، دار قفل، پنیر، مایہ شتر ارباب، جوزیرا، سیاسہ، زعفران آٹھ ماشہ، زخمیل، دار چینی، جدوار خطائی، ہر ایک ایک تولہ، شہد دو جند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور شہد میں ملا کر معجون تیار کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ رات سوتے وقت ہمراہ شیر نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: ضعف باہ کے لئے نہایت مجرب ہے ضعف قلب و دماغ، سستی کالی دور کرتا ہے معمولی مطب اکسیر الاثر ہے۔

491- دوائے قلب

عنايت: جناب حکیم محمد انوار الحق صاحب تھانہ بھون ضلع مظفرنگر (ہند)۔

ہوالشافی: زہر مہرہ خطائی، دانہ الاچی خورد، کہر یا شعی، طباشیر، کشیز خشک، مندل سفید ہر ایک ایک تولہ، ناریل دریائی ایک تولہ، کشتہ حقیق ایک تولہ، کشتہ مرجان چھ ماشہ، ورق نقرہ تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق گاؤ زبان عرق بید مشک ہر ایک چھ تولہ کھائیں۔

فائدہ: اختلاج قلب، ضعف قلب، خفقان وغیرہ میں اکسیر صفت ہے۔

492- جب جواہر

عنايت: جناب حکیم رفیق احمد صاحب بوڑیہ کلاں ضلع انبالہ (ہند)۔

ہوالشافی: مروارید ہفتہ یا قوت، بکھراج، زمرڈ، زہر مہرہ خطائی، فیروزہ، لہسد، طباشیر، کہر یا، ورق طلا، ورق نقرہ ہر ایک چھ ماشہ، عنبر چار ماشہ، مشک تین ماشہ، مومیائی تین ماشہ، ناریل دریائی ڈیڑھ ماشہ، جدوار خطائی ایک ماشہ، عرق کیڑہ، عرق گلاب آٹھ، عرق بید مشک، چھناک

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عریقات میں خوب کھل کر لیجئے جہاں تک گولی بنانے کے قابل ہو جائیں تو جب بقدر ایک رتی رتی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ شیر گاؤ کے ہمراہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: متوی و مفرح ہے خفقان، ضعف قلب و دماغ، ضعف باہ وغیرہ میں نہایت ہی بے مثل ہے۔

493- کشتہ مرجان

عنايت: جناب حکیم نور محمد صاحب انبالہ (ہند)۔

ہوالشافی: مرجان پانچ تولہ، نبات سفید دس تولہ۔

ترکیب تیاری: نبات سفید کو نیچے اوپر دے کر مرجان پانچ تولہ درمیان میں رکھ کر گل حکمت کر کے دس کلو ادیوں کی آگ دیجئے سفید کشتہ برآمد ہوگا پس کر سنجال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار رتی مکھن میں رکھ کر دیجئے جریان کے لئے معجون آرد خرمائی تولہ میں استعمال کیجئے۔

فائدہ: معمول مطب دل و دماغ میں تقویت پیدا کرنے کے لئے مفید الاثر ہے۔

494- اکسیر مقوی

عنايت: جناب حکیم سید ضمیر انور شاہ صاحب جرگہ پنیالہ (ہند)۔

214 **ہو الشافی:** مغز بادام شیریں دو تولہ چھوہارہ دو عدد مغز کپاس دو تولہ زعفران ایک ماشہ
مشک خالص دورتی۔

ترکیب تیاری: مغزیات کا شیرہ نکالیں پھر ایک گلو دودھ ملا کر آگ پر رکھیں جب گاڑھا
ہونے کے قریب ہو تو ایک گلو خالص شہد اور زعفران عرق بید مشک میں حل کر کے اضافہ کیجئے
جب دودھ کی مابیت جذب ہو جائے تو اتار لیجئے اور سرد ہونے سے پہلے مشک خالص مصری کے
ساتھ پیس کر ملا دیجئے۔

ترکیب استعمال: سات ماشہ سات دن تک دودھ کے ہمراہ کھائیے۔

فائدہ: جوانی کی نئی امگ پیدا کرنے اور دل و دماغ اور بصارت کی کمزوری دور کرنے کے
لئے تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

495- دوائے خیر

عنایت: جناب حکیم ایٹر سنگھ صاحب نیردبی کینیا افریقہ۔

ہو الشافی: عتر قرحا، لوگ، جانگل، جلوتری، دارچینی، قفل دراز، زنجبیل ہر ایک ایک تولہ
زعفران چھ ماشہ، مشک خالص دورتی، مویز متی دس تولہ، انزراق سوختہ آٹھ عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو الگ الگ باریک پیس لیجئے اور متی مویز میں کھرل کر کے
خوب باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے دو ماشہ نیم گرم پانی سے یا چائے سے کھلا دیجئے۔

فائدہ: جملہ امراض بارد کے لئے نہایت مفید ہے قانج، لقوہ، ریح، پروس، ضعف قلب وغیرہ
میں سینکڑوں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے۔

496- اکسیر خفقان

عنایت: جناب حکیم اسد اللہ صاحب گڈپہ مدراس (ہند)۔

ہو الشافی: کشتہ عقیق، کشتہ مرجان، کشتہ زمرڈ الاہچی خورد، زہر مہرہ خطائی، کشیز، طباشیر
مندل سفید، کبریا شعی، ناریل درائی تمام برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر کشتہ جات ملا کر سنبھال رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام شربت مندل کے ہمراہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: ضعف قلب، خفقان وغیرہ میں نہایت ہی جید الاثر ہے۔

497- معجون نقوی

عنایت: جناب حکیم سید ریاض حسین شاہ نقوی بخاری صاحب جھنگ۔

ہو الشافی: پوست آملہ، پوست ہلیہ، پوست بلیلہ، اٹھائیس اٹھائیس ماشہ، قفل سیاہ، قفل سفید،
قفل سفید، پوست آف آرن ہر ایک چودہ ماشہ، اصلی السوس چھپن ماشہ، نمک سنگ سات ماشہ، شہد
تین تولہ روغن گاؤ سات تولہ، مصری پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور روغن گاؤ میں چرب کر کے شہد و مصری کا
زاج بنا کر معجون تیار فرمایجئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم استعمال فرمائیے۔

فائدہ: متوی دماغ و متوی قلب ہے تجربہ شدہ ہے۔

فائدہ: متوی دماغ و متوی قلب ہے تجربہ شدہ ہے۔

498- حب خفقان

عنایت: جناب حکیم وڈاکٹر سید اولاد حسین نقوی صاحب لاہور۔

ہو الشافی: طباشیر تین ماشہ، ورق نقرہ پندرہ عدد، مروارید ناسفتہ ایک ماشہ، روح کیوڑہ دس
تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو روح کیوڑہ میں خوب کھرل کیجئے اور بقدر دانہ مسور گولیاں
تیار فرمایجئے اور سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: دن میں تین مرتبہ ایک ایک گولی ہمراہ عرق روح کیوڑہ و عرق بید مشک
دیجئے۔

فائدہ: کمال کی چیز ہے چند سینکڑوں میں فائدہ کرنے والی اکسیر دوا ہے بنا کر استعمال کیجئے
اور دماغ خیر سے نوازتے رہیں۔

499- اکسیر خفقان

عنایت: جناب حکیم سید محمد یوسف صاحب نظام حیدرآباد دکن (ہند)۔

ہو الشافی: سنگ یشب دو تولہ، ورق طلا ایک ماشہ، کستوری تین ماشہ، نبات سفید پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل فرمایجئے تقریباً تین چار گھنٹے کھرل
زرائے۔

ترکیب استعمال: تین رتی ہمراہ آب تازہ صبح و شام دیجئے۔

فائدہ: خفقان، ضعف قلب اور مراق میں نہایت ہی مفید نسخہ ہے۔

500- اکسیر اختلاج

عنایت: جناب حکیم علم الدین قریشی صاحب بھاگو والا امرتسر (ہند)۔

طغره

لش کی حالت میں سپرٹ امونیا ایروٹیک دس بوند پانی میں حل کر کے پلائیے اور تاک
بند کر دیجئے فوراً غشی رفع ہو جائے گی۔

مفرح قلب نسخہ جات

503- اکسیر مفرح

جناب حکیم رفیق احمد صاحب نجیب آباد بجنور (ہند)

عنايت: جناب حکیم رفیق احمد صاحب نجیب آباد بجنور (ہند)
ہو الشافی: کشتہ مرجان، کشتہ عقیق، کشتہ سنگ یشب، کشتہ زہر مہرہ خطائی، کشتہ سگجراحت
بڑیک چوتولہ ورق نقرہ تین تولہ عرق کیوڑہ پاؤ عرق بید مشک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کیوڑہ اور عرق بید مشک میں خوب کھل کیجئے عرقیات
تیار کر کے ملائے جائیے اور کھل کرتے جائیے جب عرقیات خشک ہو جائیں تو پورڈر سنبھال کر

استعمال: ایک رتی صبح ایک رتی شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے پھپھروں میں خون
آنے کے لئے شربت انجبار دو تولہ کے ہمراہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: دل کی دھڑکن یا غشی وغیرہ غم اور انفرادی کو دور کرتا ہے نہایت اعلیٰ مفرح ہے پھپھروں
سے خون آنے کو روکتا ہے۔

504- شربت مفرح

جناب حکیم مرزا محمد سکندر بیک صاحب سردج ٹونک (ہند)۔

ہو الشافی: مربہ آملہ، مربہ نارجن، مربہ سزجل ہر ایک دس تولہ، مربہ سیب ڈیڑھ پاؤ عرق
کب ایک پاؤ روح کیوڑہ دو تولہ، مصری آدھا کلو۔
ترکیب تیاری: مربہ جات کو عرق میں گھوٹ کر ایک پاؤ پانی ملا کر مصری ملا کر شربت بنا لیجئے
پھر آخر میں روح کیوڑہ ملا لیجئے۔

استعمال: چار تولہ صبح چار تولہ شام ہمراہ عرق بید مشک دیجئے۔
فائدہ: بالخصوص ضعف قلب اور خفقان میں اکسیر ہے مفرح اعلیٰ درجہ کا ہے۔

ہو الشافی: زہر مہرہ اصلی، مردارید ہمسفہ، کشتہ عقیق، کشتہ یشب، دانہ لالہ، خیرا، مغز کنول، کھنڈ،
ورق نقرہ ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کیوڑہ میں خوب کھل کیجئے یہاں تک کہ قہقہہ لڑ
عرق ختم ہو جائے جب پورڈر بن جائے تو سنبھال کر محفوظ فرمائیے۔
ترکیب استعمال: چار رتی صبح و شام ہمراہ نمیرہ گاڈ زبان کھلا دیجئے اوپر سے دودھ یا
دیجئے۔

فائدہ: اختلاج میں نہایت ہی مفید ہے اور دائمی طاقت بھی پیدا کرتا ہے۔

501- اکسیر خفقان خار

جناب حکیم چوندہ واس راولپنڈی۔

ہو الشافی: برگ نیم، برگ مہندی، مغز کنول ڈوڈا، الاچی، خورد کیر، ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پورڈر بنا کر محفوظ فرمائیے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ پانی سے صبح و شام استعمال کیجئے۔

فائدہ: یہ دوا دل کی دھڑکن کے لئے جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اس کی پہلی خوراک سے
فائدہ ہوتا ہے غریبوں کے لئے ہے جو ہیرے جواہرات نہ کھا سکتے ہوں قدر کیجئے۔

طغره

* پھول کنول خشک در سایہ بقدر چار ماشہ صبح و شام پانی سے دیجئے مریض کو فوراً آرام و
سکون ہو جاتا ہے پیاس، مٹی، قے رفع ہو جاتی ہے گھبراہٹ بے چینی بھی دور ہو جاتی
ہے۔

502- اکسیر خفقان بارو

جناب حکیم دلبر شاہ صاحب موضع لڈو گجرات۔

ہو الشافی: کشتہ فولاد و لائی، کشتہ مرجان دس، کشتہ ولایتی ہر ایک ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تینوں ادویات کو خوب کھل کیجئے اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: چار رتی ہمراہ دودھ یا پانی صبح و شام دیجئے۔

فائدہ: ضعف قلب، وجع القلب، خفقان اور دل کی دیگر تمام امراض میں اکسیر ہے بہت کام
ہر مہرہ سے لیا جاتا ہے اتنا ہی اس غریبانہ دوائی سے ہوتا ہے۔ چند خوراکوں سے تمام اعضاء
میں طاقت آ جاتی ہے مقوی باد بھی جد درجہ کا ہے بلکہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے مریضوں کو
تند بنا دیتی ہے جو صاحب آزمائیں گے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔

505- پاسبان شربت

عنايت: جناب حکیم جے سنگھ صاحب سوارت چک درہ سرحد۔
حوالہ شافی: گل نیلوفر دس تولہ گل موتیا تین تولہ گل کینکی تین تولہ گل نسرین دو تولہ گل
 یا سمن ایک تولہ گل گاؤ زبان تین تولہ نبات سفید ایک کلو پانی ایک کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں ڈال کر بارہ گھنٹے تک رکھیں بعد گرم کریں کہ پانی
 پاؤ خشک ہو جائے پھر مل چھان کر معری ملا کر شربت تیار کیجئے۔
ترکیب استعمال: تین تولہ مناسب پانی میں ملا کر استعمال کیجئے۔
فائدہ: موسم گرما کے لئے نہایت مفید ہے ضعف قلب وغیرہ میں مستعمل ہے۔

505- شربت بادام

عنايت: جناب حکیم تارا چند صاحب لاہور۔
حوالہ شافی: مغز بادام شیریں دس تولہ مغز تخم خرپڑہ مغز تخم خیارین دانہ الاچھی سفید تخم خرفہ
 سیاہ ہر ایک ڈھائی تولہ سہاگہ دس ماشہ آب لیوں تازہ دس تولہ۔
ترکیب تیاری: آب لیوں کے علاوہ تمام ادویات کو ایک کلو پانی میں پیش کر شیرہ نکال لیجئے
 پھر اس میں آب لیوں اور شکر سفید دو کلو ڈال کر شربت کا قوام بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: پانچ تولہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں۔
فائدہ: موسم گرما میں یہ شربت بہت مفید ہے پیاس روکتا ہے گھبراہٹ بے چینی میں مستعمل
 ہے۔

507- شربت مفرح

عنايت: جناب حکیم محمد جمشید علی خان صاحب جے پور (ہند)۔
حوالہ شافی: گل گرہل سبزی دور کردہ سو عدد پانی ایک کلو قد سفید تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: بطریقہ معروف شربت تیار کیجئے اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: تین سے چار تولہ شربت ایک پاؤ پانی میں ملا کر پی لیجئے۔
فائدہ: نہایت عمدہ مفرح ہے گرمیوں کا تحفہ ہے۔

508- شربت گل

عنايت: جناب حکیم سید غلام علی شاہ صاحب دیل پور گورداسپور۔
حوالہ شافی: گل نیلوفر گل موتیا گل کیوڑہ گل نسرین گل چنبیلی گاؤ زبان مندل سفید گل

بہاریم دزن۔
 بطریقہ معروف عرق کشید کیجئے اور معری ملا کر شربت کا قوام بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: تین تولہ تازہ پانی کے ہمراہ صبح کے وقت استعمال کیجئے۔
ترکیب تیاری: طبیعت کو تفریح بخشنا ہے حرارت کو رفع کر کے تسکین دیتا ہے موسم گرما کا خاص بے نظیر
 تحفہ ہے جو خدمت میں پیش ہے۔

509- معجون مفرح

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب قصبہ پاٹ دادو باب الاسلام سندھ۔
حوالہ شافی: مغز چلغوزہ تین تولہ مغز اخروٹ تین تولہ مغز بادام چھ تولہ بیخ زعفران، قلفظ
 خشک کشتہ فولاد کشتہ مرجان کشتہ عقیق ہر ایک ایک تولہ گل بابونہ کثیرا ازرنی
 مغز بادام سفید شکر شکر مغز بادام سفید شکر شکر مغز بادام سفید شکر شکر
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک کھل کر کے شہد میں ملا کر معجون بنا لیجئے اور
 چھ ماہ صبح چھ ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔

510- حب جوگی

عنايت: مسج الملک جناب حکیم میاں محمد حسن صاحب سرہند شریف (ہند)۔
حوالہ شافی: زبسی ایک تولہ زعفران ایک تولہ افیون دو تولہ عنبر دو ماشہ ناریل سالم ایک عدد
 دودھ چالیس کلو گرام۔
ترکیب تیاری: ناریل میں ایک چھوٹا سا سوراخ نکال کر تمام ادویات اس میں ڈال کر منہ بند
 کر کے اوپر آرز گندم سے خوب سمپٹ کر دیجئے خشک ہونے پر دودھ میں چھوڑ کر دودھ ابالنا
 شروع کر دیجئے اور گھودھ ہلاتے رہئے جب دودھ کھویا بن جائے تو ناریل نکال لیجئے اور ناریل
 سے آٹا اتار کر خوب کوٹیں اور دو دو رتی کی گولیاں بنا لیجئے اور درق نقرہ پیٹ لیجئے کھویا کام میں
 لائیے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی بوقت صبح شیر گرم دیجئے اساک کے لئے ایک گولی ایک گھنٹہ
 قبل دیجئے اور بدل افیون کے نصف گولی دیجئے۔
فائدہ: مقوی باؤ دفع احتلام مولد منی مفرح قلب ہے افیون کی عادت ترک ہو جاتی ہے
 سک درجہ اول ہے بارہا کا تجربہ ہے نہایت اکسیر دوا ہے بنائیں اور شہرت پائیں۔

زبان اور منہ کے امراض

منہ کو فارسی میں دہن اور انگریزی میں ماؤتھ کہتے ہیں یہ ہضم کا پہلا آلہ ہے جب غذا کا چبایا جاتا ہے تو لعاب دہن کے ملنے سے پہلے ہضم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔

منہ آنا:

منہ کے اندر کی جلی متورم ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ کبھی سفید اور کبھی سرخ ہو جاتا ہے گلا زبان مسوڑھوں اندرونی رخساروں لبوں کے اندرونی حصہ میں چھوٹے چھوٹے آبلے بن جاتے ہیں جو درد کرتے ہیں گھنگھو کرتے وقت کھاتے پیتے وقت تکلیف ہوتی ہے سانس بدبودار آتا ہے اور آخر کار زخم ہو جاتے ہیں۔

اسباب:

گرم اور مصالحہ دار تیز مرچ والی غذائیں کثرت سے کھانا قبض، بد ہضمی، سوزا کی مادہ کے باعث یا منہ کے اعصاب میں تحریک پیدا ہو کر سوزش ناک ہو جانے سے بھی منہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات غد بھی سوزش ناک ہو کر سرخ رنگ اختیار کر لیتے ہیں وغیرہ۔

علامات:

اعصاب میں تیزی کے باعث اگر منہ آئے تو مریض کے اندر تمام علامات سرد پانی جائیں گی مثلاً پیشاب بالکل سفید ہوگا زیادہ مقدار میں آتا ہوگا تکلیف کی شدت میں ہلکا بخار بھی ہوگا زبان اور منہ میں سفیدی مائل دانے ہوں گے رال بکثرت بہتی ہوگی اور اگر غد ناکہ کی سوزش سبب ہوگی تو علامات اس کے مطابق ہوں گی مثلاً منہ میں جلن ہوگی، گلا جلتا ہوگا، پیشاب تھوڑا تھوڑا رک کر آتا ہوگا رنگت زرد سفیدی مائل ہوگی غذا نگلنے میں مشکل ہوگی منہ سے لیسدار رال بہتی ہوگی وغیرہ نیز رنگت دانہ سرخ ہوگی سبب کے مطابق علاج کیجئے نیز پرہیز واجب ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

511- دوائے خاص

تیب: جناب حکیم لیش پال صاحب روپڑ انبالہ (ہند)۔

ہو اللشافی: جناب اللشافی: حیر الاعرابی ملین، جغری برابر وزن۔
تذکیب تیاری: دولوں کو خوب باریک پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: تین ماشہ ہمراہ شربت کو کنار استعمال کیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کا خون بند کرنے کے لئے صدمہ مرتبہ کا مجرب ہے کثرت حیض کے لئے نہایت مفید ہے۔
منہ سے خون آنا، خونی اسپہال، بوا سیر، نواسیر، خونی وغیرہ میں بے نظیر و بے مثال ہے۔

512- سفوف عبیدی

غنایت: جناب حکیم محمد رفیق صاحب گوجرانوالہ۔
ہو اللشافی: زہر مہرہ، کباب چینی، طباشیر، کھتہ سفید، زیرہ سفید، گل سرخ، دانہ الاچھی خورد،
تول ڈوڑھ ہر ایک برابر وزن۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے کپڑ چھان کر لیجئے اور محفوظ رکھیں۔
تذکیب استعمال: دن میں تین تین دفعہ منہ میں چھڑکیں اور شربت بزوری بارو ایک دو دنہ دن میں پلائیں۔
فائدہ: منہ آنے میں مفید ہے اور بد بو منہ میں بنید الاثر ہے۔

513- غرغرہ

غنایت: جناب حکیم غلام مرتضیٰ صاحب مدینہ المرشد کراچی
ہو اللشافی: دھنیا خشک، چھ ماشہ، بھنگوی تین ماشہ، برگ حنا تین ماشہ، زوررد ایک ماشہ، نیلا
نوتھادورٹی۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور ڈیڑھ پاؤ پانی میں حل کر کے محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: کلیاں کیجئے۔
فائدہ: شانی مطلق شفا عطا فرمائے گا ان شاء اللہ عزوجل۔

514- دوائے لکنت

غنایت: جناب حکیم چوہدری شیر محمد خان صاحب کوتلی نقو ملی سیالکوٹ۔
ہو اللشافی: اسطوخودوس، لفلعل سیاہ، خولنجان، عقرقرحہ، کندر، ج، لوگ، نوشادر، زمین کند، نمک
لاہوری، سہا کہ بریاں، مغز بادام برابر وزن، شہد چار گنا۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد میں ملا لیجئے۔
تذکیب استعمال: دن میں تین مرتبہ تین تین ماشہ زیر زبان لگا کر مل دیا کریں۔

فائدہ: کت کے لئے اکسیر صفت ہے۔

515- اکسیر قلاع

عنايت: جناب حکیم نور محمد صاحب سیالکوٹی کوئٹہ بلوچستان۔

هو الشافى: برگ گاؤ زہان سوختہ کباب چینی دانہ الاچی خورد کھتہ سفید سفیرا کھراحت بلوچ
سیاہ قلمی شورہ ہر ایک چھ ماشہ زیرہ گلاب کشنر خشک طہاشیر سفید ہر ایک چار چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب ہار یک کر کے کپڑ چھان کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: بوت ضرورت چٹلی بھرنج دشام چھالوں پر چھڑکیں اور منہ پیچ
کر دیجئے۔

فائدہ: دو یا تین دنوں میں قلاع میں اکسیر مجرب ہے۔

516- سفوف قلاع

عنايت: جناب حکیم مولوی فضل الہی صاحب لوہاری لاہور۔

هو الشافى: گل سرخ کھتہ سفید شورہ قلمی الاچی خورد ہر ایک تین ماشہ کافور ایک ماشہ نیلا
تھوتھا بریاں چھرتی۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دن میں دو تین مرتبہ چھالوں پر لگا دیجئے۔

فائدہ: منہ آنے میں نہایت ہی مجرب ہے۔

517- اکسیر قلاع

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم قطب الدین چک نمبر 79 ہارون آباد بہاولپور۔

هو الشافى: قلمی شورہ کھتہ سفید الاچی خورد گل سرخ ہر ایک دو تولہ کافور ایک تولہ نیلا
تھوتھا بریاں چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک چٹلی بھر دو دانوں پر مل دیا کریں۔

فائدہ: جہاں کوئی دوا مفید نہ ہو یہاں اس دوا کو آزمائیے ایک سو ایک فیصد مجرب ہے۔

518- غرغره گندہ دہنی

عنايت: جناب حکیم محمد خلیل دیباپور اڈاکاڑہ۔

هو الشافى: مازو سبز حب الاس زردورد گلزار پھلکوی کھتہ طہاشیر ہر ایک چھ تولہ سرکہ ایک

تھوتھا بریاں چھرتی۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک پیس کر پانی اور سرکہ اہلیس اور اس میں ڈال دیجئے۔

ترکیب استعمال: نیم گرم پانی سے کلیاں کیجئے۔
ترکیب استعمال: کو ختم کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے خون آنے میں نہایت ہی
مفید ہے۔

طغری

پھلکوی ایک ماشہ نیلا تھوتھا چار چاول پیس کر پانی میں حل کر کے کلیاں کرائیں۔

کافور اور ست پودینہ دونوں کو باہم ملا کر پھریری سے لگا دیا کیجئے۔

چھڑا پوڈین دانٹوں اور مسوڑھوں پر دن میں دو مرتبہ لگایا کریں۔

سہاگہ بریاں شہد میں ملا کر دونوں وقت زبان کی جڑ پر ملنا مفید ہے۔

دارچینی اور قافل دراز کا چبانا بھی مفید ہے۔

روغن گاؤ نیم گرم ناف میں لگانے سے ہونٹوں کا پھٹنا ختم ہو جاتا ہے آزمائش ضروری
ہے۔



سینہ اور پھیپھڑوں کی امراض

سینہ دھڑکے بالائی حصہ پر واقع ہوتا ہے سامنے دونوں جانب چھ چھ پھلیاں اور ان کے سروں کی نرم ہڈیاں 'مغزوف اور مصلے اور سینہ کی ہڈی پیچھے کی طرف بارہ بارہ ہڈیاں اور ان کے عضلات اور پشت کے مہرے اس میں شامل ہیں۔

پھیپھڑے بھی رگت میں گلابی سیاہی مائل داغ دار ہوتے ہیں ہر پھیپھڑہ کی بیرونی سطح مہذب اور اندرونی سطح مجوف ہوتی ہے پھللا کنارہ مدور اور لمبا اگلا کنارہ پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے یہ ایک گہرے شکاف کی صورت میں چیرا ہوا ہوتا ہے۔

مردوں کی نسبت عورتوں کے پھیپھڑے قدرے ہلکے ہوتے ہیں۔

دمہ

دمہ لفظ دم سے نکلا ہے دم سے مراد سانس ہے جس کا سانس تنگی سے آتا ہوا سانس پھولنا ہو جلدی جلدی سانس لینا پڑتا ہو دمہ کہلاتا ہے۔ عموماً یہ کیفیت ہوائی تالیوں یا اعضا کی غیر طبعی حرکات اور صورت سے پیدا ہوتی ہے اس میں کبھی آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔

اقسام:

اطباء جدید و قدیم نے دمہ کو تین اقسام میں شمار کیا ہے۔

- (1) نزلی دمہ
- (2) قلبی دمہ
- (3) گلوبی دمہ

نزلی دمہ:

اس قسم میں نزلی بلغمی اور استرخائی اقسام بھی شریک ہیں مریض کے اعضاء صدمہ پر رطوبات کی کثرت ہو جاتی ہے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں بلغم کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے کوشش کے بعد بھی بلغم خارج نہیں ہوتی اور یوں الٹی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قارورہ سفید اور غیر منہم ہوتا ہے کبھی رطوبات کا دباؤ پھیپھڑوں کی طرف بڑھ کر دورے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور انتڑیوں کی طرف کم ہو کر قبض ہو جاتی ہے۔

سینہ میں خشکی، رخی اور معدی دمہ شامل ہیں اکثر پیٹ میں ریاح، قبض کی زیادتی اور قارورہ کی کمی قبض تیز، گھبراہٹ، حرارت کا بڑھ جانا وغیرہ۔

اس دمہ میں غشاء مخاطی جگر اور گردوں کے افعال میں خرابی ہوتی ہے۔ بلغم چلی و فلیطہ رنگ زردی مائل اکثر چہرے اور قارورہ میں زردی جی متلانا، کبھی مروڑ کی کیفیت بعض اوقات پیشاب میں جلن پینے میں جلن رنگت زردی مائل اور ضعف قلب کی شکایت ہوتی ہے۔

درج ذیل مجربات میں سے علاج کیجئے۔

519- حب دمہ

عنايت: جناب حکیم قاضی خورشید حسن صاحب حسین آباد لکھنؤ (ہند)

ہو الشافى: زعفران، جائق، جلوتری، ریوند چینی ہر ایک چھ چھ ماشہ زردی بیضہ مرغ ایک

ہر ایک تیارى: تمام ادویات کو خوب باریک فرمالیجئے اور زردی بیضہ مرغ میں کھرل کر کے بوب دانہ موگ کر کے محفوظ رکھئے۔

ہر ایک استعمال: ایک سال کے بچے کے لئے ایک دو سال کے بچے کے لئے دو گولی

فائدہ: کھانسی، دمہ، ڈبہ، کثرت پیاس وغیرہ میں مفید الاثر ہے۔

520- اکسیر ضیق النفس

عنايت: جناب حکیم حافظ ابوتراب محمد عبدالحق خان صاحب امرتسر (ہند)۔

ہو الشافى: کبوتر صحرائی ایک عدد، الاچھی خورد، لوگ ہر ایک ایک تولہ، نمک سانہر پانچ تولہ۔

ہر ایک تیارى: کبوتر کو اندر باہر سے صاف کر کے تمام ادویات اس کے پیٹ میں ڈال کر ملائی کر دیجئے پھر ایک کوزہ میں گل حکمت کر کے دس کلو اوپلوں میں جھونک دیجئے سرد ہونے پر باریک کر کے سنبھال لیجئے۔

ہر ایک استعمال: چار چاول برابر شہد ملا کر چٹائیں بچوں کو نصف رتی خوراک۔

فائدہ: دمہ، کھانسی ہر قسم کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔

521- دوائے انمول

عنايت: جناب حکیم پیر ظہور احمد شاہ صاحب جلال پور جٹاں کجرات۔
حوالہ شافی: بیٹھا جلیہ ایک تولہ، فلفل سیاہ ایک تولہ، آب اورک تازہ تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: آب اورک تھوڑا تھوڑا اڈال کر دونوں دواؤں کو خوب کھرل کیجئے حتی کہ بال
 خشک ہو جائے پھر دانہ ماش برابر گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ عرق سونف کھلا دیجئے۔
فائدہ: بلنی کھانسی چار پانچ یوم میں ختم ہو جاتی ہے دمہ کے لئے دو ہفتے دوا کھلا دیجئے۔ تمام
 بلنی امراض میں جید الاثر ہے۔

522- اکسیری روغن

عنايت: جناب حکیم محمد افضل صاحب لاہور۔
حوالہ شافی: سم الفار ایک تولہ زردی بیضہ مرغ بیس عدد کستوری تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: پہلے سم الفار کو زردی بیضہ مرغ میں کھرل کیجئے پھر آتش بوتل سے روغن کشید
 کیجئے اور کستوری اس میں کھرل کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو قطرے مکھن میں لپیٹ کر نگل جائیں۔
فائدہ: تقویت باہ کے لئے نہایت مجرب ہے اور ضیق النفس اور امراض بارودہ میں خصوصیت
 سے مفید ہے کم شدہ طاقت واپس لٹا دیتی ہے۔

523- کشتہ قیمتی

عنايت: جناب حکیم محمد فضل الرحمن صاحب ویٹرنری انسپکٹر کوئٹہ۔
حوالہ شافی: سم الفار نیلگوں ایک تولہ پوست درخت اہلی آدھا کلو۔
ترکیب تیاری: پوست کو خوب کوٹ کر نغده بنا لیجئے اور سم الفار درمیان میں رکھ کر خوب
 پست کر کے دس کلو اہلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر سم الفار نکال کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک چاول مکھن یا ملائی میں لپیٹ کر کھا لیجئے۔
فائدہ: دمہ کے لئے نہایت ہی اکسیر ہے اس کے علاوہ ضعف باہ میں بھی تجربہ شدہ
 ہے۔ جب حکیم صاحب خود دمہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو ان کے پیر صاحب نے ان کو یہ دوا دی
 وقت یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے گوشت تحلیل ہو چکا تھا ایسے میں اس دوا نے ایسا جادو کیا
 تندرست و توانا ہو گئے تیر بہدف پایا صد ہا مریضوں کو دوا دے کر آزمایا شفا ہی نصیب ہوئی

524- تریاق ضیق النفس

عنايت: صبح الفراء جناب حکیم محمد رحمت علی صاحب سردار آباد (بھیل آباد)۔
حوالہ شافی: جنگلی کیدڑ تمباکو کا پھانکا ایک پاؤ، ناکدون کا پھانکا ایک پاؤ، مصلی دو تولہ پوست
 صبح کبجہ چار تولہ صبح کنڈ پاره پانچ تولہ پانی تین کلو کرام ہات سفید دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو تین کلو پانی میں ڈال کر ست لگانے پھر اس ست میں دو تولہ
 ہات سفید ملا کر پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: روزانہ صبح تین سے چھ ماشہ تک کھلائیں۔
فائدہ: پہلے منہ سے گندہ لعاب نکلے گا پھر کھل کر تے آئے گی اسی طرح تین دن استعمال
 کیجئے تمام نچھوڑ اور خشک بلغم اندر سے خارج ہو جائے گا اور مریض کلی طور پر صحت یاب ہو جائے
 گا۔

525- حب حاصل

عنايت: جناب حکیم محمد سیف انج صاحب چک نمبر 53 ش۔ ل سرگودھا۔
حوالہ شافی: سم الفار سفید، شکر فلفل دراز، کھمیل ہر ایک ایک تولہ، آب اورک ایک کلو۔
ترکیب تیاری: پہلے تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے بعدہ تھوڑا تھوڑا آب اورک ملائے جائے
 اور کھرل کرتے جائے حتی کہ تمام آب جذب ہو جائے پھر فلفل سیاہ برابر خوب بنا کر محفوظ
 رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے دوران دوا کھی وغیرہ
 خوب استعمال کیجئے۔
فائدہ: ضعف باہ نامردگی، سستی امراض بارودہ دمہ وغیرہ میں بہت ہی مفید الاثر ہے۔

526- حب دمہ

عنايت: جناب حکیم کویراج ویدرام لعل صاحب سرگودھا۔
حوالہ شافی: ہرڑ سیاہ نمک گوماں، چر اسٹہ ہر ایک دو تولہ، مصلی چار تولہ ہلدی چھ ماشہ پوست
 مدار ایک تولہ، گودہ کنوار گندل پانچ کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب گودا میں کھرل کیجئے اور خوب بخودی بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: دو گولی صبح، دو گولی شام ہمراہ عرق سونف ہفتہ عشرہ استعمال کروائیے۔
فائدہ: دمہ کی بیماری رفع ہو جائے گی مگر دوا ایک مہینہ تک مسلسل کھاتے رہیں دوبارہ مرض
 حملے کا ڈر نہیں رہتا۔

527- جوشانده دمنہ

عنايت: جناب حکیم اللہ بخش صاحب جہاں میانوالی۔
ہو الشافی: گل بنفشہ، بادیان، برگ گاؤ، زبان سپھان، گل زوقا، خشک، پروسشان، عم غلبہ، اصل السوس، مقرر ہر ایک چھ چھ ماشہ، انجیر زرد تین ماشہ، اسی چھ ماشہ، اجوائن خراسانی تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: جملہ ادویات کو دو کلو پانی میں بھگو دیجئے خوب ابالیں حتی کہ آدھا حصہ خشک ہو جائے پھر اتار کر پن چھان کر قدرے معری ملا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: قدرے نیم گرم دن میں ایک ایک کپ تین وقت پی لیجئے۔
فائدہ: ضیق النفس، سرفہ بلغمی کے لئے مفید الاثر ہے۔ دو ہفتہ استعمال کیجئے۔

528- حب ضیق النفس

عنايت: جناب حکیم پنڈت سورام داس صاحب کوچہ دیوان مصدی مل لاہور۔
ہو الشافی: تمباکو دہی آٹھ تولہ، پوست آٹھ تولہ، پانی ایک کلو، پرانا گڑ آٹھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمباکو اور پوست کو پانی میں بھگو دیجئے صبح آگ پر خوب پکائیں جب پانی ایک پاؤرہ جائے تو خوب مل چھان کر اور پانی کو پھر آگ پر رکھیں جب قدرے گاڑھا ہو تو پرانا گڑ باریک کر کے ڈال دیجئے اور جب گولی بننے کے قابل ہو تو گولی بنا لیجئے اور محفوظ رکھیں گولی چار چار رتی کے برابر ہو۔
ترکیب استعمال: ایک گولی تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام دیجئے۔
فائدہ: دمنہ کے لئے نہایت مفید ہے کھانسی کا خاتمہ کرتا ہے بلغم چھانٹتا ہے۔

529- سفوف زرد

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم صاحب احمد نگر جھنگ۔
ہو الشافی: ہڑتال درقہ دو ماشہ، مرج سیاہ دو ماشہ، قفل سیاہ مزید اٹھائیس ماشہ۔
ترکیب تیاری: پہلے ہڑتال درقہ دو ماشہ اور قفل سیاہ دو ماشہ خوب ایک گھنٹہ تک کھل کیجئے بعد چار ماشہ قفل سیاہ مزید ڈال کر ایک گھنٹہ کھل کیجئے پھر آٹھ ماشہ اور ڈال کر ایک گھنٹہ کھل کیجئے پھر سولہ ماشہ مزید ڈال کر چوبیس گھنٹہ کھل کر کے محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو رتی سے ایک ماشہ تک ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔
فائدہ: امراض ہادرہ و عصبہ ضیق النفس، سرفہ وغیرہ میں نہایت مجرب ہے آتشک اطروہ وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

530- کشتہ صدف مرواریدی

عنايت: جناب حکیم احمد علی صاحب کنڈیاں میانوالی۔
ہو الشافی: صدف مرواریدی سوختہ پانچ تولہ، گندھک آلمہ سار چار تولہ، نوشادر ٹھکری تین در۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے مکیہ بنا کر گل حکمت کر کے چار کلو اولیوں کی آگ دیجئے کشتہ ہو جائے گا۔ باریک کر کے محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دورتی بتاشہ میں رکھ کر کھلا دیجئے غذائیں مرغن دیجئے۔
فائدہ: ضیق النفس وغیرہ میں کمال چیز ہے۔

531- کشتہ مرجان

عنايت: جناب حکیم عزیز محمد صاحب میر پور بارشہ پورہ۔
ہو الشافی: برگ سناکی ایک پاؤ، مرجان پچاس گرام۔
ترکیب تیاری: سناکی کو باریک کر کے دو نان بنا لیجئے درمیان میں مرجان رکھ کر دو صد اولیوں کی آگ دیجئے کشتہ ہوگا۔
ترکیب استعمال: دو یا تین چاول شہد میں ملا کر چٹائیں۔
فائدہ: ضیق النفس اور کھانسی مزمن میں مفید و مجرب ہے۔

532- تحفہ احمد شاہی

عنايت: جناب حکیم ظہور حسین صاحب ڈنگہ گجرات۔
ہو الشافی: پارہ گجراتی، گوونتی، شاخ مرجان سوختہ، شاخ مرجان، عقیق یمنی، صدف مرواریدی ہر ایک دو تولہ، آب کھیکھوار برگ چہ پشہ بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دونوں آب میں خوب کھل کیجئے اور دس کلو اولیوں کی آگ میں جمویک دیجئے بعد میں شیر مدار میں کھل کر کے گل حکمت کر کے دس کلو اولیوں کی آگ دیجئے پھر برگ اڑوسہ میں کھل کر کے آگ دیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے دورتی شہد میں ملا کر چٹائیے۔
فائدہ: دمنہ کے لئے اکسیری چیز ہے پرانی کھانسی کا خاتمہ کرتی ہے ڈبہ اطفال میں بے مثال ہے۔

533- سیمابی

230

عنايت: جناب حکیم محمد امین خان صاحب پٹالہ (ہند)۔
هو الشافى: سیماب ایک تولہ سم القاد ایک تولہ ورق لڑھ چار ماشہ سفیدی بیضہ سرخ ایک

ترياق تيارى: تمام ادویات کو سفیدی بیضہ سرخ میں خوب کھل کیجئے اور کنار سحر الیٰ ہار
جوب تیار کر کے مٹی کے برتن میں پانچ مرتبہ گل حکمت کر کے پانچ گلو اوپلوں کی آگ دیجئے
سفید رنگ کا کشتہ برآمد ہوگا کھل کر کے محفوظ فرمائیے۔
ترياق استعمال: ایک چاول پان میں رکھ کر کھائیے۔
فائدہ: دمہ کے لئے نادر اور مجرب چیز ہے آزمائیے اور دعائیں دیجئے۔

534- شربت اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم محمد اقبال صاحب تاندلیا نوالہ لعل آباد۔
هو الشافى: گل بنفشہ بزرگتان ہر ایک تین تولہ بزرگ طور دو تولہ چینی نو چھناک
ترياق تيارى: بلریتہ معروف شربت تیار فرمائیے۔
ترياق استعمال: ایک تولہ سے دو تولہ گرم پانی میں ملا کر تین ہار پلائیے۔
فائدہ: دمہ کھانسی میں اکسیر شربت ہے۔

535- کشتہ قصیص

عنايت: جناب حکیم فصیح الزمان صاحب بھنڈی بازار بمبئی (ہند)۔
هو الشافى: کشتہ قصیص ایک تولہ کشتہ مروارید ناسفتہ ڈیڑھ ماشہ کشتہ تمباکو ایک تولہ کشتہ
کافی سرخ، قلمی شورہ، گل ارمنی، مھکوی سفید ہر ایک تین ماشہ۔
ترياق تيارى: قصیص کو توار پر رکھ کر اوپر چینی کا برتن اوندھا کر کے سانس بند کر کے بیچ
آگ جلائیں کشتہ ہوگا اسی طرح تمباکو کو توار پر رکھ کر سانس بند کر کے آگ روشن کیجئے کشتہ تمباکو
تیار ہے کافی سرخ کو آگ کے گودہ میں رکھ کر گل حکمت کر کے آگ دیجئے کشتہ ہوگا۔ مروارید کو
عرق گلاب یا روح کیوڑہ میں کھل کر کے آگ دیجئے کشتہ تیار ہوگا مھکوی کو کھلتے کر لیجئے قلمی
شورہ اور گل ارمنی کو کھل کر کے ملا کر پورڈر بنا کر سنبھال رکھئے۔

ترياق استعمال: چار رتی ہمراہ بالائی یا مکھن صرف صبح کے وقت دیجئے۔
فائدہ: دمہ کے لئے تیر بہدف نہایت مفید ہے زیادہ تعریف فضول ہے کم لکھنے کو زیادہ سمجھئے
ضروری تاکید ہے۔

536- تریاق کھانسی

عنايت: جناب حکیم محمد بخش صاحب یک لہجہ 196 رکھ لعل آباد۔
هو الشافى: لعل سیاہ، لعل دراز، زولین، کھانسی، کالہ، انگلی، ہونکھار، کندہ، ہون، ہوتری، سہار،
ہونکھار، لعل، ہونکھار، ہر ایک چھ ماشہ پارہ، مصلیٰ، کندھک، آمہ، سار، آدھا تولہ، چھناک
ہونکھار، لعل، ہر ایک ایک تولہ۔
ترياق تيارى: تمام ادویات کو سرمہ کی مانند ہر ایک کر کے ہوار کے واسے برابر ہوب بنا
ترياق استعمال: ایک سے دو ہوب پان میں رکھ کر کھلا دیجئے یا شہد ملی چائے سے دیجئے
آب اورک سے کھلا دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کی کھانسی کے لئے تریاق ہے ضیق انفس کو بڑے سے اکھاڑ دیتی ہے کھانسی خواہ کتنی
کا پانی ہو اس کے استعمال سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے ایک تجربہ کا حامل لکھ ہے بنا کر
ذمت ملنے کیجئے اور دعائیں لیجئے اور طبی نسخہ جات کا لوہا منوائیے۔

537- دورہ دمہ

عنايت: جناب حکیم حافظ عبدالقادر رضا صاحب طبیب خاص مہاراجہ بہادر پور رحلہ دہلی (ہند)۔
هو الشافى: ہادیان، قلمی شورہ، تین تین ماشہ۔
ترياق تيارى و استعمال: سلوف کر کے چلم میں تمباکو کی جگہ رکھیں اور نئے حقہ میں
رکھ کر ہار منہ کش لگائیے۔
فائدہ: ایک ایک مہینہ تک دورہ دمہ نہیں پڑتا دمہ کو عارضی طریقہ سے روکنے کے لئے نہایت
مفید ہے مدت سے تجربہ میں چلا آ رہا ہے۔

538- حب دمہ

عنايت: جناب حکیم غلام سرور صاحب گھنٹہ گھر مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔
هو الشافى: سم القاد، کانی، بانچی، پوست، بیخ، مدار، نمک، زقوم، خانہ ساز، ہر ایک ایک تولہ، برگ
ہانہ، مصلیٰ، مال، کنگنی، ہر ایک آٹھ آٹھ تولہ پانی دو گلو۔
ترياق تيارى: پہلی چاروں ادویات کو خوب کھل کیجئے اور باقی تینوں ادویات کو پانی میں
دال کر خوب جوش دیجئے جب پانی تین حصے خشک ہو جائے تو اس ایک حصہ پانی میں پہلی چاروں
ادویات کو اچھی طرح کھل کیجئے اور دانہ موٹھ کے برابر ہوب بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول بمبارہ دوا کھن میں رکھ کر کھلا دیجئے اگر وہ پختی ہو تو حتیٰ
 شام ترقانی فارمولے
 ترکیب استعمال: ایک چاول بمبارہ دوا کھن میں رکھ کر کھلا دیجئے اگر وہ پختی ہو تو حتیٰ
 فائدہ: خواہ کسی قسم کا دمہ ہو اکیس یوم میں نابود ہو کر صحت کامل حاصل ہو جاتی ہے۔
 نوٹ: طوا دروا سے پہلے کھلا دیجئے تو نہایت ہی مفید ہے۔

539- اکسیر بلغمی دمہ

عنايت: جناب حکیم عبدالوہاب صاحب شمالی ارکات (ہند)۔

هو الشافى: تنکا زرخ زرد دار قفل، میٹھا میلیہ، گل عشر بزا اجوائں دسکی، نمک سیاہ ہر ایک
 ایک تولہ، شیرہ ادرك بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادرك میں خوب کھل کیجئے اور گل حکمت کسکے تین کو
 اوپلوں کی آگ دیجئے اور ہر ایک کر کے سنوف بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی ہمراہ ماہ الحسل دیجئے۔

فائدہ: بلغمی دمہ کے لئے نہایت مجرب ہے۔

540- کشتہ شنگرفی

عنايت: جناب حکیم ملک پرشاد صاحب ہریانہ ہوشیار پور (ہند)۔

هو الشافى: ہڑتال درقہ تین تولہ، شنگرف رومی دو تولہ، کشتہ فولاد آٹھ تولہ، خرگوش ایک عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور خرگوش کو آلائش و آلات سے پاک کر کے
 اس کے پیٹ میں بھر دیجئے اور گل حکمت کر کے بیس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال
 کر باریک پیس کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورتی روزانہ ہمراہ آب تازہ استعمال کروائیے۔

فائدہ: ہزاروں مرتبہ کا تجربہ شدہ دمہ کے لئے اکسیر نسخہ ہے بنا کر استعمال کروائیے اور خوب
 دعائیں لیجئے۔

541- سنیا سی جادو

عنايت: جناب حکیم محمد گلزار صاحب دہلی (ہند)۔

هو الشافى: سم الفار ایک تولہ، شیر مدار بقدر مناسب رکھ جہ پٹہ ایک کلو۔

ترکیب تیاری: سم الفار کو شیر مدار میں ترکیبے اور خشک کیجئے حتیٰ کہ ستر گرام شیر مدار میں
 کھل کے ذریعہ خشک کر لیجئے پھر نکیہ بنا کر راکھ میں دبا کر نیچے آگ روشن کیجئے راکھ کے اوپر
 دانہ کی رکھ دیجئے جب دانہ جل جائے تو آگ بند کر کے سرد کیجئے۔ سم الفار نکال کر خوب کھل
 کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

542- حب کرشمہ

عنايت: جناب حکیم محمد اقبال صاحب سرنی نگر کشمیر۔

هو الشافى: سم الفار ایک تولہ، المون چھ ماشہ، المیا ایک تولہ، تمباکو خوردنی ڈھائی تولہ، شیر مدار
 ایک تولہ، خم دھتورہ دس تولہ، خم قصب ایک تولہ، پانی ایک کلو۔

ترکیب تیاری: پہلی چار ادویات کو شیر مدار میں خوب کھل کیجئے جب شیر مدار ختم ہو جائے تو
 پھر خم دھتورہ اور خم قصب کو ایک کلو پانی میں خوب پکائیے جب پانی آدھا پاؤڑو جائے تو
 پھر خم کرہن کر اس پانی میں ادویات مذکورہ حرید کھل کیجئے یہاں تک کہ پانی ختم ہو کر گولیاں
 بننے کے قابل ہو جائے تو دانہ موٹھہ بمبارہ حبیب تیار کیجئے اور سنہال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح و شام کھن یا حلوا دس گھی سے کھلا دیا کیجئے۔

فائدہ: دو ہفتہ متواتر کا استعمال لاعلاج سے لاعلاج امراض شقایاب ہو کر دعا میں دینے لگتے
 ہیں۔

نوٹ: دوران دوا دسی گھی اور مرغن غذائیں خوب استعمال کیجئے۔

543- دوائے ثانی

عنايت: جناب حکیم محمد اکرم بھٹی صاحب شاہدرہ لاہور۔

هو الشافى: گوند کیکر، مغز بادام شیریں، زراوند حرق، حب المکلب بمبارہ وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر بادام روغن کی مدد سے حبیب چمکی
 بمبارہ بنا لیجئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ مناسب بذرقہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: ضیق النفس کے لئے نہایت اکسیر ہے۔

طغرے

* سوم کپا شین ماشہ دن میں دو مرتبہ جوش دے کر پینا دمہ میں مفید ہے۔

* نمک پانسہ بقدر دورتی شہد ملا کر صبح و شام چٹائیے دمہ کے لئے لاجواب ہے آزمائش
 شرط اول ہے۔

544- دوائے دورہ دمہ

عنايت: جناب حکیم سید معصوم شاہ بخاری صاحب کلکتہ (ہند)۔

ہوالشافی: برگ دستورہ، برگ بھنگ، قلمی شورہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھریں کیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: دورہ کی حالت میں تین چنگی چلم میں بھر کر بطور تمباکو پھاڑ لیجئے۔

فائدہ: دھواں اندر پہنچنے ہی دورہ ختم ہو جائے گا یہ عارضی دوا ہے بعد دورہ مستقل علاج کیجئے اللہ عزوجل شفا مرحمت فرمائے گا۔ انشاء اللہ عزوجل!

545- دوائی اولی

عنايت: جناب حکیم محمد سعید احمد صاحب بستی رابو سال ملتان۔

ہوالشافی: شکر ف رومی تین ماشہ، پہلی نو ماشہ، دودھ گاؤ پانچ تولہ، ویسی کھی دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی تینوں دواؤں کو خوب کھریں کر کے پیسہ کے برابر ٹکیہ بنا لیجئے پھر دسکائی میں تل کر سرخ کر لیجئے اور کھی کو اچھی طرح نچوڑ کر باریک پیس کر سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورتی صبح دورتی شام سادے پان میں رکھ کر کھائیے اور تموک کھجے رہئے۔

فائدہ: موجودہ بلغم خارج کر کے آئندہ کے لئے پیدائش روک کر دمہ کو جڑ سے اکھاڑنے میں اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔

546- جوشاندہ دمہ

عنايت: جناب حکیم محمد عدیم صاحب پٹیالہ (ہند)۔

ہوالشافی: گاؤ زبان، الاچی خورد، سونف، دھنیا، بید انہ، ناگر موتھا، ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ پورڈر ایک کپ پانی میں جوش دے کر ایک وقت صبح پائیں اسی طرح شام کو دیکھتے قدرے میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں۔

فائدہ: خشک دمہ میں مفید الاثر دوا ہے۔

کھانسی

عموماً پھیپھڑوں یا ہوائی نالیوں میں بلغم یا سوزش کے باعث پیدا ہو جاتی ہے بلغم یا سوزش کے ذریعے خارج ہوتا ہے اسی طرح پھیپھڑے سے بلغم یا سوزش کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ کھانسی کی تین اقسام ہیں:

زکھانسی
بہن کھانسی
مار کھانسی

زکھانسی: اس کھانسی میں اعصاب سوزش ناک ہو جاتے ہیں اس میں بلغم کی کثرت ہوتی ہے بلغم بن میں سفید ہوتی ہے بلغم کا اخراج مشکل سے ہوتا ہے وجود سرد ہو جاتا ہے جھینگیں بکثرت آتی ہیں اور آنکھوں سے اکثر پانی جاری ہو جاتا ہے اور کبھی یہ بلغم رقیق سینے پر گر کر کھانسی کا باعث بنتی ہے ایسے مریضوں کو پیشاب سفید اور بکثرت آتا ہے کھانسی کی کثرت سے دل ڈوبتا ہے اور کھانسی سے درد سر پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات تے بھی ہو جاتی ہے اگر مرض شدت اختیار کر جائے تو کالی کھانسی یا دمہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

بہن کھانسی

خشک کھانسی عموماً پھیپھڑوں کے باعث ہوتی ہے اس میں چہرہ اور قارورہ سرخی مائل ہو جاتا ہے پیٹ میں ریاح کی زیادتی قبض کی شکایت اور نبض منٹاری اور تیز تیز چلتی ہے بلغم قدرے زیادہ ہوتا ہے بلغم گاڑھی اور نہایت ہی مشکل سے خارج ہوتی ہے اگر یہی کیفیت مسلسل قائم رہے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہو کر خون آنے لگتا ہے بعض اوقات زخم میں پیپ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مار کھانسی

گرم کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں کی جھلی سے ہوتا ہے اس وقت یہاں سوزش پیدا ہو کر گرم کھانسی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً قارورہ قدرے زرد ہوتا ہے۔ بلغم زردی مائل پتلی گلے میں سوزش کبھی جی متلاتا ہے کبھی پیٹ میں مردہ پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات پیشاب میں جلن پیدا ہوتی ہے خفقان ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے وغیرہ۔

علاج کے لئے درج ذیل مجربات میں سے منتخب کیجئے۔

547- حب شفاء

عنایت: جناب حکیم سید ظفر یاب علی صاحب مگینہ بجنور (ہند)

هو الشافی: مغز بادام شیریں زعفران دارچینی مصری رب السوس شکرک ہر ایک

وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر فلفل سیاہ برابر خوب تیار فرمایا جائے۔

مخفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام تازہ پانی سے دیجئے۔

548- حب سعال

عنایت: جناب حکیم خان محمد صاحب اچھالہ شاہ پور۔

هو الشافی: ایون دو ماشہ مرکی دو تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو باریک کر کے نخودی گولیاں بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شربت بنفشہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کی کھانسی کے لئے مجرب ہے حتیٰ کہ شہیقہ کے لئے بھی لاجواب دوا ہے۔

549- اکسیر شفاء

عنایت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب آدم کے پیالہ (ہند)

هو الشافی: مردارید ناسفتہ کہر یا شعی یشب سبز گوند کتیرا گوند کیکر طباشیر زہر مہرہ ہر ایک

چھ ماشہ کشتہ طلعی دسکہ مرکب ایک ماشہ کشتہ مرجان جواہر دار تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ملا کر نہایت باریک مثل غبار کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے پانچ رتی شیر گاؤ سے روزانہ کھائیے۔

فائدہ: امراض قلب کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔ جریان احتلام سرعت انزال کے لئے

ناپاب چیز ہے۔ کمزوری دماغ کے لئے لاثانی دوا ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے میں اپنی مثال آپ

ہے۔ تجربہ شدہ اولیٰ ہے نسخہ وہ جو صحت بخشنے۔

550- اکسیر سعال

عنایت: جناب حکیم محمد ظہیر الدین صاحب میرٹھ یو پی (ہند)۔

هو الشافی: پھلکوی سفید سہاگہ نمک سیاہ لونا جی ہم وزن شیر مدار بقدر

تیار فرمایا جائے۔ تمام ادویات کو خوب کھل کر لیجئے اور شیر مدار تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں

3/4 حصہ برابر شیر مدار کھل ہو چکے تو گل حکمت کر کے دس کلو

کلو سفید لکڑے کا استعمال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو رتی شربت زوفا کے ساتھ استعمال کروائیے۔

فائدہ: نہایت ہی مفید اور تجربہ شدہ چیز ہے۔

551- حب سرفہ

عنایت: جناب حکیم محمد حبیب الرحمن نقشبندی دھرم پورہ کلکتہ (ہند)

هو الشافی: ایون سات ماشہ کنڈر اٹھائیس ماشہ میعہ ساٹھ اٹھائیس ماشہ صمغ عربی چار ماشہ

بوس اٹھائیس ماشہ۔ تمام ادویات کو باریک کر کے پانی کی مدد سے خوب نخودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کی کھانسی کے لئے حکمی شفا دینے والی دوا ہے۔

552- حب سعال

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب چک نمبر 328 فیصل آباد۔

هو الشافی: رب السوس ست اسپغول صمغ عربی نشاستہ کتیرا چاول کہنہ ہر ایک دو تولہ

تیار فرمایا جائے۔ تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر پانی کی مدد سے خوب نخودی تیار

کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ سادہ پانی استعمال کیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کی کھانسی کو دور کرنے میں بے مثال دوا ہے۔

553- اکسیر سعال

عنایت: جناب حکیم ویشنوداس صاحب گجرات۔

553- اکسیر سعال

عنایت: جناب حکیم ویشنوداس صاحب گجرات۔

553- اکسیر سعال

عنایت: جناب حکیم ویشنوداس صاحب گجرات۔

ہیبت: جناب حکیم ہرچند داس صاحب ننگانہ صاحب۔
 ہوالشیافی: رب السوس نو ماشہ قفل سیاہ ایک ماشہ نو شاد رو ماشہ اپیکا کو انکا ایک ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے پانی کی مدد سے خوب خودی بنا کر محفوظ رکھئے۔
 استعمال: صبح و شام ایک ایک گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
 فائدہ: یہ دوا اس وقت دیجئے جب ہنم گاڑھی ہونے کے باعث خارج نہ ہو سکے یہ دوا غلیظ ہنم کو اکاڑ کر نکالنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کی پیدائش کو روکتی ہے۔

557- دوائے اپیکا

ہیبت: جناب حکیم احمد رضا قادری صاحب کوٹ گھٹ لاہور۔
 ہوالشیافی: ایون ایک ماشہ گوند کیکر تین ماشہ معیہ ساٹھ سات ماشہ کندر سات ماشہ رب
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کوٹ چھان کر پانی کی مدد سے خوب دانہ مسور بنا لیجئے۔
 استعمال: ایک گولی سے دو گولی دن میں دو مرتبہ صبح و شام ہمراہ جو شاندہ دیجئے۔
 فائدہ: شدید کھانسی میں بے حد مفید ہے نزلہ حار ہو یا بارود رخ ہو جاتا ہے مرض سیال میں بھی
 مفید الاثر ہے۔ پرانی کھانسی اور پھیپھڑوں کے زخم تک درست ہو جاتے ہیں متعفن ہنم کو خارج
 کرنے میں لاجواب ہے۔
 نوٹ: ساتھ دیگر معاون ادویات لازمی استعمال کیجئے۔

559- اکسیر خشک کھانسی

ہیبت: جناب حکیم محمد دانیال قادری صاحب بمبئی (ہند)۔
 ہوالشیافی: گوند کیکر نشاستہ گندم گوند کتیرا شکر تین ماشہ سیدانہ مغز کدو مغز
 خیارین مغز بادام مقشرب السوس خشکاش سفید مویز منقی ہر ایک چھ ماشہ کوزہ مصری سات ماشہ
 زعفران ایک ماشہ اسپغول چھ ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیجئے پھر لعاب سیدانہ میں چے برابر گولیاں
 بنا کر کے محفوظ فرما لیجئے۔
 استعمال: بوقت ضرورت ایک سے دو گولی منہ میں رکھ کر چوسا کیجئے۔

ہیبت: جناب حکیم غلام مصطفیٰ صاحب مالا کنڈ ایجنسی
 ہوالشیافی: خم کاہو خم خذرب السوس حکمی سیدانہ کتیرا ہر ایک تین ماشہ مغز کدو مغز
 خیار مغز بادام ہر ایک چھ ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات پیس کر اسپغول کے لعاب کے ذریعے خوب بوقت خودی بنا
 فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت صبح دوپہر شام دو دو گولی منہ میں رکھ کر چوسئے۔
 فائدہ: خشک کھانسی کے لئے نہایت مفید ہیں عام کھانسی میں بھی فائدہ مند ہیں۔

554- دوائے سعال

ہیبت: جناب حکیم غلام مصطفیٰ صاحب مالا کنڈ ایجنسی
 ہوالشیافی: ایون مغز بادام مقشرب مصری زعفران ہر ایک چار ماشہ شکر تین ماشہ
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے قفل سیاہ برابر خوب تیار کیجئے۔
 استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کیجئے اوپر سے بعد میں پانی
 پئیں۔
 فائدہ: کھانسی جو زکام کے باعث ہو نہایت ہی مفید ہے۔

555- معجون ریزش

ہیبت: زبدة الحکماء جناب حکیم محمد عبدالکریم صاحب کھم کرنول (ہند)
 ہوالشیافی: کوکنار برگ بانسہ ہر ایک پانچ تولہ صمغ عربی کتیرا ملٹھی ہر ایک ایک تولہ
 مصطل رومی چار ماشہ مرکب پانچ تولہ ایون دو ماشہ زعفران دو ماشہ کوزہ مصری آدھا کلو۔
 ترکیب تیاری: پہلے برگ بانسہ اور کوکنار کو ایک کلو پانی میں بھگو دیجئے بعد صبح جوش دے کر
 جب پانی ایک پاؤرہ جائے تو دیگر ادویات خوب باریک پیس کر جب توام گاڑھا ہو تو ملا کر معجون
 بنا کر سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔
 فائدہ: نزلہ و زکام کے لئے بے مثال ہے ہر قسم کی کھانسی میں تریاق کا حکم رکھتی ہے۔

556- حب لازم

ہیبت: جناب حکیم غلام محی الدین صاحب بریلی شریف (ہند)
 ہوالشیافی: مرکب ایک تولہ ایون ایک ماشہ گوند کتیرا دو ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تینوں دواؤں کو خوب پیس کر پانی کی مدد سے خودی خوب تیار کر لیجئے۔
 ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام پانی کے ہمراہ دیجئے۔

فائدہ: نفث الدم سے الدم کثرت طمٹ، بوا سیر خونی وغیرہ میں اکسیری ہے۔

564- خون بند

عنايت: جناب حکیم محمد عبدالرحمن صاحب عین الشفاء راولپنڈی۔

هو الشافی: کشتہ گاؤدنی، کشتہ بارہ سنگھا، کشتہ مرجان، کشتہ ابرک سیاہ، سنگجراحت، کیرازم الاخوان، کیلشیم لیکلیٹ تمام ادویات برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ ہمراہ آب تازہ یا شربت انجبار دیتے۔

فائدہ: ہر قسم کا خون بند کرنے میں اکسیر الاثر ہے نفث الدم کے لئے مخصوص ہے۔

565- کشتہ مرکب

عنايت: جناب حکیم نور محمد صاحب علاول خیل بنوں۔

هو الشافی: سنگجراحت بقدر ضرورت، آب اندرانی بوٹی بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: سنگجراحت کو آب اندرانی میں بھگو دیجئے حتیٰ کہ چار انگل پانی اوپر ہے نکل ہونے پر گل حکمت کر کے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سفید کشتہ برآمد ہوگا۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو رتی مکھن میں رکھ کر دیا کیجئے۔

فائدہ: نفث الدم سے الدم نوزف الدم زحیر غرض تمام امراض جن میں خون آتا ہے از حد مفید اور موثر ہے۔

566- تریاق الدم

عنايت: جناب حکیم کشن چند صاحب سونی پت بہتک (ہند)

هو الشافی: اتاقیا خالص، دضیا باریک کردہ، طباشیر، سنگجراحت، کھتہ سفید، کھریاشمی، گوند کرا، پھلکوی سفید ہر ایک چھ ماشہ، سرمہ سیاہ تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے دو ماشہ ہمراہ شربت اعجاز یا شربت انجبار دیتے۔

فائدہ: خون خواہ جس مقام سے جاری ہو فوراً بند کرتا ہے مثلاً بوا سیر خونی، کثرت الطمٹ، نکیز سے الدم، نفث الدم وغیرہ وغیرہ کے لئے نہایت مفید مجرب نسخہ ہے۔

ذات الریہ / نمونیا

(Pneumonia)

تہریف مرض: یہ ایک خاص قسم کا بخار ہے جس میں پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔

اسباب: عموماً یہ ورم رطوبات کی کھار سے پیدا ہوتا ہے سرد و ترانڈیہ اس کا سبب بنتے ہیں مثلاً پادل، میدے کی بنی ہوئی اشیاء، سخت ٹھنڈے مشروبات، سرد آب و ہوا، موسم سرما کی بے احتیاطی، پھیپھڑوں کے بیرونی پردے میں ورم پیدا کر کے نمونیا جیسی مرض پیدا کر دیتی ہے کبھی اس کا سبب جراثیم بھی ہوتا ہے جو مادے کے متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

علامات: اکثر مریض آسانی سے سانس نہیں لے سکتا سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے سانس لیتے وقت شدید درد محسوس ہوتا ہے پردوں میں ورم کے باعث اور درد کی وجہ سے مریض کے ناک کے نتھنے پھول جاتے ہیں اسی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے جب یہ ورم شدید حالت سے پھیپھڑوں کے اوپر کے پردوں کو متورم کر دے تو اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں جس طرف کا پھیپھڑہ متورم ہوتا ہے اسی طرف کا گال بھی سرخ ہوتا ہے۔

567- اکسیر نمونیا

عنايت: جناب حکیم قاضی شمس الدین صاحب دلہ کشمیر۔

هو الشافی: کاکڑا سنگی، درج، مکھاں، کوزہ مصری، ہینگ، ہیرا، سہاگہ، ٹگنتہ، جوکھار برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ سے چار ماشہ شہد ملا کر چٹائیں۔ بچوں کو عمر کے لحاظ سے دیں۔

فائدہ: درد پسلی، نمونیا، بد ہضمی وغیرہ میں نہایت مفید الاثر ہے۔

568- شافی ڈراپر

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب دین پور دار الاسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ۔

244
ہو الشافی: شکر ف روی ایک تولہ زردی بیضہ مرغ آٹھ عدد۔
ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر کے بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: صرف ایک قطرہ پتاشہ میں رکھ کر دیں اور یہی مقام ماؤف پر ماش کیجئے۔
فائدہ: نمونیا کے لئے نہایت ہی اکیسر ہے صرف چند منٹ میں نمونیا غائب ہو جاتا ہے۔

569- تریاق نمونیا

عنایت: شمس الاطباء جناب حکیم قاضی غلام عمر صاحب نعلور ونگ ضلع لاڑکانہ سندھ۔
ہو الشافی: ایون تین ماشہ بیخ مدار نو ماشہ تلخی شورہ مصفی ستائیس ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور ایک تولہ چینی ملا کر رکھ لیجئے۔
ترکیب استعمال: دورتی صبح دوپہر شام ہمراہ عرق گاؤ زبان یا عرق سونف دے دیجئے۔
فائدہ: ذات الجنب ذات الریہ اور درد صدر میں شرطیہ کامیاب دوا ہے اسراری نسخہ ہے قدر کیجئے۔

570- کشتہ بارہ سنگھا مرکب

عنایت: جناب حکیم پنڈت رام سرور صاحب ساگری راولپنڈی۔
ہو الشافی: بارہ سنگھا پاؤ کنوار گندل کا گودہ چار کلو سملفار ساڑھے سترہ تولہ۔
ترکیب تیاری: سب سے پہلے بارہ سنگھا کو کنوار گندل کے گودے میں کھل کر کے گج پٹ کی آگ دیجئے پھر نکال کر وزن کیجئے اور پچیس ماشہ سملفار کھل کریں اور ساتھ ہی کنوار گندل کا گودہ کھل کیجئے اور اس کو گج پٹ کی آگ دیجئے اور اسی طرح سات آگ دیجئے اور ہر مرتبہ سملفار پچیس مرتبہ ڈال کر کھل کرنا ہے اور پھر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: نصف رتی کشتہ شہد میں ملا کر چٹائیں اوپر سے گرم دودھ شیریں پلائے۔
فائدہ: ذات الجنب اور نمونیا وغیرہ میں نہایت ہی مجرب ہے تجربہ شرط ہے۔

571- اکیسر نمونیا

عنایت: جناب ڈاکٹر محمد مسعود صاحب فلیمنگ روڈ لاہور۔
ہو الشافی: شب میانی چھ ماشہ شہد خالص ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: دوا کو باریک کر کے شہد میں ملا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: مقام درد پر ضما د کر دیجئے۔

245
ہو الشافی: پتلی پر مسوں جمانے والا لاثانی نسخہ ہے صرف پانچ منٹ میں نمونیا کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر بڑی پتلی سے بڑھ چڑھ کر زور دار نسخہ ہے یہ اکیسری نسخہ سینہ کا راز ہے جو آپ کی دیت میں پیش ہے۔

572- کشتہ شکر ف

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب کلانور ضلع انبالہ (ہند)۔
ہو الشافی: شکر ف روی ایک تولہ شہد خالص پانچ تولہ روغن گاؤ پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے کڑا ہی میں شکر ف رکھ کر اوپر شہد اور پھر روغن گاؤ ڈال کر کڑا ہی کے نیچے آگ روشن کیجئے جب کڑا ہی کے اندر بھی آگ لگ جائے تمام شہد روغن گاؤ جل جائے تو آگ سرد ہونے پر شکر ف حاصل کر کے خوب کھل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی منقی میں رکھ کر کھلا دیا کیجئے۔
فائدہ: مد رجیض ہے چند یوم میں حیض کھل کر آنا شروع ہو جائے گا نمونیا اور ذات الجنب وغیرہ میں جوشاندہ اجوائن سے دیجئے گنٹھیا وغیرہ رعشہ وغیرہ میں زخمیل ایک تولہ کے جوشاندہ سے دیجئے کھلانے کے بعد پینہ لینے دیں ضروری تاکید ہے۔

573- اکیسر ذات الجنب

عنایت: جناب حکیم سید محمد ہادی صاحب رائے پور بیچنا تھ محلہ (ہند)۔
ہو الشافی: ہڑتال ورقیہ چار تولہ بیٹھا تیلیہ ایک تولہ لونگ ایک تولہ آب ادراک ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پہلے آب ادراک میں کھل کیجئے بعدہ آب کنوار گندل میں ڈب کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی دوا ایک تولہ چینی میں ملنوف کر کے کھلا دیجئے ہمراہ دودھ گرم۔
فائدہ: سرسام ذات الریہ ذات الجنب میں مجرب اور لاجواب تھ ہے۔
نوٹ: اگر ایک خوراک سے فائدہ نہ ہو تو ایک گھنٹہ مزید بعد ایک خوراک اور دے دیجئے۔

574- کشتہ بارہ سنگھا

عنایت: جناب حکیم دھرم راج صاحب گولڈن ہڈل آئرز کراچی۔
ہو الشافی: بارہ سنگھا پانچ تولہ شیر مدار بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: بارہ سنگھا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے اور شیر مدار میں تر کر کے خشک کرنے کے بعد ایک کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے پندرہ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر

577- روغن نمونیا

جناب حکیم محمد اقبال صاحب بودھاڑ جہلم۔

عنايت: جناب حکیم محمد اقبال صاحب بودھاڑ جہلم۔
هو الشافى: روغن ارند، روغن الہی، روغن تارہ میرا، عقرقرھا، اجوائن، مالکنسی، تخم حرل ہر ایک

ترکیب تیاری: تنگ ادویا کو ڈیڑھ کلو پانی میں خوب پکا لیجئے جب پانی ایک پاؤ رہ جائے تو
فائدہ: اس میں ملا کر جوش دیجئے حتیٰ کہ تمام جو شانہ جل جائے صرف روغن رہ جائے اور محفوظ

استعمال: درد کی جگہ مالش کیجئے۔

ترکیب تیاری: جسم کے دردوں کو ختم کرنے میں مفید ہے اور نمونیا کیلئے بے مثال ہے۔
فائدہ: مالش کرنے کے بعد روئی گرم ضرور لپیٹ دیجئے۔

578- حب سحر اثر

جناب حکیم محمد زبیر گیلانی صاحب بمبئی (ہند)

عنايت: جناب حکیم محمد زبیر گیلانی صاحب بمبئی (ہند)
هو الشافى: اشق تین ماشہ، پھلکوی بریاں ایک تولہ، سہا کہ شگفتہ دو تولہ، ایون تین ماشہ، بارود

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر پانی کی مدد سے خوب بخودی بنا کر محفوظ
رکھئے۔

استعمال: بیماری کی شدت میں ایک گولی ہمراہ نیم گرم پانی سے ہر دو دو گھنٹے بعد
دیجئے۔ عام حالت میں ایک گولی صبح ایک شام دیجئے۔

فائدہ: ذات الجنب، ذات الریہ، ذات الصدز، ذات العرض وغیرہ میں سحر اثر دوا ہے ایسے مریض
جنہیں انجکشن اور پلستر اثر نہیں کرتا اس دوا سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

579- شفا

جناب حکیم محمد حسین صاحب گوالیار (ہند)

هو الشافى: شگرف رومی ایک تولہ، زردی بیضہ مرغ تین عدد۔
ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھرل کیجئے اور خوب بخودی تیار کر کے بذریعہ جنتر روغن کشید
کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

استعمال: جوان آدمی کو ایک قطرہ پتاشہ میں ڈال کر استعمال کروائیے۔
فائدہ: نمونیا کو پہلی خوراک میں تباہ کر دیتا ہے دوسری خوراک کی بہت کم ضرورت پیش آتی

جناب حکیم محمد اقبال صاحب بودھاڑ جہلم۔

کھال کر ڈیں لیجئے پھر شیر مدار میں کھرل کر کے کلیہ بنا کر آگ دیجئے اسی طرح مزید دو مرتبہ اور
لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: یہ کشتہ ایک ماشہ لے کر ایک تولہ سلوف مدر جس کا لٹنہ نمبر 574-8 ہے
ملا کر اس سے ایک ماشہ مقدار ہمراہ عرق اجوائن پانچ تولہ، عرق سونف پانچ تولہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: ذات الجنب، ذات الریہ میں اکسیر صفت دوا ہے آزمائیے اور دعائیں دیجئے اور ہماری
بھل ٹکنی کی داد دیجئے۔

574-8 سفوف مدار

هو الشافى: پوست مرغ مدار نو ماشہ، ایون تین ماشہ، قلمی شورہ ستائیس ماشہ۔
ترکیب تیاری: ہر ایک کر لیجئے اور لٹنہ نمبر 574 میں ملا کر مکمل کر لیجئے۔

575- حب ذات الریہ

جناب حکیم فقیر چند صاحب دھرم پور۔

هو الشافى: کشتہ شگرف، فافل سیاہ، فلفل دراز، ایون، تخم جوز مائل ہر ایک ایک تولہ پاؤرس
ادرک۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھرل کیجئے اور خوب بخودی بنا کر محفوظ
رکھیں۔

استعمال: ایک گولی دن میں تین مرتبہ ہمراہ چائے دیجئے۔
فائدہ: نمونیا کے لئے انتہائی اکسیر دوا ہے ہر قسم کے دردوں میں مفید ہے قوت باہ کو بڑھاتی
ہے۔

576- تریاق نمونیا

جناب حکیم راغب حسین صاحب فیروز پور گورگانوہ (ہند)

هو الشافى: فلفل دراز، پہلا مول، پوست ہلیہ زرد، کابلی، شہد ہر ایک پانچ تولہ، پانی تیرہ کلو۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پکائیں حتیٰ کہ ایک کلو رہ جائے پھر چھان کر محفوظ رکھ
لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو تولہ دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیے۔
فائدہ: نمونیا کو جڑ سے ختم کرنے میں لاثانی تجربہ شدہ دوا ہے۔

ہے۔ مقوی باہ اعلیٰ درجہ کا ہے 'مسک بھی ہے۔

طغرے

- * زردی بیضہ مرغ ایک عدد شہد میں ملا کر دن میں دو مرتبہ چٹائیے۔
- * اشق دورتی دن میں تین مرتبہ جو شانہ بنفشہ سے دیجئے۔

580- دوائے درد

عنايت: جناب حکیم محمد عبدالرحمن صاحب بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
هو الشافی: شکر ف رومی چار رتی 'مصر ایک ماشہ زردی بیضہ مرغ ایک عدد۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: مقام درد پر لپ کر کے اوپر روئی باندھیں۔

فائدہ: چند منٹ میں درد بند ہو جائے گا اور مریض سکون کی نیند لے گا۔ نمونیا کے درد میں اکیر صفت نسخہ ہے۔

581- کشتہ بارہ سنگھا

عنايت: جناب حکیم محمد سبحان صاحب ملتان شریف۔

هو الشافی: بارہ سنگھا پانچ تولہ قلمی شورہ اور اجوائن برابر وزن بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: قلمی شورہ اور اجوائن کو خوب گھوٹیں اور بارہ سنگھا پر لپ کر کے خشک کر دیجئے اور کونکہ پر جلا دیجئے جب اجوائن وغیرہ کونکہ ہو جائے تو کنوار گندل کے گودہ میں کھرل کیجئے حتیٰ کہ آب کنوار گندل ایک پاؤ کھرل ہو جائے لکیہ بنا کر گل حکمت کر کے دس کلو اوپلوں میں جو تک دیجئے پھر تیسری مرتبہ شیر مدار میں کھرل کر کے اسی طرح آگ دیجئے سفید رنگ کا نفیس کشتہ برآمد ہوگا باریک کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو چاول سے تین چاول تک شہد میں ملا کر دیجئے۔

فائدہ: نمونیا کی بہترین دوا ہے اکثر اطباء کرام کا معمول مطب ہے۔

582- مالش نمونیا

عنايت: جناب پروفیسر حکیم محمد اشفاق صاحب شاہدرہ لاہور۔

هو الشافی: روغن کنجد دس تولہ موم خالص بیس تولہ روغن تارپین چھ تولہ کانور دلیکی تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے روغن کنجد کو کڑا ہی میں گرم کیجئے بعدہ موم ڈال دیجئے پھر گرم گرم اتار کر

شامس لقمائی فارمولے
کانور ڈال کر کسی چیز سے ڈھانپ دیجئے جب تیل سرد ہو جائے تو روغن تارپین شامل کر کے
بوتوں میں بھر کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت روغن گرم کر کے سینے پر مالش کیجئے اوپر گرم روئی باندھ
دیجئے۔
فائدہ: نمونیا اور دیگر ریاحی یا دیگر دردوں میں نہایت ہی جید الاثر دوا ہے۔

سل

تعریف مرض:
اس مرض میں پھیپھڑے زخمی ہو کر ان سے خون و پیپ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

اسباب:
خشک و گرم اغذیہ کا کثرت استعمال، نزلہ و زکام اور کھانسی کے علاج میں لاپرواہی ایسی
جس کا کام کرنا جہاں اکثر دھواں وغیرہ رہتا ہو نمونیا، موتی جھرا، خسرہ اور بعض اوقات موروثی بھی
ہوتا ہے۔

علامات:
اطباء کرام علامات کے لحاظ سے اس کے تین درجات بتاتے ہیں۔

پہلا درجہ:
پہلے درجے میں مریض کو بار بار کھانسی اٹھتی ہے صرف خشک کھانسی آتی ہے۔ کبھی کبھی
پہلی سی بلغم یا جھاگ خارج ہوتی ہے، بھوک مرجاتی ہے۔ غذائیں اچھی طرح ہضم نہیں ہوتیں
ہاتھوں اور پاؤں کے ٹکڑے جلتے ہیں۔ شام کو طبیعت میں گرانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

دوسرا درجہ:
اس میں شدید کھانسی آتی ہے اور سینہ میں خفیف ورم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس
کروٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے کھنکار کے ساتھ خون بھی آتا ہے ہلکا ہلکا بخار ہر وقت رہتا ہے
کمزوری دن بدن بڑھ کر مریض دبلا ہوتا رہتا ہے۔

تیسرا درجہ:

تیسرے درجے میں مادہ سل خوب اثر دکھاتا ہے پھیپھڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں ان

سے خون و پیپ آئیز خارج ہوتی ہے بخار باری سے دن میں دو مرتبہ ہونے لگتا ہے شدت مرض میں لرزہ سے بخار آتا ہے بعض اوقات تمام جسم پر آماس آجاتا ہے بعض اوقات اسہال آئے شروع ہو جاتے ہیں اگر پوری توجہ سے علاج نہ ہو تو مریض مر جاتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے انتخاب کر کے علاج کیجئے۔

583- تریاق سل

عنايت: شمس الاطباء جناب حکیم اکبر حسین صاحب الہ آبادی (ہند)۔

ہوالشافی: کیلک ایسڈ (ست مازو) ایک تولہ کشتہ سنگجراحت ایک تولہ کافور نو ماشہ

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت اعجاز میں ملا کر چٹائیں۔

فائدہ: سل کے خون کو روکنے کے واسطے نہایت ہی مفید ہے بخار بھی نہیں رہتا بوا سیر خونی میں بھی اکیر ہے۔

584- معجون سل

عنايت: جناب حکیم تلسی داس سنیا سی صاحب قدیمی سندھ

ہوالشافی: تخم کاہو مغز تخم کدو مغز خر بوزہ مغز خیارین ہر ایک ڈیڑھ تولہ مروارید نامفہ نو ماشہ صندل سرخ الاچی خورد عود اگر درونج عقربی زرنباذ بہمن سفید ہر ایک چار ماشہ طاشر نو ماشہ گل سرخ ایک تولہ گل گاؤ زبان سات ماشہ عنبر اشہب پانچ رتی مشک خالص ایک ماشہ مرہ سیب مرہ گاجر مرہ آملہ ہریہ ہرڑ ہر ایک پانچ تولہ کوزہ مصری بیس تولہ شہد بیس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کیوڑہ و بید مشک میں کھرل کیجئے پھر آپس میں ملا کر خوب گھوٹیں کہ معجون بن جائے سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: سل اور اس سے پیدا ہونے والی کمزوری میں نہایت ہی کامیاب دوا ہے۔ متعدد مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

585- اکیر سل

عنايت: جناب حکیم خواجہ غلام رسول صاحب دلگیر چار شریف کشمیر

ہوالشافی: طاشر گوند کتیرا صمغ عربی نشاستہ گندم مغز خیارین مغز بیہدانہ مغز بادام گل

شام لقمائی فارمولے
تخم کلہاڑی گل سرخ ہر ایک چھ چھ تولہ کھریا شمشی گل ارمنی تخم کاہو رب
تخم کلہاڑی گل سرخ ہر ایک تین ماشہ۔
تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور لعاب اسپنول میں قرص چار سو ملی گرام

تحتفظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار قرص مناسب بدرقہ سے دیجئے۔

فائدہ: سل کے لئے نہایت ہی مفید ہے بارہا کا مجرب ہے اور مفید پایا ہے آپ بھی طبی

586- دوائے سل

عنايت: جناب حکیم گھاسی خان صاحب جے پور (ہند)

ہوالشافی: پوست خشخاش پانچ تولہ برگ اڑوسہ پانچ تولہ صمغ عربی چار ماشہ گوند کتیرا چار ماشہ مصطکی رومی تین ماشہ مرکی تین ماشہ افیون خالص ایک ماشہ زعفران ایک ماشہ کوزہ مصری بیس تولہ۔

ترکیب تیاری: سب سے پہلے پوست اور برگ اڑوسہ ایک کلو پانی میں بھگو دیجئے چوبیس گھنٹے بعد جوش دیجئے چوتھائی حصہ پانی رہ جانے پر مصری ڈال کر قوام بنا لیجئے جب غلیظ ہو جائے تو دیگر باریک شدہ ادویات ملا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ سے تین ماشہ دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: سل کہنہ میں جب مریض کو دست آرہے ہوں تو یہ دوا مفید و مجرب ہے آپ بھی خوب کماجئے۔



سر کے امراض

سر کی بناوٹ میں آٹھ اعضاء شامل ہیں:

(1)	جلد	(2)	ہڈیاں	(3)	عضلات
(4)	پردے	(5)	جھلیاں	(6)	شرائین
(7)	اعصاب	(8)	جوہر دماغ		

سر کی آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں ایک سامنے پیشانی میں ایک پیچھے گدی میں دو اوپر چہلیاں میں دو دونوں طرف کنٹیوں میں ایک کھوپڑی کے نیچے صحن بمنزلہ سطح کے جسے قاعدہ دماغ کہتے ہیں اور آٹھویں جو بہت ہلکی اور سوراخ دار ہوتی ہیں پیشانی کی ہڈی کے سامنے اور نیچے ناک کی چھت ہوتی ہے کھوپڑی کی بناوٹ سر کی آٹھ اور چہرہ کی چودہ ہڈیوں سے مل کر بنتی ہے۔

دماغ:

دماغ اعضاءے ریہہ میں سے ایک شریف عضو ہے اس کی صحت و تندرستی پر زندگی کا دارومدار ہے اللہ عزوجل نے دماغ کو اکثر اعضاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی عقل کا خزانہ اس میں محفوظ فرمادیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنا نفع و نقصان دوست و دشمن میں تمیز کر سکتے ہیں ناک سے سونگھتے ہیں زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں پاؤں سے چلتے ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ان سب افعال کا مبداء دماغ ہی ہے تکلیف و راحت کا احساس معاملات کو سلجھانا نمٹانا سوچنا سمجھنا یاد رکھنا خیال فہم عمدہ مضامین باتیں حافظہ وغیرہ وغیرہ اسی عضو کے خزانہ میں محفوظ رہتے ہیں۔ جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے کرتا رہتا ہے تو تمام انسانی صفات درست رہتی ہیں صحت مند دماغ ہی صحت مند معاشرے کی اکائی ہے۔ صحت مند دماغ ہی اچھی سوچ کا ضامن ہے۔ افق کی بلندیوں کو چھونے کے لئے دماغ کا صحت مند ہونا نہایت ضروری ہے اور اس کی طرف سے غفلت کرنا دین و دنیا میں نقصان کا باعث ہے۔

دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں:

(1) دماغ مقدم

(2) دماغ متوسط

(3) دماغ موخر

دماغ چالیس سال کی عمر میں جا کر تکمیل کو پہنچتا ہے اس کے بعد ہر سال اس کا وزن کم

عقلی لقمانی فارمولے
عقلی شروع ہو جاتا ہے جن لوگوں کا دماغ وزنی اور بڑا ہوتا ہے وہ ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں
پہلے دماغ والے کند ذہن اور کم عقل ہوتے ہیں۔

ضعف دماغ

تعریف مرض: جب دماغ کے بعض حصوں میں خون معمول کے مطابق نہ پہنچتا ہو یا غذا کی کمی کے باعث دماغی نشوونما اچھے انداز سے نہ ہو سکے تو اسے ضعف دماغ یا دماغ کی کمزوری کہتے ہیں۔

اسباب: کثرت مباشرت، جلق، کثرت احتلام و جریان وغیرہ تولید خون میں کمی، ضعف ہضم، نفس کی زیادتی، ضعف جگر، نزہ و زکام کی کثرت، دماغی شریانوں میں سختی پیدا ہونا یا سدہ پیدا ہونا وغیرہ دماغ میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے مزید جب خشکی اور حرارت میں زیادتی ہو جاتی ہے تو دماغ دماغ ہو جاتا ہے۔

علامات:

طبیعت ست رہتی ہے معمولی دماغی محنت سے درد سر ہو جاتا ہے بیٹھ کر اٹھنے سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے بینائی کمزور ہو جاتی ہے سانس پھولنے لگتا ہے نزہ و زکام کی اکثر شکایت ہوتی رہتی ہے نیند کے بعد بھی طبیعت ست رہتی ہوگی خواہش جماع کم ہو جاتی ہے اور اکثر خیال آتے ہیں عضو فوراً مسترخی ہو جاتا ہے دماغی تھکان بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب کر کے علاج کیجئے۔

587- حب دماغون

عنایت: جناب حکیم محمد یوسف حسن صاحب لاہور۔

ہوالشافی: برہمی بوٹی دس تولہ روغن بادام دس تولہ مغز اخروٹ پانچ تولہ قنفل سیاہ ایک تولہ
الابھی خورد ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: برہمی بوٹی کو پورڈر بنا کر روغن بادام میں چرب کر لیجئے بعدہ دیگر ادویات
باریک کر کے ملا کر جوب کنار دشتی بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام نہار منہ مکھن میں لپیٹ کر دیجئے۔

شام لقمائی فارمولے
فائدہ: دماغی کمزوری اور دائمی نزلہ و زکام میں نہایت ہی مفید دوا ہے۔

588- حب ازراقی

عنايت: جناب حکیم کریم بخش صاحب منظر گڑھ۔

هو الشافى: ازراقی مدبر دس تولہ زعفران چھ ماشہ جاوتری ایک تولہ دارچینی ایک تولہ الائچی کلاں چار تولہ سرنجاں شیریں تین تولہ زخمیل دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے پانی کے ذریعے خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ مناسب بدلتے دیتے۔

فائدہ: اعصابی کمزوری، لقوہ، فالج، قبض دائمی، خرابی معدہ و جگر ضعف دماغ اور باہ اور ضعف اعضاء ریسہ میں نہایت ہی کام کی چیز ہے۔

589- اکسیر منقی دماغ

عنايت: جناب حکیم سید عبدالغفار شاہ صاحب ویلن لاڑکانہ باب الاسلام سندھ۔

هو الشافى: تربد سفید دس ماشہ، فلفل ابيض دس ماشہ، ایارج فیقرا دس ماشہ، ہلیلہ زرد سات ماشہ، اقیون چھ ماشہ، اسطوخودوس چھ ماشہ، ہلیلہ کابلی پانچ ماشہ، سقمونیا چار ماشہ، تخم حنظل تین ماشہ، زخمیل تین ماشہ، گل سرخ تین ماشہ، نمک ہندی دو ماشہ، طباشیر ایک ماشہ، کتیر ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح عرق گلاب مصری ملا ہوا سے لیجئے۔

فائدہ: کلی صحت ہوگی دماغی فاسد رطوبات کو دفع کر کے دماغ کو طاقت عطا کرنا اس کا ادنیٰ ما کرشمہ ہے۔

پرهیز: دیر ہضم اور ثقل اشیاء دوران دوا ضرور چھوڑ دیتے۔

590- کشتہ نقرہ

عنايت: جناب حکیم فضل الدین صاحب ڈاچکوٹ ضلع فیصل آباد۔

هو الشافى: ایون خام تین ماشہ، شیر انجیر (جو کونپلوں سے لیا گیا ہو) چار ماشہ، نغدہ کونپل انجیر تیرا چاندی ایک عدد

ترکیب تیاری: ایون اور شیر انجیر کالیپ بنا کر پترا چاندی پر لگا دیتے اور نغدہ انجیر میں دے کے گل حکمت کر کے تیس گلو ایلوں کی آگ دیتے مانند سفید بتاشہ کی طرح باورن کشتہ برآمد ہوا کھل کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی مکھن یا ملائی میں رکھ کر کھلائیے۔

591- مقوی دماغ

عنايت: جناب حکیم محبوب عالم خان صاحب اسکر دو لدراخ۔

هو الشافى: چاول سونف، کشنیز، دانہ الائچی کلاں، مغز بادام، کالپی مصری برابر وزن لڑکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے محفوظ رکھئے۔

لڑکیب استعمال: ایک تولہ رات کو سوتے وقت دودھ سے کھا جائیے۔

فائدہ: دماغی طاقت کے لئے غریبوں کا ہیروں کے بھاؤ نسخہ ہے دائمی نزلہ و زکام کا خاتمہ کرتا ہے۔

592- جوارش عنبرین

عنايت: جناب حکیم پرسرام صاحب موکہ فیروز پور (ہند)۔

هو الشافى: عنبر اشہب دو ماشہ، کستوری خالص دو ماشہ، اسارون، لوگ، زعفران ہر ایک تین ماشہ، دانہ الائچی خورد دارچینی، فلفل دراز، زخمیل، جانفل ہر ایک چھ ماشہ، کوزہ مصری، شہدہ سہ چند۔

لڑکیب تیاری: بطریقہ معروف جوارش بنا لیجئے۔

لڑکیب استعمال: چار ماشہ ہمراہ عرق سونف سے دیتے۔

فائدہ: معدہ کی سردی کو ختم کر کے حرارت عزیز پیدا کرتی ہے بلغم کو نکالنے کے ساتھ ساتھ ریاجی کو تحلیل کرنے میں بے مثال ہے ضعف دماغ میں نہایت مجرب ہے۔

593- دماغی

عنايت: جناب حکیم حضرت محمد شاہ صاحب مہار شریف پٹنہ (ہند)۔

هو الشافى: پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ، پوست آملہ، اسطوخودوس، ہر ایک تین تین تولہ، مارموتھا، لوگ، دارچینی، قلمی شورہ، مصطکی، روئی، ہر ایک ایک تولہ، شہد خالص سہ چند۔

لڑکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد ملا کر بطریقہ معروف معجون تیار کر لیجئے۔

لڑکیب استعمال: چھ ماشہ صبح، چھ ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ سے کھلا دیتے۔

فائدہ: تقویت دماغ اور تقویت معدہ کے لئے بہت ہی مفید ہے اعصابی کمزوری کو دور کر کے جنسی طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔

عنايت: جناب حکیم سید محمد عمر صاحب کوڑی بند سندھ۔
هو الشافى: پترا چاندی ایک تولہ شیر مدار بقدر ضرورت ریشما ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: پترا چاندی کو آگ پر سرخ کر کے بارہ مرتبہ شیر مدار میں بجھاوا دیجئے بعدہ شیر مدار کو ریشما میں ملا کر نغہ بنا لیجئے ریشما بمعہ مغز استعمال کیجئے اس نغہ میں پترا چاندی اسے کر پارچہ بیز کر کے اوپر ایک انگارہ رکھ دیجئے۔ کشتہ برآمد ہوگا یہ کشتہ پندرہ تولہ سیماں ہندب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ترکیب استعمال: نصف رتی بالائی یا مکھن میں رکھ کر کھلا دیجئے۔
فائدہ: مقوی باہ و مقوی دماغ ہے بہت ہی مفید دوا ہے چند دن کا استعمال مضبوط بنا دیتا ہے۔

598- حب مومیائی

عنايت: جناب حکیم سید علی محمد صاحب زید پور بارہ بنکی (ہند)۔
هو الشافى: مومیائی خالص، موصلی سفید، ثعلب مصری، موجس، صمغ عربی، عتر قرھا، تخم تربندی، اقاتیا، مصطکی رومی ہر ایک ایک تولہ شیر بڑ دس تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر شیر بڑ میں ملا کر خوب بخودی تیار کر کے محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر شیریں دیجئے۔
فائدہ: خاندانی مجرب الجرب ہے مقوی باہ و دافع جریان و منی، مقوی دماغ، دافع نزلات، غرض دماغی امراض میں اکسیر اعظم ہے آزمائے اور قدرت حق کا مشاہدہ کیجئے۔

599- معجون دانائی

عنايت: جناب حکیم ایس اے صاحب متعیر ضلع پٹنہ (ہند)۔
هو الشافى: سعد کونی، کندر، درج ہر ایک چار تولہ، سونٹھ، فلفل سیاہ ہر ایک دو تولہ، شہد خالص بارہ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات خوب باریک کر لیجئے اور شہد ملا کر معجون کا قوام بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ عرق گاؤ زبان کے ساتھ صبح اور اسی طرح شام دیجئے۔
فائدہ: اعلیٰ درجہ کا مقوی دماغ و دافع نسیان نسخہ ہے معمول مطب تجربہ شدہ ہے آزمائے۔

600- اکسیر دماغی

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب شر قپور شریف ضلع شیخوپورہ۔
هو الشافى: چاول سونف، چاول کشیز، دانہ الاچھی کلاں، مغز بادام، متشر، کوزہ مصری ہر ایک پانچ

594- کشتہ نقرہ

عنايت: جناب حکیم سید محمد عمر صاحب کوڑی بند سندھ۔
هو الشافى: پترا چاندی ایک تولہ شیر مدار بقدر ضرورت ریشما ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: پترا چاندی کو آگ پر سرخ کر کے بارہ مرتبہ شیر مدار میں بجھاوا دیجئے بعدہ شیر مدار کو ریشما میں ملا کر نغہ بنا لیجئے ریشما بمعہ مغز استعمال کیجئے اس نغہ میں پترا چاندی اسے کر پارچہ بیز کر کے اوپر ایک انگارہ رکھ دیجئے۔ کشتہ برآمد ہوگا یہ کشتہ پندرہ تولہ سیماں ہندب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ترکیب استعمال: نصف رتی بالائی یا مکھن میں رکھ کر کھلا دیجئے۔
فائدہ: مقوی باہ و مقوی دماغ ہے بہت ہی مفید دوا ہے چند دن کا استعمال مضبوط بنا دیتا ہے۔

595- تریاق باہ

عنايت: جناب حکیم عبدالکریم صاحب نیو سعید آباد باب الاسلام سندھ۔
هو الشافى: پوست بیخ آکسن، ثعلب مصری برابر وزن۔
ترکیب تیاری: دونوں کو الگ الگ کوٹ کر ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: اعلیٰ درجہ کا مقوی باہ، مقوی بدن و دماغ ہے نیز مسک بھی اعلیٰ درجہ کا ہے نہایت کم خرچ کی مگر اعلیٰ فوائد کی حامل دوا ہے تجربہ شدہ ہے۔

596- حب کامیاب

عنايت: جناب حکیم قاضی محمد غوث صاحب آستانہ عالیہ گولڑہ شریف اسلام آباد۔
هو الشافى: برہمی بوٹی دس تولہ، ملٹھی مقرر تین تولہ، دانہ الاچھی سفید ایک تولہ، دانہ الاچھی سرخ ایک تولہ، ورق طلا، چار عدد ورق نقرہ بارہ عدد زعفران نو ماشہ، مشک خالص تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد کی مدد سے خوب بخودی تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔
فائدہ: اعضاء ریسہ خصوصاً دماغ و حافظہ کو مضبوط بناتی ہے مقوی باہ ہے اور سرعت انزال میں نید الاثر ہے۔

597- اکسیر باہ

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکیم مظفر حسین خان صاحب لاہور۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ روزانہ رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ دیجئے۔
فائدہ: تقویت دماغی و حافظہ کے لئے نہایت مفید ہے لہذا عرصہ استعمال کیجئے۔

601- مرکبین

عنایت: جناب حکیم نذر حسین صاحب بھیرہ شریف۔

ہوالشافی: یا قوت اعلیٰ ورق نقرہ خالص ہر ایک ایک تولہ مرجان اعلیٰ پانچ تولہ عرق گلاب دو آتش بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں تین یوم کھل کیجئے اور ایک ٹکیہ بنا کر گل حکمت کر کے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر یہی عمل مزید دو مرتبہ کیجئے نہایت ہی نفیس کشتہ برآمد ہوگا سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک رتی خمیرہ گاؤزبان عنبری جو اہر دار میں دیجئے بعد میں عرق گاؤزبان اور عرق ابریشم دیجئے۔

فائدہ: تمام دماغی عوارض میں کثیر المنفعت ہے تجربہ شدہ ہے آزمائے اور دعائیں دیجئے۔

602- حب افزائش عقل

عنایت: جناب حکیم محمد اکبر صاحب منڈی بہاؤ الدین۔

ہوالشافی: برہمی بوئی چھبیس تولہ دانہ ہیل آٹھ تولہ دانہ الائچی کلاں آٹھ تولہ ملٹھی چھ ماڑی مشک خالص دو ماشہ زعفران نو ماشہ ورق نقرہ پانچ ماشہ ورق طلا ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کوٹ کر شہد کی مدد سے خوب نچودی بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: ضعف دماغ، نزلہ و زکام کو بے حد مفید ہے دماغی طاقت کو بڑھانے کے لئے نہایت ہی اطمینان بخش ہے حافظہ کی افزائش کرتی ہے دماغی نقص دور کرنے میں لاجواب ہے۔

603- معجون عقلی

عنایت: سفیر اطباء استاد الحکماء جناب حکیم سید ایوب صاحب ملتان شریف۔

ہوالشافی: شیرہ آملہ ساڑھے تین تولہ پوست ہللیہ کالمی ہللیہ سیاہ پوست بھیرہ ہر ایک ڈیڑھ تولہ طباشیر صندل سفید ابریشم مقرر بادرنجبویہ مغز ناریل مغز پستہ مغز بادام مغز کدو خشکاش ہر ایک چھ ماشہ کوزہ مصری اور شہد سہ چند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور کوزہ مصری اور شہد کا توام بنا کر بطریق معروف معجون بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح نو ماشہ شام ہمراہ عرق گاؤ زبان سے دیجئے۔

فائدہ: حواس ظاہری و باطنی کی حفاظت کرنے عقل کو بڑھانے ذہن کو تروتازہ رکھنے فکروں کو قائم کرنے اور حافظہ کو بڑھانے میں واقعی بے مثال ہے۔

604- لذت بخش

عنایت: جناب حکیم نصیح الدین صاحب فیصل آباد۔

ہوالشافی: مغز بادام مقشر دس عدد الائچی خورد چار عدد چھوہارہ دو عدد کوزہ مصری ڈھائی تولہ کھن تازہ ڈھائی تولہ۔

ترکیب تیاری: مغز بادام اور چھوہارہ کو رات پانی میں بھگو دیجئے صبح مغز بادام چھیل کر گھٹلی چھوہارہ دور کر کے الائچی کے دانے نکال کر خوب باریک پیس لیجئے مصری بھی ملا لیجئے بعدہ کھن ملا کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: وقت مناسب پر یہ دوا ایک چمچ صبح نہار منہ کھا لیجئے۔

فائدہ: دوران سر، ضعف دماغ، نسیان، کمزوری دل کو رفع کرنے میں نہایت ہی پادربل ہے۔
نوٹ: اکیس سے اکتالیس یوم تک استعمال کریں۔

605- سفوف دماغی

عنایت: جناب حکیم بہار خان صاحب R/133-10 خانیوال ملتان۔

ہوالشافی: مغز کدو، مغز کشنیز، مغز بادام ہر ایک ڈھائی تولہ مغز بادام ساڑھے تین خشکاش ڈھائی تولہ دانہ الائچی خورد ایک تولہ کشتہ نقرہ ڈھائی ماشہ کوزہ مصری ساڑھے بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: مقوی دماغ و حافظہ نزلہ و زکام دائمی یوست دماغ اور نسیان کے لئے مجرب دوا ہے۔
نوٹ: کورس اکتالیس یوم ہے۔

606- کشتہ نقرہ

ہوالشافی: کنیر سفید کی جڑ کا پوست بیس تولہ پترانقرہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پوست بیخ کنیر کا نندہ بنا کر پترانقرہ اس میں دے کر گل حکمت کر دیجئے اور آٹھ کلو اوپلوں میں جلا دیجئے سرد ہونے پر شگفتہ نفیس کشتہ برآمد ہوگا سنبھال کر اوپر دوا میں

پیشانی کا زخم ہونے پر زیرہ سفید اور کوزہ مصری ملا کر احتیاط سے رکھئے۔

استعمال: سرد ہونے پر بھی سب کا دل فرمائیے اور معائنہ ہی طرح جڑو کا کر

پیشانی فرمائیے۔
 دماغی کمزوری میں نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ سر پھکنا، بڑھتے گھٹتے وقت مدد سے سر ہلکا ہونا
 پیشانی کا زخم ہونے پر بھی سب کا دل فرمائیے اور معائنہ ہی طرح جڑو کا کر
 پیشانی کا زخم ہونے پر بھی سب کا دل فرمائیے اور معائنہ ہی طرح جڑو کا کر
 پیشانی کا زخم ہونے پر بھی سب کا دل فرمائیے اور معائنہ ہی طرح جڑو کا کر

نسیان (بھول جانا)

(Amnesia)

تعریف مرض: یادداشت کی طاقت خراب ہو جاتی ہے مریض کوئی یا پرانی باتیں یاد نہیں رہتیں بعض
 اوقات یادداشت کی طاقت بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔

اسباب:
 یہ مرض عموماً دماغی کمزوری کے باعث پیدا ہوتی ہے سر پر جھٹ یا گرنے سے بھی پیدا
 ہو جاتی ہے دائمی نزلہ و زکام دماغ ورم رسولی کثرت مباشرت جلیق نشہ آور اشیاء کا کثرت
 استعمال دماغی ہیجان کا پیدا ہونا وغیرہ شدید گرم چیزوں کا کثرت استعمال بھی اس کے اسباب
 میں شامل ہے۔

علامات:
 کوئی بات یاد نہیں رہتی اکثر دیکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں رات کا خواب بھی صبح یاد
 نہیں رہتا سستی کا بھی اکثر رہتی ہے درد سر اور چکر آتے ہیں نزلہ و زکام اسباب ہوں تو نیند
 بکثرت آتی ہے چہرے پر بھر بھراہٹ اور طبیعت ست ست رہتی ہے بات کرنے میں مشکل
 اور قبض کی شکایت رہتی ہے۔

شہس لقمائی فارمولے
 استعمال کیجئے۔

ملغریے

* چھوٹی چندن بونی آدھا ماشہ صبح شام ہمراہ مرق کاؤ زبان استعمال کروا لیجئے دنوں اندازاً
 مرگی ہسٹریا کے لئے مایہ ناز دوا ہے روپیہ لگاؤ لاکھوں کماؤ۔
 * سونف اور کوزہ مصری ہم وزن پورڈر بنا کر ہر کھانے کے بعد چھ ماشہ کھا لیجئے نہایت ہی
 بے مثال نسخہ ہے جس سے بال سفید بھی کالے ہو جاتے ہیں اور ضعف دماغ کا تریاق
 ہے۔
 * روغن مالکنسی خود نکالا ہوا ایک قطرہ چینی پر ڈال کر کھانا لسیان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔
 * دارچینی تین ماشہ روزانہ صبح نہار منہ پانی سے کھا لیجئے نہایت ہی مفید ہے۔
 * ایک انڈا گرم دودھ میں پھینٹ کر شہد ملا کر کھانا تمام نسخہ جات سے بے نیاز کر دیتا ہے
 از حد مقوی دماغ ہے۔

607- برین ویل

عنایت: جناب حکیم محمد اقبال شاہ صاحب فیروز پور (ہند)
ہوالشافی: برہمی بونی دس تولہ سفوف کھی پانچ تولہ ورق پچاس گرام مغز کنول ڈوڈا پانچ
 تولہ مغز بادام شیریں چالیس عدد دانہ الاچھی ایک تولہ زعفران چار ماشہ کستوری چار رتی ورق
 طلاہ چھ عدد ورق نقرہ بارہ عدد۔
ترکیب تیاری: پہلے برہمی کو کھی میں بھون لیجئے دیگر ادویات پورڈر بنا کر شہد کی مدد سے جنگلی
 بیر کے برابر گولیاں بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ہر روز رات سوتے وقت گائے کے دودھ کے ہمراہ ایک گولی کھا لیجئے۔
فائدہ: دماغی کمزوریوں کو رفع کرتی ہیں حافظہ قابل فخر ہو جاتا ہے سارا دن بھی دماغی منت
 کرنے سے طبیعت تروتازہ رہتی ہے لکھا پڑھا یاد رہتا ہے طالب علموں ایڈیٹروں مصنفوں
 وکیلوں لیکچراروں کے لئے نہایت ہی مفید دوا ہے۔

608- عطاری حریرہ

عنایت: جناب حکیم محمد اسلم شاہین عطاری پھول نگر لاہور۔
ہوالشافی: گیہوں تین تولہ دودھ ایک پاؤ کھی کاؤ ایک تولہ زیرہ سفید ایک ماشہ کوزہ مصری
 ذر ضرورت۔

کیب تیاری: پہلے گیہوں کا شیرہ نکالیں اور دودھ ڈال کر کھی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیے

609- روغن اکسیر دماغ

عنايت: جناب حکیم محمد ناصر صاحب راولپنڈی۔
ہوالشافی: بریم ڈنڈی کا تازہ پانی ایک کلو روغن مالکنسی ایک پاؤ روغن گاؤ تین پاؤ روغن پستہ ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام چیزوں کو ایک قلعی دار برتن میں ڈال کر آگ پر رکھے جب پانی خشک ہو جائے تو روغن کو فلٹر کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک تولہ روٹی پر ڈال کر کھا جایا کریں۔

فائدہ: قوت حافظہ کے لئے نہایت ہی مفید ہے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے قوت باہ جریان سرعت کمزوری اعصاب کے لئے بے حد مفید ہے قبل از وقت بال سفید نہیں ہوتے مدت سے معمول مطب ہے۔

610- اکسیر نسیان

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم سید علی احمد صاحب نیر واسطی لاہور۔

ہوالشافی: رائی، کلونچی، ہم وزن شہد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: خشک دواؤں کو خوب پورڈر بنا کر شہد کی مدد سے خوب بخودی تیار کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح نہار منہ اور دو گولی شام خالی پیٹ ہمراہ آب تازہ یا دودھ سے دیجئے۔

فائدہ: نسیان کے لئے نہایت اعلیٰ ہے۔

611- دوائے مقوی

عنايت: جناب حکیم کشوری لعل پلکھوہ ضلع میرٹھ (ہند)۔

ہوالشافی: برہمی دس تولہ اصل السوس تین تولہ الائچی خورد دو تولہ الائچی کماں دو تولہ ورق طلاء چھ عدد ورق نقرہ بارہ عدد زعفران نو ماشہ جند بید ستر ایک تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور شہد کی مدد سے خوب بخودی تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ رات سوتے وقت ہمراہ نیم گرم شہد ملا دودھ دیجئے۔

فائدہ: حافظہ کو تقویت ملتی ہے اعلیٰ درجہ کا مسک ہے مقوی اعضا رہنے ہے۔

612- محافظ حافظہ

جناب حکیم سید محمد حسین صاحب ڈچکوٹ فیصل آباد۔

عنايت: جناب حکیم سید محمد حسین صاحب ڈچکوٹ فیصل آباد۔
ہوالشافی: الائچی کلاں ایک عدد مغز بادام شیریں سات عدد مغز تخم خیارین چھ ماشہ مغز گردو چھ ماشہ مصری ایک تولہ کالی مرچ ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں گھوٹ لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح نہار منہ ایک خوراک استعمال کیجئے یہ ایک خوراک کا نسخہ ہے۔

فائدہ: دماغ کو تقویت عطا کرتا ہے حافظہ بڑھاتا ہے۔

درد سر (صداع)

(Headache)

تعریف مرض:

سر کے کسی حصے میں فساد پیدا ہو کر جو درد ہوتا ہے درد سر کہلاتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے اور یہ عام تکلیف ہے مگر انسان کے لئے بہت پریشانی پیدا کرتا ہے۔

اقسام:

درد سر کی وجوہات کے لحاظ سے کثیر اقسام ہیں مثلاً:

- 1- صداع صفرادی
- 2- صداع بلنسی
- 3- صداع دودی
- 4- صداع عصاب
- 5- صداع گلوئی
- 6- صداع کبدی
- 7- صداع رگی
- 8- صداع رگی و معدی
- 9- صداع خماری
- 10- صداع سوداوی

اسباب:

زیادہ گرمی یا سردی کا لگنا کھانے پینے میں بے احتیاطی ریاتی انداز کا کثرت استعمال
دماغی تھکاوٹ، سرگی، ہسٹریا، کان، ناک، دل، گردہ و مثانہ وغیرہ کے امراض دماغ میں جانا، ہنس
امراض وغیرہ وغیرہ۔

علامات:

سر میں اکثر درد رہتا ہے، نبض کمزور، بے قاعدہ، خالی، کبھی غلیظ کبھی شیش ہوتی ہے۔ گرمی
کے درد سر میں آنکھوں میں جلن، تپش، جلد سرگرم ہوتی ہے، زبان ہونٹ اور ناک کے نچھنے خشک
ہوتے ہیں سردی کے درد سر میں چہرہ بھر بھرا ہوا ہوش و حواس کند اور سر کی جلد سرد ہوتی ہے نیز
دیگر درد سر میں اس کی علامات موجود ہوں گی کبھی کبھی متلی اور تے بھی آجاتی ہے۔

613- اکسیر درد شقیقہ

عنايت: جناب حکیم قاضی محمد صاحب ساگری راولپنڈی۔

هو الشافى: نوشادر ایک تولہ، کافور ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب باریک کر کے شیشی میں سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک چمکی دونوں نتھنوں میں سنگھائیں۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل ایک مرتبہ کے استعمال سے درد شقیقہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔

614- تریاق صداع

عنايت: جناب حکیم عبدالغنی صاحب سوپور کشمیر۔

هو الشافى: کیفین سائٹراس پانچ گرین، فیناسٹین پانچ گرین، سفوف کشینز تین ماشہ، نبات
سفید تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: اس تمام مقدار کو سرد پانی سے لے لیجئے۔

فائدہ: درد سر کے مجرب ہے۔

نوٹ: یہ ساری ایک خوراک ہے۔

615- اکسیر درد سر

عنايت: جناب حکیم محمد رمضان صاحب کیروں امرتسر (ہند)۔

هو الشافى: تخم کاشی نو ماشہ، تخم کاہونو ماشہ، رسونت تیرہ ماشہ، ایون دو ماشہ، لعاب بلنگو بقدر

عنايت: جناب حکیم نظام الدین صاحب بیچ گرائیں رام داس امرتسر (ہند)۔

616- صداعی

هو الشافى: مندل سفید، مندل سرخ، کتیرا، ہلیہ، کالمی، خشخاش ہر ایک تین تولہ، آمہ پانچ
تولہ، پست ہلیہ، زرد نو تولہ، گل سرخ نو تولہ، ہلیہ سیاہ، گل بنفشہ، گودہ املاس ہر ایک دو تولہ، تربد
غیا، آٹھ تولہ، کشینز خشک آٹھ تولہ، مغز بادام چھ تولہ، روغن گاؤ پانچ تولہ، کوزہ مصری تین پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو خوب باریک پورڈر بنا لیجئے اور روغن گاؤ میں جب
مصری کا توام بنا کر تمام ادویات ملا کر عجوں تیار کیجئے اور حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ نیم گرم دودھ دیجئے دوران دوا کھی زیادہ
استعمال کیجئے۔

فائدہ: ہر قسم کا درد سر دور ہو جاتا ہے اکسیر تجربہ شدہ دوا ہے۔

617- نسوار ثانی

عنايت: جناب حکیم لالہ فقیر چند شکیاری ضلع ہزارہ۔

هو الشافى: نوشادر زعفران، پوست بندق ہندی، خرمبرہ زرد سوختہ ہر ایک تین ماشہ، کافور ایک
ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر شیشی میں حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت بطور نسوار لیجئے۔

فائدہ: صداع شقیقہ، امراض دماغیہ، درد چشم وغیرہ میں مجرب ہے۔

618- اکسیر درد سردی

عنايت: جناب حکیم محمد انور صاحب مذہ کھوکھر براستہ اتاری امرتسر (ہند)۔

هو الشافى: ہینگ ایک تولہ، کافور ایک تولہ، روغن گل بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں دواؤں کو روغن گل میں خوب کھل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ڈراپر کی مدد سے تین چار بوند ناک میں ٹپکائیے۔

فائدہ: اس دوا سے دماغی کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور درد سر ختم ہو جاتا ہے۔

عنايت: جناب حکیم انور زاده ابوبکر صاحب ولی خان مستونگ روڈ قلات۔
 هو الشافی: سوڈا سلی ایک تولہ اسپرین سورنجاں شیریں پوناشیم برومانینڈ ہر ایک تین ماشہ دانہ الاچھی خورد چھ ماشہ قد سفید دو تولہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو اچھی طرح مثل غبار کی مانند باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
 ترکیب استعمال: دو ماشہ سے تین ماشہ ہمراہ آب تازہ کھلا دیجئے۔
 فائدہ: پہلی خوراک سے دوسرے دور ہو جاتا ہے ورنہ آدھے گھنٹے بعد دوسری خوراک دے دیجئے۔

619- اکسیر درد سر

عنايت: جناب حکیم محمد صدیق صاحب ڈی جی خان۔
 هو الشافی: کانور ایک تولہ پیپرمنٹ چھ ماشہ ست اجوائن تین ماشہ انگریزی موم ایک تولہ۔
 ترکیب تیاری: پہلے ابتدائی تینوں چیزوں کو آپس میں مضبوط ڈھکن والی بوتل میں ملا کر رکھ دیجئے تاکہ پانی ہو جائیں بعد دیگر دونوں اجزاؤں کو پگھلا کر ملا کر رکھ لیجئے اور ڈبیوں میں بند کر دیجئے مرہم تیار ہے۔
 ترکیب استعمال: ایک مرہم کے کئی نام ہیں جو بازار سے ملتی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ پیشانی پر لگا دیجئے۔
 فائدہ: سرد و فوراً کانور ہو جائے گا۔

620- اکسیر صداع

عنايت: جناب حکیم محمد عرفان صاحب کوسہ بلوچستان۔
 هو الشافی: کانور چھ ماشہ دانہ الاچھی کلاں نو ماشہ شب یمانی نو ماشہ گل منڈی نو ماشہ عرق کیلا میں تولہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے عرق میں حل کر لیجئے۔
 ترکیب استعمال: دونوں آنکھوں میں ایک ایک بوند ڈال دیجئے۔
 فائدہ: دوسرے ہاتھوں ہاتھ ختم ہو جاتا ہے بشرطیکہ بخار نہ ہو۔

621- برائے درد سر

عنايت: جناب حکیم بے نظیر صاحب کلکتہ (ہند)۔
 هو الشافی: فنشین چھ ماشہ اسپرین چھ ماشہ کیفین سائٹراس چھ ماشہ دانہ ہیل خورد چھ ماشہ زہر مہرہ چھ ماشہ۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر مثل غبار بنا لیجئے اور شیشی میں بحفاظت رکھئے۔
 ترکیب استعمال: بوقت ضرورت چار رتی سے ایک ماشہ تک سادہ پانی سے لیجئے۔
 فائدہ: انشاء اللہ عذوجل ہاتھوں ہاتھ سرد سر ختم ہو جائے گا۔

622- اطرینفل ملین

عنايت: جناب حکیم سردیش سنگھ صاحب پٹنہ (ہند)۔
 هو الشافی: پوست ہلیہ کابل، ہلیہ سیاہ، پوست آملہ، تربد سفید (تربد جس کو اوپر سے کھرچ کر

623- امرت دھارہ

عنايت: جناب حکیم محمد صدیق صاحب ڈی جی خان۔
 هو الشافی: کانور ایک تولہ پیپرمنٹ چھ ماشہ ست اجوائن تین ماشہ انگریزی موم ایک تولہ۔
 ترکیب تیاری: پہلے ابتدائی تینوں چیزوں کو آپس میں مضبوط ڈھکن والی بوتل میں ملا کر رکھ دیجئے تاکہ پانی ہو جائیں بعد دیگر دونوں اجزاؤں کو پگھلا کر ملا کر رکھ لیجئے اور ڈبیوں میں بند کر دیجئے مرہم تیار ہے۔
 ترکیب استعمال: ایک مرہم کے کئی نام ہیں جو بازار سے ملتی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ پیشانی پر لگا دیجئے۔
 فائدہ: سرد و فوراً کانور ہو جائے گا۔

طخرہ

سانپ کی کینچلی ایک تولہ نبات سفید ایک تولہ کو خوب کھرل کر کے رکھ لیجئے بقدر ایک رتی کپسول میں بند کر کے مریض کو کھلا دیجئے صرف پانچ خوراک سے دیرینہ سے دیرینہ درد سر کا خاتمہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی۔

624- پین بام

عنايت: جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ساہیوال۔
 هو الشافی: پیپرمنٹ کرشل دس گرین، یوکلپٹس آئیل تیس بوند ویزلین ایک اونس۔
 ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک چوڑے منہ والی بوتل میں ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
 ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ذرا سی دوا پیشانی اور کنپٹیوں پر اچھی طرح مل لیجئے۔
 فائدہ: بس ہاتھوں ہاتھ ملتے ملتے ہی درد ختم ہو جائے گا۔

مرگی

تعریف مرض: مرع سے مراد گرنا ہے اس میں مریض بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اعضاء میں تشنج منہ میں جھاگ اور سانس میں خرخراہٹ جاری ہو جاتی ہے چمک دار چیز دیکھنے سے فوراً دورہ پڑ جاتا ہے۔

اسباب: مرطوب غذاؤں کا کثرت استعمال، ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، کثرت مباشرت، جن انگلام، شراب نوشی، رنج و غم، خرابی حیض وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اکثر جسم میں رطوبات بلغم بکثرت پیدا ہو کر مرع کا باعث بنتی ہے مرگی کی عموماً اطباء کرام تین اقسام تجویز فرماتے ہیں:

(1) مرع معدی (2) مرع دماغی (3) مرع اطرائی

(1) جب رطوبات بلغم کا غلبہ سر میں ہو تو دماغی مرگی اور دیگر اعضاء میں ہو تو معدی یا پھر اطرائی مرگی کہلاتی ہے۔

علامات: دورے کے وقت مریض چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں سانس خراٹے دار آتی ہے اور مشکل سے آتی ہے اکثر زبان دانتوں میں دب کر کٹ جاتی ہے کبھی پاخانہ و پیشاب بھی خطا ہو جاتا ہے مرگی کے مریض میں خوب وڈر زیادہ پایا جاتا ہے اگر بچہ میں مرض لگ جائے تو لمبے عرصے تک مرض قائم رہتا ہے نبض باریک اور گہری ہوتی ہے نہ سے جھاگ نکلتی ہے تشنج لازمی ہوتا ہے۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

636- جوشاندہ مرگی

عنایت: جناب حکیم محمد دین صاحب عارف والا ساہیوال

ہوالشافی: گل بنفشہ چھ ماشہ زوقا خشک چار ماشہ گاؤ زبان اسطوخودوس بادرنجبویہ عود صلب ہر ایک پانچ ماشہ مویز منقہ نو دانہ انجیر تین عدد جدوار خطائی تین ماشہ پرسوشاں پانچ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو رات کو دو کلو پانی میں بھگو دیتے صبح گرم کر کے جب آدھا

633- اکسیر مایخولیا

عنایت: جناب حکیم عبدالرشید صاحب کھومیاتری ماٹھوی کچھ (ہند)۔

ہوالشافی: طباشیر گل سرخ گل گاؤ زبان سات سات ماشہ برادہ صندل سفید مغز کدو خربزہ ہر ایک چار ماشہ ورق نقرہ ورق طلاہ غبزا شہب ہر ایک ایک ماشہ مردارید ناسلہ یاقوت گہریاشمی مرہبان ہر ایک دو ماشہ رب سب آٹھ تولہ شہد سات تولہ مصری پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے ورقوں اور یاقوتوں کو الگ مرع کھاب میں کھرل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ ہمراہ شربت انار عرق کیوڑہ بید مشک پلا دیتے۔

فائدہ: مایخولیا کو ختم کرنے کے لئے لاجواب اکسیری دوا ہے۔

634- معجون نجاج

عنایت: جناب حکیم محمد اقبال قادری صاحب انارکلی لاہور

ہوالشافی: ہلیلہ سیاہ پوست بھیرہ آملہ مقشر ہر ایک تین تولہ سفانج، انیسون، اسطوخودوس تری مقشر ہر ایک ڈیڑھ تولہ شہد تین گنا۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کوٹ لیجئے اور شہد ملا کر معجون تیار کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح وشام ہمراہ شیر گاؤ دیتے پھر سات روز بعد اس کی مقدار خوراک ڈیڑھ تولہ کر دیتے۔

فائدہ: قدیم و جدید اطباء کرام کے نزدیک یہ نسخہ مجرب ہونے کے باعث نہایت ہی اطمینان بخش مشہور ہے بڑی اعلیٰ چیز ہے مایخولیا جنون وغیرہ تابود ہو جاتا ہے۔

635- اکسیر مایخولیا

عنایت: جناب حکیم محمد عرفان اللہ صاحب پنڈ دادن خان۔

ہوالشافی: اسرول پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: اسے نہایت باریک کر کے محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے ڈیڑھ ماشہ ہمراہ آب تازہ یا عرق گاؤ زبان سے صبح وشام دیتے۔

فائدہ: مایخولیا جنون اختناق الرحم مرگی وغیرہ میں مطب یونانی کی مایہ تاز دوا ہے اس سے مقابلہ کا نسخہ آج تک نہیں آیا نہایت ہی سستی اور مجرب دوا ہے۔

ہیں انسانی قلوب کے
مردادی فالج
اعصابی فالج
سودادی فالج

اسباب: لختہ مشروبات کا بکثرت استعمال، بلغم کی کثرت، جلدی مسامات بند ہو جانے سے اعضا کا کٹ جانا، دوران خون کا نظام بگڑ جانا یا کمزور ہو جانا یا شدید ہو جانا وغیرہ۔ اعضائے ریشہ کے افعال کا نقص ہونا وغیرہ شراب نوشی، رنج و غم، آتشک، رعشہ، محرقہ، بخار، شریانوں کا سدہ، کثرت جریان خون، کثرت مباشرت وغیرہ اسباب میں شامل ہیں۔

علامات: مرض کا حملہ عموماً صبح کے وقت ہوتا ہے مفلوج حصہ پہلے کچھ گرم لیکن بعد میں سرد ہو جاتا ہے بغیر سہارے کے مریض کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے مریض کے ہوش و حواس میں فرق پڑ جاتا ہے بیمار ٹھیک طور پر بول بھی نہیں سکتا عموماً زیادہ عمر کے بلغمی اشخاص مبتلا مرض ہوتے ہیں نچلے ہڈی کے فالج میں پہلے مریض کی کمر میں درد ہوتا ہے پھر پاؤں میں کمزوری معلوم ہوتی ہے بیمار لاکڑا کر چلتا ہے اور پھر نچلا دھڑ بالکل مارا جاتا ہے بعض اوقات محرقہ، خسرہ، چیچک اور موسیٰ بخار کے دور ہو جانے کے بعد یہ نقص واقع ہو جاتا ہے۔

رعشہ فالج میں پہلے تھکان ہوتی ہے پھر ایک پاؤں میں لرزش پیدا ہو کر درد محسوس ہونے لگتا ہے پھر ان میں رعشہ شروع ہو کر عموماً ایک طرف کے اعضاء کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر چہرے کی طرف فالج ہو تو ماؤف طرف کا چہرہ تندرست طرف کو کھینچ جاتا ہے منہ کا ایک گوشہ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے منہ سے رال بہتی ہے ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور مریض کے ہنسنے رونے میں منہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے مریض کو تھوکنے، سیٹی بجانے اور پھونک مارنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے جب اس مرض کا اثر انٹریوں پر ہو تو پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہے مثانہ پر ہو تو پیشاب خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

639- اکسیر فالج

عنایت: جناب حکیم دین محمد صاحب چک نمبر 117 ج۔ ب دھنولہ فیصل آباد۔

ہوالشافی: بیش مدبر ستائیس ماشہ، سیما، مصفیٰ نو ماشہ، سیسہ نو ماشہ، ازراقی مدبر اثنا عشر ماشہ،

ہمس لعلی قلوب کے

صردہ جائے تو قدرے چینی ملا کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: دن میں تین مرتبہ پلاتے رہنے اور پھر مسبل دیجئے۔
فائدہ: مرگی کے لئے مفید جو شاندا ہے۔

637- تریاق مرگی

عنایت: جناب حکیم محمد عظیم صاحب بریلی شریف (ہند)۔

ہوالشافی: ایک سیاہ بچھو (جس کا ڈنک کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہو)

ترکیب تیاری: اسے بوتل میں بند کر دیجئے جب بالکل خشک ہو جائے تو پر دار بنا کر محفوظ فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: بوقت دورہ ایک ایک چنگی دونوں نعتوں میں پھونک دیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل دو یا تین مرتبہ کے استعمال سے مرض پھر عود نہ کرے گا اس کا استعمال کبھی رایگاں نہیں جاتا ہر جگہ اس نسخہ نے کامیابی کا لوہا منوایا ہے۔

638- دورہ نل

عنایت: جناب حکیم غلام قادر صاحب امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: کھٹل سیاہ ایک تولہ، کستوری دوری۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر خوب کھریں کیجئے اور حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورہ کے وقت ایک رتی دوا کسی ٹنگی سے مریض کے ناک میں داخل کیجئے۔

فائدہ: چند منٹ میں وہ مریض جو بستر مرگ پر کراہ رہا ہوگا ہوش میں آجائے گا اسی طرح دو تین مرتبہ عمل کرنے سے یہ آفت ختم ہو جائے گی۔

فالج

تعریف مرض:

لفظ فالج کے معنی نصف کے ہیں جسم انسانی کے آدھے حصے کا بے حس ہو جانا فالج کہلاتا ہے۔

ہے۔

اقسام:

فالج کی تین اقسام معروف ہیں:

جس میں دہجے کے لئے نہایت ہی مفید ہے سینکڑوں مریضوں پر آزما گیا ہے۔

642- ششائی

عنايت: جناب حکیم فرغام علی خان صاحب علی گڑھ (ہند)۔

هو الشافى: تخم حرمل دس تولہ دودھ گائے دو کلو گھی کا دس تولہ دسی کھانڈ پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تخم حرمل کو پوٹی میں باندھ کر دودھ میں پکائیے جب دودھ آدھا حصہ خشک ہو جائے تو دسی گھی اور چینی دسی شامل کر کے ڈھک دیجئے۔

فائدہ: نیم گرم گرم مریض کو پلا دیجئے اوپر سے کپڑا لے لیجئے۔

ترکیب استعمال: بیت زیادہ پسینہ آئے گا اسے اندر ہی خشک ہونے دیجئے گا انشاء اللہ عزوجل دس بارہ دن میں قلع ختم ہو جائے گا اور صحت نصیب ہوگی۔ دس سے بارہ یوم میں شرطیہ آرام آجاتا ہے۔

643- اکسیر لقتوہ

عنايت: جناب حکیم محمد قیوم الدین صاحب کھاتوئی حلقہ نگر (ہند)۔

هو الشافى: چھلکا ریشما تین تولہ قد سیاہ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب کوٹ کر یک جان کر لیجئے اور خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: بے مثل اکسیر لقتوہ ہے جس کے استعمال سے لقتوہ جیسی موذی مرض دغ ہو جاتی ہے۔

644- روغن برق

عنايت: جناب حکیم سید محبوب علی شاہ صاحب سردار آباد فیصل آباد۔

هو الشافى: انیسون نو ماشہ سنبل الطیب نو ماشہ زیرہ کرمانی، قفل سیاہ، قسطخ، عتر قرچا، زینون، گل مکو، تخم ترہ، تیزک، تخم سداب، سورنجاں، تلخ، دارچینی، ہر ایک چھ ماشہ پوست بیخ کرفس، ہراتی، عشب مغربی، بابونہ، اکلیل الملک، مکودانہ ہر ایک ایک تولہ پانی ایک کلو روغن کتجد ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو جو کو ب کر کے پانی میں ڈال دیجئے اور نیچے آگ روشن کیجئے جب پانی آدھا حصہ رہ جائے تو مل چھان کر آہنی کڑاھی میں ڈال کر روغن کتجد ڈال دیجئے جب پانی جل جائے تو روغن قفل کر کے سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: مقام قلع اور دروں میں مقام ماؤف پر آہستگی سے مالش کیجئے۔

فائدہ: قلع وغیرہ اور دروں میں رعشہ خدر اور استرخاء وغیرہ میں نہایت مجرب ہے۔

زخمیل چھ ماشہ جائفل چھ ماشہ زعفران تین ماشہ قفل دراز، مالکشی، کندھک آملہ ساز سہار بریاں ہر ایک ایک تولہ قفل سیاہ ایک تولہ خرمرہ زرد سوختہ گیارہ عدد آب اورک چندہ تولہ آب کیلا پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے سہاب اور سیسہ کو عقد کر لیجئے پھر دیگر ادویات کوٹ چھان کر آب اورک میں کھل کیجئے بعد میں آب کیلا میں کھل کیجئے چوبیس کھنٹے کھل کرنے کے بعد نمب دانہ موٹھ بنا کر محفوظ فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی پان میں رکھ کر رات کو سوتے وقت کھلائیں دن میں تین مرتبہ آب اورک چار ماشہ ایک پاؤ دودھ میں بلا کر پلائیے۔

فائدہ: ہمتیہ کے بعد قلع کے لئے نہایت ہی مفید ہے ریاحی دروں میں لاجواب ہے ہزاروں مرتبہ کا آزمودہ ہے۔

640- اکسیر استرخاء

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم صاحب کماں ضلع ملتان شریف

هو الشافى: برگ مدار، برگ دھتورہ، برگ ارغٹ، کنڈیاری، برگ سنجاوا، انیسون، ہر ایک پانچ تولہ کا کھل، قسطخ، سورنجاں، بابونہ ہر ایک دو تولہ پانی تین کلو رون کتجد تین پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نیم کو ب کر کے پانی میں ڈال کر چند کھنٹے کے لئے رکھ دیجئے بعد پانی کو پلائیے جب آدھا پانی جل جائے تو مل چھان کر اس میں روغن کتجد ڈال کر پکائیے جب پانی جل جائے تو روغن کو سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: درد کے مقام پر رات کو مالش کیجئے۔

فائدہ: صدہا مرتبہ کا مجرب ہے قلع وغیرہ اور استرخاء میں جید الاثر ہے۔

641- حب قلع

عنايت: جناب حکیم سید مظفر علی خان صاحب جانتہ ضلع مظفر نگر (ہند)۔

هو الشافى: عتر قرچا، کباب چینی، خشخاش سفید، خشخاش سیاہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، قفل دراز، جلوتری، خولجاں، لوگ، اسگند، بوپھلی، جائفل، دارچینی، مغز بادام، مقشر، مغز پستہ، ہر ایک ایک تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور شہد کی مدد سے خوب بخودی تیار فرما کر سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے چار گولی تک دن میں تین وقت ہمراہ چائے شہد ملی یا آب

648- اکسیر شفا

عنايت: جناب حکیم مخدوم غلام محمد صاحب لالوالی ضلع شاہ پور۔

هو الشافي: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

649- حب سرخ

عنايت: جناب حکیم محمد ارشد صاحب جناح باغ لاہور۔

هو الشافي: پش مدبر از راتی مدبر جنسید ستر ہر ایک چھ ماشہ شکر ف روئی سہا کہ سفید
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

650- ترياق فاج

عنايت: جناب غلام حسین صاحب فیروز پور (ہند)۔

هو الشافي: پش مدبرس پچیس ماشہ پارہ نو ماشہ سیسہ نو ماشہ از راتی مدبر نو ماشہ سوٹھ چھ ماشہ
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

645- اکسیر لقوہ

شہس تقانی فارمولے

عنايت: جناب حکیم سید عالم علی شاہ صاحب وزیر آباد۔
هو الشافي: پش مدبرس پچیس ماشہ پارہ نو ماشہ سیسہ نو ماشہ از راتی مدبر نو ماشہ سوٹھ چھ ماشہ
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

646- حب مرکب

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم راج بہادر سنگھ صاحب خضر آباد انبالہ (ہند)۔

هو الشافي: پارہ گندھک آملہ سار پش مدبر قرفل ہر ایک ایک تولہ قفل سیاہ چار تولہ
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

647- اکسیر فاج

عنايت: جناب حکیم مظفر علی صاحب لانیوں کی حویلی نزد گردی کوٹ جو دھور (ہند)۔

هو الشافي: سملفار سفید سیماب انیون برابر وزن۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔
ترياق: تا قوس بقدر ضرورت۔

آپ فرماتے ہیں کہ سرد مزاج اشخاص میں گرم مزاج کی نسبت زکام پیدا کرنے والے سبب خارجی کو قبول کرنے کی زیادہ استعداد ہوتی ہے کیونکہ سرد مزاج اشخاص میں دماغ کی رگ جو غذا پہنچتی ہے وہ دماغی سردی کے باعث صحیح نہیں پاتی اور جو بخارات اس کی طرف آتے ہیں وہ تحلیل نہیں ہوتے بلکہ غذا فاضل رہتی ہے اور دماغ فضلات دماغ کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور بخارات رطوبات کی شکل اختیار کر کے ناک اور حلق کے راستے نازل ہوتے ہیں۔

یہ ہے اور بخارات رطوبات کی شکل اختیار کر کے ناک اور حلق کے راستے نازل ہوتے ہیں۔

یہ ہے اور بخارات رطوبات کی شکل اختیار کر کے ناک اور حلق کے راستے نازل ہوتے ہیں۔

یہ ہے اور بخارات رطوبات کی شکل اختیار کر کے ناک اور حلق کے راستے نازل ہوتے ہیں۔

اسباب عامہ: سردی لگنا، سخت کام کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا، ترش اور سرد چیزوں کا کثرت استعمال، تیز زہبو کا استعمال، ضعف دماغ، ضعف اعصاب وغیرہ وغیرہ۔

درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

652- اکسیر نزلہ

عنايت: جناب حکیم خواجہ غوث بخش صاحب اوج شریف بہاولپور۔
 ہوالشافی: اچھا ک تین گرین، سوڈیم سلی سلاس پانچ گرین، کونین سلفاس دو گرین، سوڈیم اینارب چھ گرین، گلسٹین تین گرین۔

تربید سفید، مصر، ست ملٹھی، گوند کتیرا، ہم وزن روغن بادام بقدر ضرورت۔

نزلہ وزکام دفع ہو جائیں گے صدہا مریضوں پر استعمال کروایا جا چکا ہے صرف ایک ذراک سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

653- حب اکبر

عنايت: جناب حکیم نور مصطفیٰ صاحب بولہ شاہ پور۔

ہوالشافی: تربید سفید، مصر، ست ملٹھی، گوند کتیرا، ہم وزن روغن بادام بقدر ضرورت۔

ترکیب استعمال: ایک کرل سچ ایک شام امراء ماہ اصل دیتے سچ دوپہر شام تین ماہ
 آپ اورک ایک پاؤدودہ میں ڈال کر پکائیے۔
 فائدہ: فالج، لقوہ، رعشہ اور عضوتاسل کی کمزوری میں بے حد مفید ہے۔

651- روغن جمالی

عنايت: جناب حکیم سردار نور الدین جمالی صاحب کوئٹہ بلوچستان۔

ہوالشافی: نم جوڑ مال، نو ماشہ، ابوان خراسانی، نو ماشہ، نیلما سیلہ، چھ ماشہ، مالکینی چھ ماشہ، جوڑوہ، سوڈیم، ہند، ہند، ستر، قند، تلخ، معطر، حنا، ابوان کرس، اتیسوں ہر ایک ایک تولہ، پانی دو کلو، روغن کچھ ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو جو کوب کر کے دو کلو پانی میں پکائیے جب پانی آدھا کلو رہ جائے تو ل پیمان کر اس میں روغن کچھ ڈال کر پکائیے جب پانی خشک ہو جائے تو تیل نظر کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: مقام ماؤف پر مالش کیجئے طلاء کے کام بھی آتا ہے۔

فائدہ: فالج، لقوہ، رعشہ اور عضوتاسل کی کمزوری میں بے حد مفید ہے۔

نزلہ وزکام

طبی اصطلاحات میں دماغی رطوبات کا حلق یا سینے پر گرنا نزلہ جب کہ ناک کی طرف بہنے کو زکام کہا جاتا ہے جو نزلہ بار بار ہو جاتا ہے اور اس کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہتا ہے اسے نزلہ مزمن یا دائمی نزلہ بھی کہتے ہیں جب کہ نزلہ شدید کو اطباء قدیم نزلہ حار یا گرم نزلہ کہتے ہیں اور اسی طرح نزلہ خفیف نزلہ بارد یا سرد نزلہ کہلاتا ہے۔

نزلہ وزکام کا شکار:

اکثر ایسے لوگ نزلہ وزکام کا شکار رہتے ہیں جو ضعف دماغ اور ضعف اعصاب کا شکار ہوں ایسے اجباب عموماً کثرت جماع کے باعث ضعف دماغ اور ضعف اعصاب کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اعصاب کی ہارک شایخیں جو حلق اور ناک کی جھلی میں پھیلی ہوتی ہیں ان کی قوت مدافعت نہایت کمزور ہو جاتی ہے یہی تو معمولی سردی، معمولی گرمی، گردوغبار تیز خوشبو اور معمولی ذائقہ تبدیلی سے شدید سوزش پیدا ہو کر نزلہ وزکام ہو جاتا ہے۔

ہی تقابلی فارمولے
فائدہ: جو نزلہ و زکام کسی دوا سے بند نہ ہوتا ہو اس سے تابور ہو جاتا ہے صحت کو بہتر بناتا ہے
 روایات بھی پیدا کرتا ہے بنا کر ضرور آزمائیے۔

657- حب نزلہ

عنايت: جناب حکیم کوپراج جگن ناتھ صاحب جند ضلع انگ۔
هو الشافى: بادام شیریں مقشر، کوزہ مصری، ایون خالص، زعفران ہر ایک تین ماشہ، شکر ف دو
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور قفل سیاہ برابر خوب تیار کر کے
فائدہ: نزلہ و زکام جو ختم ہونے کا نام نہ لے ختم کرنے میں لاجواب مجرب ہے سرعت انزال
 میں مفید ہے۔

658- اکسیر نزلہ

عنايت: جناب حکیم عبدالحکیم صاحب کورائی ضلع انگ۔
هو الشافى: سونف کے چاول ایک کلو، شکر سفید ایک کلو روغن گاؤ پاؤ۔
ترکیب تیاری: سونف کو پیس کر شکر ملا کر اور روغن گاؤ میں ملا کر رکھ لیجئے۔
ترکیب استعمال: پانچ تولہ صبح، پانچ تولہ شام، ہمراہ دودھ نیم گرم لیجئے۔
فائدہ: کہنہ سے کہنہ نزلہ کی اکسیری دوا ہے اس سے داگی نزلہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔
پرہیز: ترشی تیل والی اور ثقیل اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

659- مثالی دوا

عنايت: جناب حکیم محمد بشیر صاحب رام گلی لاہور۔
هو الشافى: اصل السوس مقشر دو تولہ، بادیاں ایک تولہ، قند سفید تین تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام لیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل نزلہ و زکام ضیق النفس میں نہایت ہی لاجواب ہے اور ساری زندگی
 ان امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

شام تقابلی فارمولے
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے روغن بادام میں چرب کر لیجئے اور خوب
 ایک ماشہ برابر بنا کر محفوظ کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: رات سوتے وقت دو گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: داگی نزلہ و زکام کے لئے اکسیر ہے دو تین خوراک سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

654- حب ریش

عنايت: جناب حکیم حافظ رضوان احمد صاحب نہپور ضلع بجنور (ہند)۔
هو الشافى: پوست خشکاش ایک تولہ، قفل سیاہ ایک تولہ، قند سیاہ کہنہ سات تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے نخودی خوب بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: خوراک ایک گولی اطریفل اسطو خود اس آدھا تولہ کے ہمراہ دیجئے۔
فائدہ: نزلہ و زکام کو خدائے فضل و کرم سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں لاجواب خوب ہیں
 آزمائیے فائدہ اٹھائیے اور دعا مدینہ سے نوازیئے۔

655- حب داگی نزلہ

عنايت: جناب حکیم عبدالحمید خان صاحب جہانگیرہ ضلع پشاور۔
هو الشافى: زعفران، موگرا، ایون، جدوار ہر ایک تین ماشہ، کندر ڈیڑھ ماشہ، گوند کثیر، رب
 السوس، دارچینی ہر ایک ایک ماشہ، شہد بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا لیجئے اور شہد کی مدد سے نخودی گولیاں بنا کر
 حفاظت سے محفوظ فرما لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شربت بنفشہ تین تولہ، عرق گاؤ زبان چو
 تولہ دیجئے۔
فائدہ: پرانا نزلہ و زکام ہو یا نیا ہر ایک کو ختم کرنے میں بے خطا نسخہ ہے مجرب ہے بے نظیر
 ہے۔

656- دوائے نزلہ و زکام

عنايت: جناب حکیم وید کوپراج شکرانند صاحب ہری پور ہزارہ۔
هو الشافى: کریازوٹ ڈھائی بوند، چکر بڑیا دس بوند، چکر کواناٹ ایک بوند، چکر کیمفر کپاؤنڈ
 آٹھ بوند، گیسرین تیس بوند، وائٹم اپیکاک نو بوند، سرب سلا ساٹھ بوند، اکو پنتھی پپ ایک اونس۔
ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو باہم ملا کر سنبھال رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ ایک خوراک ہے ایسی دن میں دو یا تین خوراکیں لیجئے۔

660- حب مومیائی

عنايت: جناب حکیم محمد آصف صاحب ملی ملتان۔

ہوالشافی: ازرائی مدبر، تخم دھتورہ، مغز چنبہ دانہ زیرہ سفید، مغز کشنیز، مومیائی خالص ہر ایک پونہ ماشہ، آب تر پھلہ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر آب تر پھلا میں کھل کیجئے جب خوب بننے پر گولیاں نخودی تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے ساتھ اطرینفل اسٹو خودوس دیجئے تو فوائد کو چار چاند لگ جائیں گے۔

فائدہ: دائمی نزلہ وزکام ختم ہو کر صحت کامل مل جاتی ہے دماغی طاقت بحال کرتا ہے۔

661- اکسیر نزلہ

عنايت: جناب حکیم محمد عاشق صاحب سمندری فیصل آباد۔

ہوالشافی: جدواہ خطائی تین ماشہ، افیون دو ماشہ، دانہ الاچی خورد تین ماشہ، گوند کیکر تین ماشہ، رب السوس تین ماشہ، طباشیر ایک ماشہ، زعفران ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیجئے اور دانہ قفل سیاہ برابر خوب بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک حب صبح ایک حب شام ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: ابتدائے نزلہ میں بلند پایہ کا نسخہ ہے جس کی مثال نہیں بہت مفید ہے۔

662- تریاق کیرا

عنايت: جناب حکیم غلام فرید صاحب بلال تنج لاہور۔

ہوالشافی: (1) اسٹو خودوس ایک تولہ، گل گاؤ زبان، تخم مورد، دھنیا خشک ہر ایک تین تولہ، تخم کاہو پانچ تولہ، اجوائن خراسانی پوست خشخاش ہر ایک آٹھ تولہ، تخم خشخاش بارہ تولہ، چینی ایک کلو۔

(2) گل سرخ، کشنیز، رب السوس، نشاستہ بریاں، گوند کثیر، گوند کیکر، مرکی ہر ایک ایک تولہ

ترکیب تیاری: سب سے پہلے نمبر 1 والی ادویات کو چار کلو پانی میں بھگو دیجئے بارہ گھنٹے بعد جوش دیجئے جب پانی نیم کلو رہ جائے تو اتار کر پن چھان کر ایک کلو چینی ملا کر قوام پر لے آئیے سرد ہونے پر نمبر 2 ادویات کو خوب باریک کر کے مذکورہ قوام میں ملا دیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ سے ایک تولہ دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: کھانسی، نزلہ وزکام، کیرا میں بے مثال دوا ہے متعدد مرتبہ کا آزمودہ نسخہ ہے کبھی خطا

طفرے

برگ بانہ ایک تولہ جوش دے کر چنا نزلہ وزکام کے لئے بے حد مفید ہے۔

دار چینی تین ماشہ جو شانہ بنا کر پینے سے سرد نزلہ دور ہو جاتا ہے۔

سپحان پندرہ دانے جو شانہ بنا کر لینے سے یہاں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

انجیر سات دانے کھانے سے نزلہ وزکام کا شافی علاج ممکن ہے۔

663- نسوار چمن

عنايت: جناب حکیم گل خیر خان صاحب جلندھر (ہند)۔

ہوالشافی: اندرائن کا گودہ خشک، ہلدی، قفل دراز، کبابہ، سوئے، تخم کرفس، سلاجیت، باؤ بڑی، تخم بونہن برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ذرا سی ناک میں سونگیں۔

فائدہ: رکا ہوا نزلہ وزکام چھینکے آ کر خارج ہو جائے گا جسم ہلکا پھلکا اور سانس میں آسانی ہوگی

بے حد مفید ہے۔

664- دوائے کامل

عنايت: جناب حکیم در محمد صاحب موگٹ دہلی۔

ہوالشافی: پوست خشخاش، اسٹو خودوس ہر ایک ایک ماشہ، مغز کشنیز چار ماشہ، گل سرخ چار ماشہ، افی خورد تین عدد، چینی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین تین ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: نزلہ کی وجہ سے کچا ریشہ جو حلق میں گر رہا ہو سینے میں جلن محسوس ہوتی ہو تمام جسم جکڑا

ہو اور ہلکا سا بخار ہو تو یہ دوا نہایت ہی مفید الاثر ہے تمام علامات کو ختم کر دیتا ہے۔

665- اطرینفل دماغون

عنايت: جناب حکیم محمد احمد یزدانی صاحب لکھنؤ منڈی

ہوالشافی: گل منڈی، گل بنفشہ، گل سرخ، گاؤ زبان، اسٹو خودوس، ایک ایک تولہ، سناکی

دماغی تولہ، مغز کدو، مغز خیار، مغز تربوز، مغز خربوزہ، تخم کاہو، خشخاش ہر ایک دو تولہ، تروی تین تولہ

طحال (تلی)

(Spleen)

طحال انسانی وجود میں جگر کے بعد سب سے بڑا غدود ہے جو جگر کے بائیں طرف آخری ہلی کے نیچے موجود ہوتا ہے رنگت کے لحاظ سے سرخ سیاہی مائل اور بے حد نرم و نازک ہوتا ہے۔ صحت مند انسان میں طحال کا سائز لمبائی پانچ انچ، چوڑائی تین انچ، موٹائی ڈیڑھ انچ ہوتی ہے۔ اوسط وزن تقریباً پچھتر گرام سے ڈیڑھ سو گرام ہوتا ہے۔

طحال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ تقسیم ناف طحال کے ذریعے ہوتی ہے اس جگہ بعد سے کا ابھار، لبلبہ کا باریک سرا اور خم دار آنت کا موڑ ہوتا ہے تندرستی کی حالت میں طحال بائیں پسلیوں کے نیچے محسوس نہیں ہوتی مگر طحال بڑھ جانے میں یہ محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ ناف اور پیڑ تک چلی جاتی ہے بعض اوقات پورا پیٹ روک لیتی ہے۔

عظیم الطحال

تعریف مرض:

طحال کا اپنے حجم اور جسم میں بڑھ جانا عظیم الطحال کہلاتا ہے۔

اسباب:

عموماً جب سردی اور تری مسلسل قائم رہے تو جسم کے غدود میں تسکین ہو جاتی ہے اور فضلات کے رکنے کی وجہ سے عظیم طحال ہو جاتا ہے کبھی مادوں کی شدت کے باعث جگر میں عظیم پیدا ہو جاتا ہے کبھی طیر یا بخاروں کے بعد بھی عظیم طحال ہو جاتا ہے۔


علامات:

صحت کی حالت میں بائیں طرف پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتی البتہ مرض کی صورت میں بڑھ کر کبھی تمام پیٹ کو روک لیتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے آنکھوں میں گدلاہٹ یا خانہ سفیدی مائل مریض کمزور لاغر ہو جاتا ہے اکثر ہلکا سا بخار لگتا ہو جاتا ہے نبض تیز پھولی ہوئی سخت قبض جسم کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے ڈراؤنے خواب آتے ہیں وغیرہ۔

کشینز چار تولہ، مغز بادام پانچ تولہ، ترمحلہ چھ تولہ، کھوپا دس تولہ، چینی سہ چند ترکیب تیاری: برگ سنا کو صاف اور تروی کی اندرونی سخت لکڑی دور کر لیجئے پھر تمام ادویات کا پورڈر بنا کر پھر روغن بادام میں اس پورڈر کو چرب کر کے چینی کا قوام بنا کر شامل فرمایئے اور خوب گھوٹیں ٹھنڈا ہونے پر محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ رات کو سوتے وقت ہمراہ دودھ لیجئے۔

فائدہ: نزلہ و زکام نیا ہو یا پرانا نہایت مفید ہے قبض کشا ہے جو کھائیں گے گمن گائیں کے مردانہ قوت بھی پیدا کرتا ہے وغیرہ۔



669- حب طحال

عنايت: مسج الغرباء حکیم دیوان چند لعل صاحب سہگل مفسر پشاور۔
ہو الشافی: خرمہ زرد دو تولہ، سلفیورک ایسڈ تین تولہ، نوشادر، قلمی شورہ، سہاگہ بریاں، سوڈا زردی دو تولہ، ایلو ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے پہل خرمہ زرد پر سلفیورک ایسڈ ڈال کر بریاں کیجئے جب تکلفت ہو جائیں پھر دیگر ادویات پورڈر بنا کر ملا کر خوب بخودی بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: برسوں سے بڑھی ہوئی تلی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔

670- اکسیر طحال

عنايت: جناب مولانا حکیم محمد صادق صاحب سیالکوٹ۔
ہو الشافی: بنکار، قلمی شورہ، مسمر زرد، نمک سیاہ، جوکھار، لوٹا کھار، شحم حظل، پوست ہلیہ زرد، قفل دراز، قفل سیاہ، نوشادر ایک ایک تولہ، رس کنوار گندل بقدر ضرورت، سرکہ انگوری بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر آب کنوار گندل میں کھل کیجئے پھر ایک ہفتہ تک میں کھل کیجئے پھر کنار دشتی برابر گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: کہنہ سے کہنہ عظیم طحال کے لئے مفید ہے، قح معده اور درد معده میں الغرض امراض معده میں لاثانی نسخہ ہے۔

671- ضماط طحال

عنايت: جناب حکیم سید محمد عتیق القادر صاحب تجارہ الورا راچوٹانہ (ہند)۔
ہو الشافی: اشق دو تولہ، صمغ عربی تین ماشہ، زراوند مدحرج سات ماشہ، کتیرا چار ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی کی مدد سے باریک لیپ تیار کر کے سنبھال رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ لیپ کپڑے پر لگا کر مقام تلی پر چسپاں کر دیجئے اور اوپر سے کپڑا گرم کر کے گور کیجئے تاکہ لیپ خشک ہو جائے۔
فائدہ: ورم طحال عظیم الطحال کے لئے سو فیصد مجرب چالیس سال سے معمول مطب ہے ہزاروں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے۔ کہنہ مرض میں یہ عمل تین یا چار بار کیجئے۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے منتخب کر کے علاج کیجئے۔

666- اکسیر طحال

عنايت: زبدۃ الحکماء استاد الہام جناب حکیم محمد حسین صاحب جالندھر۔
ہو الشافی: نوشادر، مہکدوی، سہاگہ، لوٹا بنجی، شورہ ہر ایک ایک تولہ، تیزاب شورہ دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر ایک مٹی کے برتن میں رکھ کر اوپر اوپر لی ڈیڑھ گلو ڈال کر اوپر تیزاب ڈال دیجئے تمام ادویات پکنے لگیں گی اوپر سرپوش رکھ دیجئے اور اکیس یوم کے بعد جوئے نکال کر خوب جنگلی بیر برابر بنا دیجئے اور محفوظ فرما لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ تازہ پانی دیجئے۔
فائدہ: پرانے سے پرانا عظیم الطحال اس سے نابود ہو جاتا ہے بس چند یوم کا استعمال مرض نابود کر دیتا ہے۔

667- دوائے طحال

عنايت: جناب حکیم چندرا سنگھ راولپنڈی۔
ہو الشافی: تماں بمعہ برگ تیل (جلا کر خاکستر بنا لیجئے)۔
ترکیب تیاری: اس خاکستر سے بطریقہ معروف نمک حاصل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ روزانہ شربت لیموں سے صبح نہار منہ دیجئے۔
فائدہ: نہایت عجیب الاثر اور لاثانی دوا ہے عظیم طحال میں جید الاثر ہے ریح البواسیر، درد شحم، قوح، ہاڈ گولہ وغیرہ میں اعلیٰ اکسیر ہے۔ ایک ماہ کا کورس مرض کو بخوبی دین سے اڑا دے گا۔

668- حب آرن

عنايت: جناب حکیم محمد احمد طالب فیروزپور (ہند)۔
ہو الشافی: ساڑ لوہا (جو لوہار کے گرم کرنے سے گرتا ہے) ایک تولہ، پھل مدار پانچ تولہ، آب لیموں دو تولہ۔
ترکیب تیاری: ساڑ لوہا کو اور پھل مدار کو خوب لوہے کے کھل میں کھل کیجئے اور ساتھ ساتھ آب لیموں ڈالتے جائیں جب تمام آب لیموں ختم ہو جائے تو بخود خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک سہ پہر ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: بے حد بھوک پیدا ہوتی ہے مقوی جگر مقوی معده، دافع بھس، سوائقینہ اور عظیم طحال میں

672- دوائے طحال

عنايت: حکیم محمد اکرم صاحب محمود کوٹ مظفر گڑھ۔

هو الشافي: معر دو تولہ نوشادر دو تولہ لعاب کنوار گندل بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو لعاب کنوار گندل میں کھل کر کے بخوردی جیوب بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ دودھ دیجئے۔
فائدہ: عظم طحال میں متعدد مرتبہ کا آزمودہ نسخہ ہے۔

673- روغن نوشادر

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم انصاری صاحب مظفر پور۔

هو الشافي: نوشادر ایک پاؤ پختا آب رسیدہ ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر پانی میں ڈال دیجئے اور پانی اتنا زیادہ ہو کہ چار انگل اوپر آجائے روزانہ پلا دیا کیجئے تین دن بعد مقرر پانی کو لے کر بطریقہ معروف نمک حاصل کیجئے اب یہی نمک رات کو شبنم میں رکھیں آٹل بن جائے گا۔ پھر دوسرے روز رکھ دیجئے سارا نمک تیل بن جائے گا شیشی میں سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ سے دس قطرے ہاتھ میں ڈال کر کھلادیا کیجئے۔
فائدہ: ہاضم طعام دافع ریاح مجربہ عظیم طحال میں بے حد مفید ہے۔

674- تریاق طحال

عنايت: جناب حکیم احمد حسین صاحب عمدہ بازار حیدرآباد دکن (ہند)۔

هو الشافي: نوشادر سیاہ ایک تولہ فرائی سلفاس پانچ تولہ کونین سلفاس دو تولہ میگنیشیا سلفاس سات پاؤ عرق سونف سات بوتل سلفیورک ایسڈ دو ڈراپ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک کر کے ملا دیجئے اور عرق میں حل کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک اونس دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: عظم الطحال میں مفید ہے سیاہ رنگ کے دست آئیں گے فکر نہ کیجئے دیکھی گئی دودھ دیجئے۔

675- عرق لاجواب

عنايت: جناب حکیم عبدالرزاق صاحب بھون جہلم۔

هو الشافي: سات پندرہ تولہ تیزاب شورہ ایک تولہ کانی سبز تین ماشہ کونین فولادی چھ ماشہ عرق پودینہ ایک بوتل۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک کر کے عرق پودینہ میں ڈال دیجئے اور اچھی طرح ہلا کر کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک اونس دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: عظم طحال میں نہایت مفید ہے چند خوراکیوں سے طحال کو تحلیل کر دیتا ہے۔

676- تریاق طحال

عنايت: جناب حکیم محمد کرم حسین صاحب تجارہ الور (ہند)۔

هو الشافي: نوشادر قلمی شورہ ہر ایک تین ماشہ ست پودینہ روغن سونف ایک ایک ماشہ میگنیشیا بارہ تولہ عرق سونف ڈھائی پاؤ کونین فولادی کونین سلفاس تین تین ماشہ سلفیورک ایسڈ چوبیس بوتل۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہار یک کر کے عرق میں ڈال کر اوپر سے سلفیورک ایسڈ ڈال کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو تولہ صبح دو تولہ شام پلا دیا کیجئے۔
فائدہ: تجربہ شدہ عظم الطحال کے لئے اکسیر ہے۔

677- اکسیر طحال

عنايت: جناب حکیم فضل الحسن خان صاحب بنگلہ قاضلکا فیروز پور۔

هو الشافي: میگنیشیا سلفاس دو تولہ نوشادر چار ماشہ قلمی شورہ تین ماشہ سبز کونین چار ماشہ سرکہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب سرکہ میں ملا لیجئے۔

ترکیب استعمال: اس کو تین خوراک میں تقسیم کر کے صبح دوپہر شام لیجئے۔

فائدہ: عظم الطحال میں نہایت مفید ہے۔



عورتوں کے امراض

بانجھ پن

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
بانجھ پن	عقر	Sterility

تعریف مرض:

نوجوان شادی شدہ عورت کو اولاد نہ ہونے کو بانجھ پن کہتے ہیں صحت مند جوڑے کو اولاد نہ ہونا بد قسمتی سمجھا جاتا ہے سابقہ ادوار سے اب تک اس کی ساری ذمہ داری عورت پر ڈال جاتی ہے اور ایسی عورتوں کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔

اب بھی متعدد تو میں اور ممالک میں ایسی عورت کو تصور وار ٹھہرایا جاتا ہے اور مرد دوسری شادی کر لیتا ہے مگر آہ اس بیماری کا اس میں کیا تصور یا تو کوئی بیماری ہوتی ہے یا میاں صاحب بیمار ہوتے ہیں یا پھر حکم الہی ہے جو اولاد جیسی نعمت میسر نہیں آ رہی۔

اسباب:

اسباب کی دو اقسام ہیں:

- (1) پیدائشی یا خلقی
- (2) غیر خلقی یا مرضی

خلقی نقائص:

رحم، نصیہ الرحم کے پیدائشی نقائص مثلاً بچہ دانی کا نہ ہونا یا چھوٹا ہونا گردن رحم کا مسدود ہونا نصیہ الرحم کا ناقص ہونا پردہ بکارت کا سوراخ بند ہونا، قاذف نالیوں کا مسدود یا بند ہونا یا تنگ ہونا، مہبل کی رسولیاں وغیرہ۔

غیر خلقی نقائص:

امراض رحم، سیلان الرحم شدید انقلاب رحم، رحم کی شدید سوزش، زخم رحم، بواسیر رحم، استقاء رحم، فلوپین ٹیوب اور نصیہ الرحم کے امراض، کمی خون، موٹاپا آتشک سوزاک۔ اس بیماری کے

اسباب میں شامل ہیں: مردوں کی طرف سے مرض سوزاک، آتشک، ضعف باؤ، جلق، مشت زنی کے مریض، صرف انزال مادہ منی کے امراض یا شدید امراض میں جتنا ہونا وغیرہ۔

علامات:

مذکورہ بالا امراض میں سے کسی کا ہونا علامات میں واضح محسوس ہوگا:

Semen Enalytes ٹیسٹ کروایا جائے۔ عورتوں کی تشخیص مرض کیا جائے۔ علاج میں مذکورہ بالا امراض کی رعایت رکھ کر اور اسی کے مطابق علاج کیا جائے تو کامیابی ہوگی۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب کر کے علاج کیجئے۔

678- نرینہ

عنایت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد امیر علی جیلانی صاحب میانوالی۔

ہو الشافی: لوہنگ چار عدد، کستوری خالص، ایون اصلی، زعفران خالص، جوز بوا، بھنگ کے بیج ہر ایک ایک ماشہ، چھالیہ گجراتی تیس عدد، قند سیاہ کہنہ تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر جنگلی پیر برابر جوہب بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: بعد فراغت حیض پہلے دن سے ایک گولی روزانہ کھائیے اور رات کو مہاشرت کریں۔

فائدہ: نہایت مفید اور سینکڑوں مرتبہ کی تجربہ شدہ دوا ہے۔

679- علاج عقر

عنایت: جناب حکیم سید شہباز علی صاحب سیالکوٹ۔

ہو الشافی: ناریل دریائی دس تولہ، طباشیر ایک تولہ، الاچی خورد دو تولہ، تاملکھانہ پروردہ سو شیر بڑ دس تولہ، مغز بادام مقشر بیس تولہ، برادہ بنج نر، برادہ بنج بھنڈی، کوزہ مصری، داڑھی پتیل ہر ایک پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: حیض سے فراغت کے بعد پہلے دن سے ہی آکاش نمل دو تولہ روزانہ رگڑ کر بارہ بجے دوپہر پلاتے رہیں اور ایک بجے ایک رتی کشتہ بارہ سنگھا پٹاشہ میں ڈال کر شیر گاڈ شیریں سے تین یوم تک متواتر دیجئے تین دن بعد مذکورہ پورڈر ایک تولہ صبح ایک تولہ شام

اکیس یوم مرد کے لئے اور چودہ یوم عورت کو کھلا دیجئے مقدار (خوراک میں کمی بھی کر سکتے ہیں) اسی دوران ہر دوسرے دن مباشرت ملت کے مطابق کیجئے۔

فائدہ: سو لیڈ برب لٹو ہے انشاء اللہ عزوجل پہلے ماہ میں ہی عورت حاملہ ہو جائے گی سینکڑوں ویران گھر اولاد سے شاداب ہو چکے ہیں آپ بھی آزمائیے اور دعائے مدینہ سے لوازئیے۔

پرہیز: ہائاتی روغنیات، گرم ترش اور ہادی اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

680- اکسیر معین حمل

عنایت: جناب حکیم فلام حسین صاحب بستی موہن والی مظفر گڑھ۔

ہوالشافی: سیون اسپول، دودھک بونی، خار خشک، بو پھلی ہر ایک تین تولہ، گوند کیکڑ، گوند کتیرہ، سچ، تالکمانہ ہر ایک دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے ایک بڑا چمچ دودھ میں ڈال کر کھیر بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح نہار منہ دونوں میاں بیوی کھائیں۔

فائدہ: اولاد جیسی نعمت سے نوازنے میں مفید الاثر ہے۔

طغریے

* برادہ دمدان فیل پانچ سو ملی گرام کیپ روزانہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے اعلیٰ درجہ کا معین حمل ہے۔

* ایک عدد جگنو گڑ کہنے میں لپیٹ کر شام چار بجے عورت کو کھلا دیجئے اور رات کو مباشرت کیجئے پانچ یوم کیجئے انشاء اللہ عزوجل حاملہ ہو جائے گی۔

681- اکسیر حمل

عنایت: جناب حکیم چودھری عبدالحمید خان صاحب داتا گنج بخش روڈ لاہور۔

ہوالشافی: مشک خالص چار رتی، افیون، زعفران خالص جوزبوا، ہر ایک دو ماشہ برگ قنب چار ماشہ سپاری گجراتی چھ عدد قرظ ل تر آٹھ عدد ورق طلا، آٹھ عدد قند سیاہ کہنے ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کر کے بخود گولیاں بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بعد از طہارت حیض دو گولی صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ دیجئے تین دن استعمال کیجئے پھر مباشرت کیجئے تین ماہ تک ایسے استعمال کیجئے۔

فائدہ: نہایت اکسیر الاثر دوا ہے تمام رحمی امراض کے لئے نہایت مفید ہے مریضہ کی قوت و صحت بحال کر کے رحم میں استقرار کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔

682- نورین

عنایت: جناب حکیم محمد علی صاحب دروازہ مہاں سنگھ امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: کستوری ایک ماشہ، زعفران دو ماشہ، جوزبوا، ہینگ، ہیرا، سپاری افیون ہر ایک تین ماشہ، ہر ایک ماشہ، قند سیاہ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کیجئے اور قند سیاہ ملا کر بخود خوب بنا کر حالت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: بعد از غسل حیض تین یوم تک مرد و عورت دونوں ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھائیے۔

فائدہ: خواہ کسی سبب سے بانجھ پن ہو اسے دور کرنے اور ویران گھر بفضل تعالیٰ آباد کرنے میں مایہ ناز نسخہ ہے۔

نوٹ: تین ماہ تک یہ عمل ہر ماہ دہرائیے اول تو پہلے ماہ میں کامیابی ہوگی ورنہ دوسرے حد تیسرے مہینے میں ضرور کامیابی ہو جائے گی۔

683- شمر حیات

عنایت: جناب حکیم گرداس سنگھ راجپوتانہ (ہند)۔

ہوالشافی: برگ قنب چار ماشہ، کستوری خالص چار رتی، زعفران دو ماشہ، لوگ آٹھ عدد، جانتل دو عدد، سپاری دکھنی چھ عدد، افیون دو ماشہ، قند سیاہ چھ ماشہ، جوزمائل دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر خوب بخود تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی نیم گرم دودھ سے دیجئے۔

فائدہ: اولاد سے محروم عورتوں کی گود ہری ہو جاتی ہے انشاء اللہ عزوجل بے اولاد حضرات کی امید گلفتہ ہو جاتی ہے۔

684- امنگ

عنایت: جناب حکیم محمد دلاور صاحب کمالیہ فیصل آباد۔

ہوالشافی: سنگھ ایک کلو، نمک ملا پانی پانچ کلو، چونان بجا دو کلو، آب با تھو ایک کلو، آب بنفشہ ایک کلو، دودھ آک ایک کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے نمک ملے پانی میں سنگھ کسی مٹی کے برتن میں آگ پر رکھیں اور نیچے تین

پاکستان سمیت متعدد ممالک میں حمل گرانا قانونی جرم ہے لہذا کبھی بھی حمل گرانا جائز نہیں لیکن بعض حالتوں میں جب دو یا تین مستند معالج یا حکماء متفق ہوں تو مریضہ کی زندگی بچانے کے لئے اسقاط حمل ضروری ہوتا ہے مثلاً پیٹ میں بچہ فوت شدہ ہو، پروسٹ کا درد شدید ہو اور بچہ باہر نہ آتا ہو، فوت شدہ بچے کا زہر پھیلنے کے باعث زچہ کے مرنے کا خوف ہو یا خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو حمل گرایا جاسکتا ہے۔

اسباب:

جب رحم کے اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے تو حمل گر جاتا ہے اچھلنے کودنے، دہشت خوف، رنج و غم، کثرت مباشرت، مسہلات کا استعمال یا شدید تے آور ادویات کا استعمال حمل گرنے کا باعث بنتا ہے۔ جسمانی کمزوری، کمی خون، رحم کی شدید کمزوری، چوٹ لگنا، بھاری بوجھ اٹھانا، جھولے جھولنا، چیچک، نمونیا، سل، شدید بخار، شدید کھانسی، بعض عورتیں عادتاً اسقاط حمل کی عادی ہوتی ہیں جو عادت کے باعث اسقاط ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

علامات:

اسقاط سے پہلے سستی، کابلی اور بے چینی پائی جاتی ہے کمر انوں اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بچہ دانی سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے بعض عورتوں کو اسقاط کے وقت منگی اور تے بھی آتی ہے بعض کو خون کم اور بعض کو شدید جریان خون آ کر زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں پستان نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی جمات کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اندام نہانی پھیل جاتی ہے رحم نیچے آ جاتا ہے رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور جنین کا لوتھڑا خارج ہو جاتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کریں۔

685- سفوف احمر

عنایت: جناب حکیم نور الدین سجاد یانی صاحب دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: صندل سفید، صندل سرخ، برگ حنا، برگ نیم، ملٹھی، مچھنڈ، معدہ زرخیز، ہرچی، کیرد برابر وزن۔

کھنے آگ روشن کیجئے پھر دو کلو ان بجا چونا لے کر اس کے درمیان دے کر ایک من اولپوں کی آگ دیجئے پھر ایک کلو چونا ایک کلو پانی میں ملا کر اس کا زلال لیجئے اور سنگھ کو اس میں کھل کر کے گل حکمت کر کے آگ دیجئے پھر آب ہاتھو میں کھول کر کے گل حکمت کر کے آگ دیجئے اور آب بنفشہ میں کھل کر کے آگ دیجئے پھر آخر میں دودھ آگ ایک کلو میں کھل کر کے آگ دیجئے۔ کشتہ تیار ہونے پر سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک حیض کم و بیش آتا ہو تو حیض سے پاک ہونے کے بعد روزانہ رات سوتے وقت ایک ماہ کشتہ چودہ یوم تک ہمراہ شیر گاؤ سے دیجئے دوران دوا مباشرت سے پرہیز واجب ہے۔

دوسرے مہینے حیض سے پاک ہو کر ایک ہفتہ کھلائیے پھر ایک ہفتہ دوا کھانا بند کر دیجئے جس ہفتے دوا کھائیں جماع سے پرہیز کریں جس ہفتے دوا نہ کھائیں جماع لازمی کریں۔ تیسرے مہینے بھی اسی طرح پہلے ہفتے دوا کھائیں اور جماع سے پرہیز کریں دوسرے ہفتے دوا بند اور جماع کریں تیسرے ہفتے دوا کھائیں اور جماع سے پرہیز اور چوتھے ہفتے دوا بند کریں اور جماع کریں۔

فائدہ: اس دوا سے بانجھ پن مطلقاً نہیں رہتا نہایت آسان غریبانہ نسخہ ہے بس ایک مرتبہ تیار کر لیجئے عورتوں کے لئے تریاق ہے خواہ حیض تکلیف سے آتا ہو یا کم مقدار سے آتا ہو کڑ پنڈلیوں میں درد ہو، بیڑو بھاری رہتا ہو اولاد نہ ہوتی ہو ان سب کے لئے اکیلی دوا مفید ہے بانجھ پن کیلئے تین ماہ کا کورس ہے کسی کو پہلے مہینے حمل ٹھہر جاتا ہے کسی کو دوسرے تو کسی کو تیسرے مہینے میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔

نوٹ: دوا ہمیشہ رات سوتے وقت ہی کھانی ہے۔

اسقاط حمل / اٹھرا

(Abortion)

تعریف مرض:

جب جنین مقررہ مدت سے پہلے ہی کسی وجہ سے رحم سے خارج ہو جائے تو اسے اسقاط حمل کہتے ہیں۔ طبی حمل تقریباً نو ماہ اور چند یوم کا ہوتا ہے نیز حمل گرنے کا خطرہ حمل قائم ہونے سے پیدائش تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے عموماً زیادہ خطرہ تیسرے مہینے تک ہوتا ہے بعد میں کم ہی گرتا ہے اگر ساتویں مہینے حمل گر جائے تو بچہ زندہ رہتا ہے اور اگر حمل کی عمر اس سے کم ہو تو زندہ

688- اکسیر جان

عربی فارمولے

عنايت: جناب حکیم جان محمد صاحب دھار (ہند)۔

هو الشافى: کشتہ گاؤنٹی برگ نیم والا بیگنی ماش برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو لے کر خوب ہار یک میں کر محفوظ رکھئے۔

فائدہ: روزانہ ایک ماش صبح ہمراہ شیر گاؤ دیتے بعد زمانہ حمل سے ہر مہینے ایک

بند استعمال کر دئیے۔

نوٹ: جن عورتوں کو تیسرے یا چوتھے ماہ میں حمل ساقط ہو جاتا ہے یہ دوا ان کے لئے نہایت

فائدہ ہے۔ تین ماہ استعمال کر دئیے۔

689- دافع اسقاط

عنايت: جناب حکیم شیر محمد گوہل صاحب عباس پور فیصل آباد۔

هو الشافى: پوست انار دانہ نو ماش، تخم ہلاں ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو تین پاؤ پانی میں جوش دیتے جب ایک پاؤ رہ جائے تو محفوظ کر لیجئے

ترکیب استعمال: یہ جوشانہ روزانہ ہر دو گھنٹے بعد پلائیے۔

فائدہ: اگر حاملہ کو خون آنا شروع ہو جائے تو یہ نسخہ عورت کو دیتے انشاء اللہ عزوجل خون بند

ہو جائے گا۔

690- حب استقرار حمل

عنايت: شمس الحکماء جناب حکیم زاہد القادری صاحب لاہور۔

هو الشافى: زعفران، جائفل، ناکیر، لوگ، دانہ الاچی خورد، تخم اونگن، طباشیر انڈین، تخم سردالی،

الکشی، گل دھادا، سپاری برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر شہد کی مدد سے خوب بخودی تیار

کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم سے دیتے۔

فائدہ: استقرار حمل کی استعداد پیدا کر کے عورت کو صاحب اولاد بنانے میں سینکڑوں مریضوں

پر آزمایا ہوا مجرب نسخہ ہے۔ اکتالیس یوم تک استعمال کریں۔

طغری

* کہر یا شعی ایک ماش ہمراہ شیر گاؤ دینا اسقاط حمل میں مفید الاثر ہے۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار ہار یک میں کر سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی سے دو رتی ہمراہ ٹھنڈا پانی دیتے۔

فائدہ: حاملہ اگر استعمال کرے تو اسقاط حمل کی شکایت سے محفوظ رہے اور انشاء اللہ عزوجل

نزینہ اولاد پائے۔ چالیس سال مجرب نسخہ ہے پھوڑے پھنسی خارش میں اکسیر ہے۔

686- شمرین

عنايت: جناب حکیم سید علی شاہ ڈومیلی ضلع جہلم۔

هو الشافى: گل پستہ، گل سپاری، صمغ ڈھاک ہر ایک چار تولہ، اندر جو شیریں دو تولہ،

اسکندناگوری دو تولہ، کشتہ قلعی، کشتہ مرجان ہر ایک تین ماشہ، کشتہ عقیق ڈیڑھ ماشہ، نبات سفید،

تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ روزانہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیتے۔

فائدہ: سیلان الرحم و عارضہ رحم کے لئے بہت مفید ہے اسقاط حمل کے لئے مجرب اور معمول

مطب ہے۔

687- تریاق اسقاط

عنايت: جناب حکیم عبدالغفور صاحب اندرون ہاتھ دروازہ شکار پور باب الاسلام سندھ۔

هو الشافى: مروارید ناستہ، کہر یا شعی، مونگے کی جلی ہوئی، جڑ، صندل سرخ، صندل سفید،

طباشیر، کبود، درونج، عقربی، مازوسبز، عود صلیب ہر ایک ایک تولہ، مغز تربوز، تخم خرفہ ہر ایک دو تولہ،

ورق نقرہ، ورق طلا، بیس بیس عدد، ابریشم، مقرر، بیخ انجبار، گیر و ایک ایک تولہ، عنبر، شہب ایک ماش،

آب کریلا، اٹھائیس تولہ، نبات سفید آدھا کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر بطریقہ معروف معجون بنا لیجئے اور

سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ صبح روزانہ ہمراہ تازہ پانی دیتے۔

فائدہ: عادتی اسقاط کے لئے یعنی جن کے بچے دو سال سے زیادہ زندہ نہ رہتے ہوں اور ام

الصبيان کے مرض میں ضائع ہو جاتے ہوں ان کے لئے الحمد للہ عزوجل نہایت موثر

ہے۔

جس لقمانی فارمولے
ذمہ رکھتے ہوئے نرینہ اولاد کا حامل ہوگا۔
والہ تعالیٰ اعلم ورسولہ عزوجل ﷺ

عسر ولادت

تعریف مرض:

بچہ آسانی پیدا نہیں ہوتا اس سے عورت کو وضع حمل کے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ بیا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات پیٹ ہی میں بچہ مرجائے تو شدید حکمت پیدا ہو جاتی ہیں۔

اسباب:

جسمانی کمزوری، پہلی دفعہ بچے کی پیدائش کا خوف، بہت زیادہ موٹاپا، بہت زیادہ نازک مزاج، بچہ کا سائز بڑا ہونا یا بہت زیادہ کمزور ہونا کہ بچہ دانی کی پکڑ میں نہ آسکے یا دوسرا والا بچہ ہونا زیادہ ٹائٹس ہونا، بچوں کی تعداد ایک سے زائد ہونا اس کے ایک دوسرے کے نکلنے میں رکاوٹ بنتے ہوں غلط انداز سے پیدائش ہونا یعنی پہلے بازو یا ٹانگ وغیرہ باہر آنا، بچہ دانی کا چھوٹا ہونا یا رطوبت کی عدم موجودگی جس کی وجہ سے بچے کے پھسلنے میں رکاوٹ ہوتی ہے درم بچہ دانی، زخم بچہ دانی، بوا سیر بچہ دانی یا کمزوری بچہ دانی وغیرہ۔ مشیمہ کا بہت زیادہ موٹا ہونا جس کی وجہ سے وہ نہ پھٹے یا وقت سے پہلے پھٹ جائے جس کی وجہ سے پھسلا کر نکالنے والی رطوبات خارج نہ ہوں، پیشاب کی بندش، پتھری، مثانہ، پیڑو میں رسولی، مہبل کی رسولی وغیرہ جس کی وجہ سے بچہ دانی کے منہ پر دباؤ پڑنے سے بچہ آسانی سے خارج نہیں ہو سکتا، دایہ کی غلطی، سخت سردی میں اعضاءے تھلسل نہ کھل سکیں یا سخت گرمی میں طاقت کے کمزور ہو جانے سے سخت غم و فکر میں بھی دیر سے پیدائش ہوتی ہے۔ علاج سے پہلے تو تکالیف دور ہو جاتی ہیں یا کبھی سانس کی تنگی سے بند اور پھیپھڑوں کی رگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کھانسی میں خون آنے لگتا ہے کبھی درد کی شدت کے باعث اعصاب اور عضلات میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور سنج و کزاز ہونے لگتا ہے شدت درد سے کبھی پیٹ کا پردہ مراق پھٹ جاتا ہے اور عورت ہلاک ہو جاتی ہے عسر ولادت میں اگر اورت کو چھینکیں آئیں تو یہ اچھی علامت ہے اگر بچہ خارج ہونے سے پہلے خون اور رطوبات زیادہ خارج ہو چکی ہوں تو بچہ کی پیدائش مشکل سے ہوتی ہے اگر خون آنے میں دیر ہو جائے تو بچہ کی پیدائش میں آسانی کی امید کی جا سکتی ہے۔

۱۰۰۰
* ہمزہ کہنہ سوختہ ایک ماشہ شیر گاؤ دیتے استقامت میں بے مثال ہے۔
* پرانے مٹی کے دیئے جو سروس کے تیل سے اٹے ہوتے ہیں آگ میں سرخ کیجئے نہایت باریک ہیں کر چار ماشہ پانی سے دیتے ایک خوراک ہی کافی ہے۔ استخفافہ میں بھی اکسیر ہے اور خون بند کرنے میں لاجواب ہے۔
* رائی ایک ماشہ دن میں ایسی تین خوراک دیتے مفید الاثر ہے۔

لڑکیاں ہی لڑکیاں

بعض عورتوں کے ہاں کثرت سے لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور نرینہ اولاد کے لئے مختلف حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اکثر اوقات مایوسی کا منہ دیکھتا پڑتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا بھی ایک بیماری ہے اس کا علاج بھی ممکن ہے۔

691- اکسیر اعلیٰ

عنایت: جناب حکیم مقصود احمد صاحب، لکھا حویلی پاکپتن
ہوالشافی: زعفران کشمیری، چھ ماشہ زیرہ پھول چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر خوب کھل کر کے دو دو رتی کی جوب تیار کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تیسرے ماہ کے شروع سے پندرہ یوم تک روزانہ ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیتے۔

فائدہ: اس کے استعمال کے بعد ہی آپ احساس کریں گے کہ اللہ عزوجل نے ادویات میں کیا تاثیر رکھی ہے الحمد للہ اس کے استعمال سے منہد پیدا ہوگا نہایت آسان بے ضرر اور لاکھ روپیہ کا نسخہ ہے۔

692- سفوف نرینہ

عنایت: جناب حکیم مظفر سلطان صاحب راولپنڈی۔

ہوالشافی: موصلی سیاہ، موصلی سفید، گوکھرد، تخم اونٹن، برادہ دندان، فیل، تخم عباسی، پوست سنج، سنبل ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: بعد حیض روزانہ ایک تولہ عورت اور ایک تولہ مرد پانچ یوم کھائیں اور مباشرت کریں انشاء اللہ عزوجل اس ترکیب سے ہر مہینے کریں۔

فائدہ: اس سے ایک کورم کے اندر استقرار حمل کی قوت پیدا ہوگی اور دوسرا جو حمل ہوگا ثابت

علامت:

عورت کو ہار ہار درد الٹا ہے مگر بچہ باہر نہیں آتا عورت درد کافی ہے اور درد سے
بچہ نہیں نکلتا لیکن کوئی لایکہ نہیں آتا آخر عورت ٹھیک جاتی ہے اور درد کا الٹا ہونے کا وقت کے ساتھ
موت لگ جاتا ہے پھر وہ بچہ نکلتا ہے۔

حفظ ما اقلام:

اگر نویں ماہ کے شروع ہونے سے قبل حاملہ کو ہر روز ہار منہ روٹن ہارام شیریں لوانا اور
ہیم گرم میں پائیں تو نہایت مفید ہے بجز ترش ٹھیلہ اور قابض دواؤں سے پرہیز واجب ہے اس
سادہ اور مرٹن غذا میں کھائیں تو بچہ ہلکا پھلکا پیدا ہوگا۔

علاج:

درج ذیل میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

693- اکسیر عسر ولادت

عنایت: جناب حکیم ندلال صاحب نوشہرہ کلاں پشاور۔

هو السلفی: زمفران کشمیری ایک تولہ چند بید متر ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت ہار یک ٹیس لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی امراء شیر گاؤ دیتئے۔

فائدہ: فوراً بچہ پیدا ہو جائے گا۔

نوٹ: طاقت کے لئے مزید بعد میں کوئی دوا دیتئے۔

694- تحفہ

عنایت: جناب دید راج پنڈت جٹا شکر جی صاحب احمد آباد کالیانوار (ہند)۔

هو السلفی: کلوروفارم مناسب مقدار۔

ترکیب تیاری: دوا کو شیشی میں نہایت احتیاط سے رکھیں۔

ترکیب استعمال: چند قطرے کپڑے پر ڈال کر سو گھنٹیں۔

فائدہ: فوراً بچہ پیدا ہو جائے گا انشاء اللہ عزوجل۔

695- اکسیر درد رحم

عنایت: جناب حکیم غلام حسین صاحب لورالائی بلوچستان۔

اسی لسانی فارمولے

هو السلفی: پوسٹ اشکاش تین ماشہ شہد خاص دو تولہ مرق ہادیان دس تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو لایہ پلا پالی میں بوش دیتئے جب آدھا حصہ رہ جائے ہن چھان
کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: مرق ہادیان اس میں ما کر اس کو مرینہ کو دو مرتبہ پلا دیتئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل ایسا درد جو بعد ولادت ہوتا ہے ختم ہو جائے گا متعدد مرتبہ کا آزمودہ

696- اکسیر مضیق

عنایت: جناب حکیم روٹل داس صاحب فکار پور ہاپ الاسلام سندھ۔

هو السلفی: قرلل تین ماشہ لزورد خاص ایک تولہ سنبل الطیب تین تولہ سعد کونی تین ماشہ

لازورد تین ماشہ ہنگلوی سفید ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ کی مقدار روزانہ رجم میں رکھیں۔

فائدہ: رجم تک ہوگا مثل بکتر نہایت مفید الاثر دوا ہے۔ ڈیڑھ ہفتہ کافی ہے۔ ✓

سیلان الرحم

تعریف مرض:

اس بیماری میں اندام نہانی سے سفید یا پیلے رنگ کی رطوبت آتی ہے جسے لیکوریا کے نام

سے موسوم کرتے ہیں۔

اسباب:

کم عمری میں حمل قرار پانا عام جسمانی کمزوری خون کی کمی ورم رحم کثرت مباشرت

سوزاک و آتک بندش ایام خوف کا غلبہ غم و فکر کی کثرت اعصاب یا غم کا سوزش ناک ہونا

رجم کا ٹٹنا نقرس وغیرہ وغیرہ اسباب ہیں۔

علامات:

اسباب کے مطابق علامات پیدا ہوں گی مگر اکثر رجم سے پہلی رطوبات خارج ہوتی رہتی

ہیں جس سے عورت ناپاک رہتی ہے بعض اوقات سخت بدبو آتی ہے کمر میں درد پیڑ میں بوجھ

اور درد کی تکلیف محسوس ہوتی ہے ماہواری میں پریشانی کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا پیشاب کی

عضوی لحاظ سے اس کی پانچ اقسام ہیں:

- 1- فرجی لیکوریا: مقام فرج سے رطوبت کا اخراج ہوتا۔
- 2- مہلبی لیکوریا: مہلبی مقام (اندام نہانی کے اندرونی حصہ) سے رطوبت کا اخراج ہوتا۔
- 3- عمتی لیکوریا: گردن رحم سے رطوبت کا اخراج ہوتا۔
- 4- رحمی لیکوریا: رحم کے اندر سے رطوبت کا اخراج ہوتا۔
- 5- مہیضی لیکوریا: بیضہ سے رطوبت کا اخراج ہوتا۔

ان پانچ مقامات میں سے کسی مقام پر تیزی کے باعث لیکوریا کی رطوبات اخراج پاتی ہیں۔

بنیادی اقسام:

لیکوریا کی بنیادی اقسام دو ہی ہیں:

- (1) صفراوی لیکوریا
- (2) بلغمی لیکوریا

صفراوی لیکوریا:

بعض اوقات اندرونی یا بیرونی اسباب کے باعث رحم کے غدود یا غشائی بھی متاثر ہو جاتی ہے جس کے باعث تپلی زردی مائل رطوبت اخراج پاتی ہے جو نکلنے وقت تپلی جب کہ کچھ دیر بعد پیپ کی طرح گاڑھی اور بدبودار ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے مقام رحم پر ہلکی سی خارش اور جلن ہوتی ہے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے بے چینی ہوتی ہے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے رحم میں دغدغہ ہوتا ہے وغیرہ۔

بلغمی لیکوریا:

بعض اوقات کسی اندرونی یا بیرونی اسباب کے باعث رحم کے اعصاب سوزش ناک ہو کر رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بلغم میں بعض اوقات صفرا مل کر یا بعض اوقات سودا مل کر فساد پیدا کرتا ہے جس کے باعث اعصاب رحم سوزش ناک ہو کر لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے اس لیکوریا میں رطوبات بے رنگ بے بو ہوتی ہیں البتہ کیفیت کھاری ہوتی ہے بعض اوقات اس میں بھی ہلکی سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے مگر اس وقت جب ان رطوبات کو صاف نہ کیا جائے۔

نوٹ: تشخص میں صفراوی اور بلغمی علامات صبح وشام کی علامات جسمانی علامات، تارورہ کا امتحان بغض کے ذریعے تشخص مکمل طور پر احماذ سے تشخص کر کے علاج شروع فرمائیے۔

علاج: درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

697- سپاری پاک

عنایت: جناب حکیم وحید احمد عباسی چکوال۔

ہو الشافی: چکنی سپاری ایک پاؤ شیر گاؤ دو کلو کھی دیسی آدھ کلو گوند کیکر ایک تولہ کھریاشمی ایک تولہ مائین ایک تولہ مسندر سوکھ ایک تولہ لودھ پٹھانی ایک تولہ اسکندنا گوری ڈیڑھ تولہ ست گلو ڈیڑھ تولہ گوکھرو کلاں تین تولہ طباشیر ایک تولہ زیرہ سفید ایک تولہ آملہ ایک تولہ موصلی سفید چار تولہ دیسی چینی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: پہلے چکنی سپاری کو شیر گاؤ میں باریک کر کے ڈال کر خوب پکائیے کہ کھویا بن جائے بعد میں اس کھویا کو دیسی کھی میں بریاں کیجئے پھر تمام ادویات دیگر کو خوب باریک کر لیجئے اور چینی کا توام بنا کر تمام ادویات کو آہستہ آہستہ ملا کر معجون تیار فرما کر نہایت حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ شیر گاؤ روزانہ صبح وشام دیتجئے۔

فائدہ: فی زمانہ اس نسخہ کی بڑی دھوم ہے عورتوں کے امراض رحم میں خصوصاً سیلان الرحم میں بہت ہی مفید الاثر ہے حتی کہ رحم میں طاقت پیدا کر کے استقرار حمل ہو جاتا ہے۔

698- اکسیر لیکوریا

عنایت: جناب حکیم محمد شمس الحق دہلوی دہلی (ہند)۔

ہو الشافی: چکنی سپاری چار تولہ لاکھ پیل نمبر ایک چار تولہ طباشیر دو تولہ کیلک ایسڈ ایک تولہ کشتہ مرجان ایک تولہ کشتہ بیضہ مرغ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح وشام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیتجئے۔

فائدہ: سیلان الرحم کا تریاق ہے جریان منی میں مجرب ہے ایسی عورتیں جن کے چہرے زرد اور مردانی چھائی ہوتی ہو زندگی نہایت بے لطف ہو تو ان کے لئے معجزہ ہے استعمال کیجئے اور ذمے

699- دوائے احسن

عنایت: جناب حکیم محمد مشتاق قادری صاحب جہانیاں ملتان۔
ہوالشافی: سہاگہ بریاں، مازد سوختہ ہر ایک پانچ تولہ، مصطلکی رومی دس تولہ، برادہ ازرائی مدد پانچ تولہ، مردارید ہفتہ ایک تولہ، عنبر اشہب ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر پھر عرق گلاب ملا کر کھل کیجئے اور خوب نخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر بزدیجئے۔

فائدہ: سیلان الرحم میں اکسیر اعظم ہے تیر بے خطا ہے اسکا تیار رہنا ہر مطلب کے لئے ضروری ہے بھوک کی کمی، سیلان الرحم جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، جماع سے نفرت وغیرہ میں لاجواب ہے یہ دوا شباب آور ہے۔

طخرے

- * کشتہ بیضہ مرغ ایک ماشہ صبح، دوپہر، شام ملائی میں رکھ کر دینے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔
- * مٹھی، آملہ برابر وزن دو ماشہ دن میں دو مرتبہ دینے سے ایک ہفتے میں فائدہ ہو جاتا ہے۔
- * قلعی شورہ، جو کھار، ریوند خطائی برابر وزن میں مفید الاثر ہے مقدار خوراک دو دو ماشہ صبح و شام۔

700- تریاق لیکوریا

عنایت: جناب حکیم محمد شمس الحق خان صاحب امرتسر (ہند)۔
ہوالشافی: اتاقیا، مازد مائیں، ست اتار، تخم حمص، برگ گندتا، کشتہ مرجان، کشتہ صدق، کشتہ عقیق، گل دھادا، موجس، کمر گس، موصلی سفید، لاجوتی، تالمکھانہ، تیج، لودہ پٹھانی برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح، تین ماشہ شام ہمراہ شربت بزوری یا صندل سے دیجئے۔
فائدہ: رقت، سرعت، جریان، احتلام، لیکوریا خصوصاً مستورات کے جملہ امراض میں نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

701- سفوف لیکو آف

عنایت: جناب حکیم سید پیر سجاد الملک شاہ صاحب ضلع فیصل آباد۔
ہوالشافی: مغز تمر ہندی، کوئیل ڈھاک، کوئیل کیکر، صندل سفید، مصطلکی رومی، گل سرخ ہر ایک ایک تولہ، نبات سفید چار تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھیں۔
ترکیب استعمال: سات ماشہ صبح، سات ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: سیلان الرحم میں نہایت ہی آزمودہ و مجرب ہے۔

702- حب سلین

عنایت: شفا الہند جناب حکیم جسونت سنگھ صاحب گوجران۔
ہوالشافی: کشتہ مرجان، راج خام ہر ایک ایک تولہ، شیر برگد پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو شیر برگد میں کھل کر لیجئے اور خوب نخودی بنا لیجئے اور ورق پامدی چڑھا دیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ یا شیر بزدیجئے۔
فائدہ: مغلط منی، جریان، سیلان الرحم، سوزاک، حرقت البول، احتلام، ذیابیطس وغیرہ میں مفید الاثر مجرب متعدد مرتبہ ہے بنائے اور فوائد حاصل کیجئے۔

703- کشتہ قلعی سیمابی

عنایت: جناب حکیم رام چندر صاحب کوٹ نجیب اللہ ہزارہ۔
ہوالشافی: قلعی سیمابی برابر وزن آب کٹائی، کلاں سبز بقدر ضرورت، بیٹگن ایک عدد۔
ترکیب تیاری: پہلے قلعی اور سیماب کو چھل بند کر کے ایک روز کامل آب کٹائی کلاں میں کھل کیجئے پھر خوب نخودی بنا کر بیٹگن میں بھر دیجئے اور گل حکمت کر کے بیس کلو اوپلوں کی کامل ہوا سے بچا کر آگ دیجئے سرد ہونے پر دوا نکال کر سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: ایک رتی صبح ایک تولہ مکھن میں پیٹ کر دیجئے۔
فائدہ: رحم کے جملہ امراض کے لئے بے خطا نسخہ ہے لیکوریا اور سوزاک میں مستعمل ہے۔

704- اکسیر سیلان الرحم

عنایت: جناب حکیم محمد جہانگیر صاحب شیخوپورہ لاہور۔
ہوالشافی: گل پستہ، گل سپاری، مولسری، خام، پگھاں، بید، مصطلکی رومی، دانہ الاچھی خورد

708- دوائے سیلان الرحم

عنايت: جناب حکیم صغیر حسین صاحب اجیر شریف (ہند)
ہوالشافی: کشتہ بیضہ مرغ، گل دھارا، مانیں ایک ایک تولہ، سبجراحت گوند ڈھاک موچس
برایک دو تولہ گل ارمنی ایک تولہ کوزہ مصری پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: سات ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر بکری دیجئے۔
فائدہ: جریان الرحم کے لئے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

اختناق الرحم / ہسٹریا / باؤ گولا

(Hysteria)

اختناق الرحم:

اختناق سے مراد گلا گھٹنا ہے چونکہ اس مرض کا تعلق رحم سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اطباء
قدیم و جدید اسے اختناق الرحم کہتے ہیں۔

ہسٹریا:

ہسٹریا ایک یونانی لغت سے ہے اس سے مراد "رحم" ہے کیونکہ اطباء یونانی بھی اسے رحم
کی خرابی وغیرہ سمجھتے اور تسلیم کرتے تھے اسی نسبت سے ڈاکٹری میں اب بھی اس کا نام ہسٹریا
ہے۔

اسباب:

عموماً اس بیماری میں نازک مزاج نازک اندام شہری عورتیں یا لڑکیاں مبتلا ہوتی ہیں
خصوصاً ایسی لڑکیاں جن کو کھانے پینے کام کاج پڑھائی وغیرہ سے بالکل بے فکری ہو اور جوانی
بمروار ہو تو ان شباب کے ایام میں کوئی غیر معمولی صدمہ یا واقعہ ہو جائے تو مزاج بگڑ کر مرض
پیدا کر دیتا ہے۔

عشق محبت کی داستانیں، غم و غصہ، دہشت، ناک جز، ناول افسانہ، قلم وغیرہ وغیرہ جو
برداشت نہ ہو سکیں جنسی خواہشات کی تشنگی، ایام کی خرابی، عیش پرستی، مایوسی، نفسیاتی جذبات شدت

کہر یا شمی ہر ایک دو تولہ ثعلب مصری سات تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح کھانے کے ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: سات دن کے استعمال سے پرانے سے پرانا لیکوریا ہمیشہ کے لئے چلا جاتا ہے نہایت
مجرب عجیب الاثر دوا ہے۔

705- تحفہ نایاب

عنايت: جناب حکیم رحمت علی محلہ انصار پانی پت کرنال (ہند)۔

ہوالشافی: رال سفید، مازو، سیوس اسپغول ہر ایک ایک تولہ، شاہدانہ، جفت بلوط، چھ ماشہ، معری
چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: برائے احتلام تجربہ شدہ سیلان الرحم کے لئے نہایت جید الاثر ہے۔ پندرہ یوم استعمال
سا کریں۔

706- اکسیر سیلانی

عنايت: جناب حکیم خورشید احمد صاحب میاں وٹھ ضلع امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: گل دھارا، موچس، گل فوغل، تمر ہندی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ یا شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: سیلان الرحم میں نہایت اہمیت کی حامل دوا ہے۔

707- اکسیر لیکوریا

عنايت: جناب حکیم سید محمد ابراہیم صاحب انڈین روڈ گیا (ہند)۔

ہوالشافی: مازو، بزمرد، بے سوراخ سات عدد، اژد مسلم پاؤ، پانی ایک کلو۔

ترکیب تیاری: ایک کڑاھی میں اژد کے درمیان مازو رکھ کر پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائے

جب پانی خشک ہو جائے مازو احتیاط سے نکال کر خشک کر کے پورڈر سنبھال کر رکھیے جب کہ اژد

مسلم زمین میں دفن کر دیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی ہمراہ بالائی یا مکھن دیجئے۔

فائدہ: بارہا کا مجرب ہے مایوس حالتوں میں استعمال کروا کر خدمت خلق کیجئے۔ جریان مردانہ

710- دوائے ہسٹریا

عنايت: جناب حکیم سید مقبول شاہ بخاری صاحب راجپوتانہ (ہند)

ہوالشافی: ہینگ تین تولہ نمک سنگ ایک تولہ نمک دریا ایک تولہ زنجبیل ایک تولہ قنفل دراز ایک تولہ نمک سوچل ایک تولہ آب لیموں آدھ گلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب لیموں میں کھرل کیجئے اور محفوظ رکھئے۔

استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ آب تازہ لیجئے۔

فائدہ: اختناق الرحم میں چوٹی کی کمال دوا ہے۔

طغری

* ہیرا سنگ ایک ماشہ کھلانا اور سنگھانا نہایت مفید ہے۔

* عطر گلاب کا شافہ تریاق کا حکم رکھتا ہے۔

* دورہ کی حالت میں امونیا سنگھانا مفید ہے (یعنی جلد ہوش لاتا ہے)۔

711- اکسیر اختناق

عنايت: جناب حکیم میاں سراج الدین صاحب جھنگ۔

ہوالشافی: زعفران، بسباسہ تین تین ماشہ، قنفل دراز، جوزبوا ہر ایک چھ ماشہ اورک ایک تولہ اسگندنا گوری ایک تولہ برگ پان پانچ عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور خوب بقدر دانہ ماش بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی سادہ پانی سے روزانہ دیجئے۔

فائدہ: اختناق الرحم میں نہایت مفید الاثر ہے۔

712- حب ہسٹریا

عنايت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب خان محمد والا بھیرہ۔

ہوالشافی: صبر مغسول دو تولہ، مرکب مصفی دو تولہ، زعفران، ہیرا کیس چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے رتی رتی کی گولیاں بنائیے۔

ترکیب استعمال: دو گولیاں صبح و شام ہمراہ مناسب بدرتہ دیجئے۔

فائدہ: عسر طمث، اختناق الرحم کے لئے مجرب ہے۔

دماغت و جسمانی محنت، عورتوں کا زیادہ عمر کنوارہ رہنا، دائمی قبض، دلخ حکم، مشمت زنی، مشمتیہ انہی سنتایا کرتا، جنسی اشتعال دلانے والی فلمیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ اسباب نوجوان بچیوں کو ہسٹریا میں خوں ناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

علامات:

مرض کی شدت اور محنت کے لحاظ سے علامات کا اظہار ہوتا ہے عموماً مریضہ محسوس کرتی ہے کہ پیڑوں سے ایک گولہ اوپر چڑھ رہا ہے اور حلق میں جا کر انک جاتا ہے جس سے دم گھٹتا ہے اور لے ہوٹی آجاتی ہے معمولی مرض میں غشی برائے نام ہوتی ہے اور مریضہ جلد ہوش میں آجاتی ہے مگر ٹھکن، درد سر اور مایوسی کا شکار نظر آتی ہے مرض کی شدت میں مریضہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ، سانس تیز ہاتھ پاؤں سرد اور دلخ ہوتا ہے ہنسنے اور اوقات مریضہ اپنے سر کے بال نوچتی ہے بدن کے کپڑے پھاڑتی ہے اور دیوار سے سر کھراتی ہے اور ارد گرد کے آدمیوں کو کاٹتی ہے مارتی ہے بار بار گلے کی جانب انگلی کا اشارہ کرتی ہے جب مرض کا زور کم ہوتا ہے تو مریضہ ہانپنے لگتی ہے کچھ دیر بعد علامات کم ہو جاتی ہیں اور مریضہ آرام سے لیٹ جاتی ہے یا تو مریضہ سو جاتی ہے یا پھر خاموش ہو جاتی ہے یہ دورہ چند منٹ سے چھ گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

709- اکسیر ہسٹریا

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن صاحب بستی شیخ جالندھر (ہند)

ہوالشافی: صندل سفید، جدوار، سونف ہر ایک ایک تولہ، افیون چھ ماشہ، ابریشم مقرر ایک تولہ، تخم کاہو دو تولہ، بادرنجبویہ دو تولہ، پوناشیم، برومائید ڈیزہ تولہ، ایسوسیم برومائید ڈیزہ تولہ، برومائید ڈیزہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین ماشہ ہمراہ آب تازہ دیجئے یہ مقدار خوراک دن میں دو مرتبہ دھرائیں۔

فائدہ: جنون، مانچولیا، اوجاع عصبی کے لئے تریاق کامل ہے جب جنون کے لئے کوئی دوا کار نہ ہو تو یہ اکسیر اعظم ہے۔ اختناق الرحم، صرع، مراق کے لئے کامل تحفہ ہے۔

713- دوائے جید

عنایت: حکیم طیبہ جناب گوہر بیگم صاحبہ ویلورا حاطہ مدراس۔
ہوالشافی: ایٹر سلف تین ڈرام، ایٹر کلورل دو ڈرام، پتھر ایسا فائیڈ ایک ڈرام، پتھر ویکریٹ
 اسونی سائی تین ڈرام، برومائیڈ تین ڈرام، پتھر کیمپل ڈیڑھ ڈرام، ایکوا کلور افارم نو ڈرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ملا کر اس کی چھ خوراکیں بنا کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: دورے کے وقت ہر تین گھنٹہ کے بعد ایک خوراک پلائیں۔
فائدہ: احتیاق الرحم میں مفید الاثر ہے۔

714- تریاق اختناق الرحم

عنایت: جناب حکیم منشی محمد یوسف صاحب ڈھولن وال لاہور۔
ہوالشافی: بیگ سہاگہ زنجبیل نمک سو پتھر برابر وزن سہاگنہ کی جڑ کا پانی بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر جنگلی بیر برابر خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: دو گولی ہمراہ آب تازہ دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: امراض شکم کا واحد تیر بہدف علاج ہے ہر قسم کے درد شکم، باؤ گولہ، قراقر، درد معدہ رگی
 درد میں نہایت مفید الاثر ہے۔

احتباس حیض

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
ایام کی تنگی	عسر طمث	حیض کی بندش Dysmenorrhoea

تعریف مرض:

زمانہ حیض کے دوران شدید درد اور حیض برائے نام تنگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔

اسباب:

رحم کی غشا مخاطی میں شدید سوزش اور دم ہو جاتا ہے رحم میں خراش، رحم کا ٹلنا وغیرہ کی
 خون، کسی پرانی بیماری مثلاً بی بی ختازیر، امراض گردہ، پیدائشی کمزوری، جریان خون، بوا سیر خونی، تلی
 کا بڑھ جانا، شدید سردی، جسم کا موٹا ہونا، نصیبتہ الرحم کی سوزش، ایام کے دنوں میں سردی لگنا
 وغیرہ۔

علامات: حیض آنے سے چند یوم پہلے پیڑو میں بوجھ اور کمر میں درد یا شدید کھچاؤ محسوس ہوتا ہے
 یہی سلی بھی ہوتی ہے سوزش رحم کے باعث نمبر پتھر بھی ہو جاتا ہے نیز درد سر کی شکایت رہتی
 ہے۔ پہلے دن خون حیض نہایت کم مقدار میں جب کہ دوسرے دن درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور
 چھ دن تک وقفے سے شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ معمولی خون بھی آتا ہے۔
 رحم میں دانی کی سوزش، کمزوری جگر بوا سیر وغیرہ اگر امراض ہوں تو خود ان امراض کا وجود
 اس کی دلالت کرے گا کسی خون کی حالت میں مریضہ کے جسم کا رنگ پھیکا ہوتا ہے عام کمزوری
 اور سستی لاحق ہوتی ہے نظام انہضام متاثر ہو جاتا ہے چہرہ بے رونق اور چہرے پر بعض اوقات
 سیاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر رحم کا ٹلنا اسباب میں سے ہو تو رحم میں شدید درد ہوتا ہے۔
 اس مرض سے لاپرواہی کے نتیجے میں متعدد امراض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مثلاً
 بانجھ پن، مرگی، ہسٹریا، مائیلو لیا، فالج، تپ محرقہ، فساد خون، غشی، دمہ، بچہ دانی کی سوزش وغیرہ وغیرہ
 ذرا اپنے طبیب سے رابطہ کر لیجئے تاکہ بروقت علاج سے صحت نصیب ہو جائے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

715- اکسیر مدر حیض

عنایت: جناب حکیم وڈاکٹر محمد شیر ساکن پنڈی راجپوتانا ضلع لاہور۔

ہوالشافی: کشتہ فولاد ہیرا ہینگ، زعفران ہر ایک تین ماشہ، صبر ستوطری مصغی، مرکی ہر ایک

ایک تولہ، فرائی سلف تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر شہد کی مدد سے خوب نھودی تیار کر لیجئے
 اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: درد حیض، حیض کی کمی، بندش اور متعلقہ عوارض مثلاً سیلان الرحم، درد رحم، درد کمر، درد سر، نفخ
 شکم، ضعف جگر، اعضاء شکنی وغیرہ چند دنوں میں انشاء اللہ عزوجل سب علامات و شکایات
 دور ہو جاتی ہیں۔ ایام ماہواری صحیح اور کھل کر آنے شروع ہو جاتے ہیں چہرہ بارونق اور سرخ کی
 خون دور ہو جاتا ہے نہایت مفید الاثر دوا کامیاب ہے۔

منید ہے۔
چھوہارے تین عدد قد سیاہ کہنہ ڈھائی تولہ دودھ میں جوش دے کر پینا مفید الاثر ہے۔

719- اکسیر عمر طمٹ

عنايت: جناب حکیم ہرمن لال صاحب بلاک 11 سرگودھا۔

هو الشافى: دارچینی چار تولہ، ایلوہ ایک تولہ، ہیرا کیس دلائی ایک تولہ، شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد کی مدد سے خوب دو دو رتی تیار کر لیجئے اور حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو دو گولیاں صبح و شام ہمراہ چائے دیجئے۔

فائدہ: بندش حیض میں اکسیر ہے باقاعدہ استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے باؤ گولہ اور بے قاعدہ حیض دور ہو جاتی ہے۔

720- سفوف مدرین

عنايت: جناب حکیم عنایت اللہ نقشبندی صاحب جھیلوال امرتسر (ہند)۔

هو الشافى: سنگ یہود جو کھار، قلمی شورہ چھ ماشہ، گیرد تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین تین ماشہ دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: احتباس الطمٹ میں نہایت کامل بھروسہ کا نسخہ ہے۔

721- حب مدرون

عنايت: جناب حکیم عبدالجید صاحب امین پور بازار فیصل آباد۔

هو الشافى: ہیرا ہنگ بریاں، ایلو، ہیرا کیس، مرکی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے خوب دانہ خود تیار فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولیاں گرم پانی سے دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: بندش حیض بے قاعدگی حیض اور ادراہ حیض میں سبحانی نسخہ ہے۔

722- شربت مدر حیض

عنايت: جناب حکیم نذیر الدین صاحب پروفیسر طبیہ کالج دہلی (ہند)۔

هو الشافى: اجوائن ایک تولہ، حلبہ سات تولہ، تخم خیارین چار تولہ، سونف، انیسوں، تخم کرفس، تخم سویا، میٹھ ہر ایک دو تولہ، چینی دو گنا۔

716- مدرین

عنايت: جناب حکیم پیر سید محمد اسلم گیلانی صاحب ہتوکی ضلع لاہور۔

هو الشافى: مہر زرد، ہیرا کیس، زعفران، مرکی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد کی مدد سے خوب خودی تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ صبح و شام ہمراہ عرق بادیان سے دیجئے۔

فائدہ: اعلیٰ درجہ کی مدر حیض دوا ہے بندش حیض اور اس کے متعلقہ تکالیف کو دور کرنے کے لئے لاثانی اور زود الاثر دوا ہے ورم طحال اور ضعف جگر کی خون میں بھی لاثانی دوا ہے۔

717- شربت مدر حیض

عنايت: جناب حکیم محمد اشرف جلالی صاحب فیروز پور (ہند)۔

هو الشافى: تخم مولی، تخم سویا، تخم کاسنی، تخم کاسنی، سونف، تخم کرفس، تخم خربوز، تخم پاک، حب القلت، ہر ایک دو تولہ، پانی تین کلو، چینی تین پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں ڈال کر خوب ابالیں اور بطریقہ معروف شربت تیار فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو تولہ شربت میں ایک ماشہ قلمی شورہ ملا کر دن میں دو وقت استعمال کریں۔

فائدہ: حیض کی بندش کے عوارض میں نہایت مفید الاثر ہے۔

718- جوشاندہ حیض کشا

عنايت: جناب حکیم محمد سردار صاحب راولپنڈی۔

هو الشافى: تخم قرطم، گل سرخ، چھلکا پھلی، الماس، انجیر دلائی، سونے، پرسیاؤشاں، ڈوڈا کپاس، چھلکا، پانی ہر ایک ایک تولہ، قد کہنہ تین تولہ، پانی ایک کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات سے بطریقہ معروف جوشاندہ تیار کر کے محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: آدھا کپ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: درد حیض میں نہایت لاجواب ہے۔

طغری

* مشک بالا دن میں تین دفعہ ایک ایک رتی دودھ میں قد سیاہ کہنہ ملا کر پلا دیجئے نہایت

ترکیب تیاری: تمام ادویات سے بطریقہ معروف شربت تیار فرمائیے۔

ترکیب استعمال: تین تولہ صبح و شام ہمراہ عرق بادیان یا گرم پانی سے پلا دیجئے۔

فائدہ: حیض کو جاری کرنے کے لئے بہترین شربت ہے۔

723- اکسیر حیض

عنايت: ابوالانوار حکیم سید مظفر الدین صاحب ریاست ٹانک

هو الشافی: پوست بیخ مدار، تخم ترب، بادیان، برگ سداب، تخم شبت، تخم گرز، پوست بیخ کاسنی، مکوشک، ہر ایک چار ماشہ، مویز منقہ، نو دانہ پانی ڈیڑھ پاؤ، قد سیاہ کہنہ تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں اچھی طرح جوش دیجئے اور قد سیاہ ڈال کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: یہ ایک خوراک ہے روزانہ صبح نہار منہ پلا دیجئے۔

فائدہ: پندرہ یوم کے استعمال سے بند سے بند حیض کھل کر آجاتا ہے۔

724- اکسیر النساء

عنايت: جناب حکیم بہاری لال صاحب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔

هو الشافی: ریوند خطائی، غازیقون، مصر، مصفی، زعفران، ہیرا ہنگ، مرکی ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے عرق بادیان کی مدد سے خوب بخودی بنا کر حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ عرق سونف دیجئے۔

فائدہ: بند حیض کو کھول دیتا ہے کسی حیض کو دور کرتا ہے نلوں کے درد، کمر درد تمام جسم کے درد جو بندش حیض کی وجہ سے ہوں کو بے حد مفید اور مجرب الجرب ہے۔

725- حب مدر حیض

عنايت: جناب حکیم بشیر احمد صاحب نواں شہر دوآبہ جالندھر (ہند)۔

هو الشافی: مصر چھ ماشہ، زعفران، ریوند خطائی، آستین ہر ایک تین ماشہ، ہیرا کسین دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر پانی کی مدد سے حب بخود بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ عرق گاؤ زبان، عرق کاسنی، عرق سونف

چار چار تولہ لیجئے۔

فائدہ: اورار حیض کے لئے سرفیج الاثر ہے۔

726- دوائے نعمت

عنايت: جناب حکیم کرتار چند صاحب جلال پور جٹاں (ہند)۔

هو الشافی: ہڑتال درقیہ، شکر ف، جانفل، جلوتری، عقر قرھا، دارچینی، لوگ، قنفل دراز، سوئے،

میں تخم حبل، الاچھی کلاں، چاکسو، زعفران ہر ایک تین ماشہ، فیون دو ماشہ، مشک خالص ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے آب خالص میں آٹھ گھنٹہ کھل کر کے

جلی ہر برابر گولیاں بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام چائے سے دیجئے۔

فائدہ: اجہاس طمث، بے قاعدگی، حیض، پرسوت و عقر وغیرہ کے لئے سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ

نسخہ ہے۔

نوٹ: ایام حیض کی بے قاعدگی کیلئے ایام حیض سے آٹھ دن پہلے شروع کرا کر چودہ دن تک

استعمال کیجئے۔

727- اکسیر لاجواب

عنايت: جناب حکیم غلام مرتضیٰ صاحب شریف پور امرتسر (ہند)۔

هو الشافی: مصر زرد ایک تولہ، زعفران، مرکی، دیسی صابن ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے شہد کی مدد سے گولیاں بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین بخودی گولیاں صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: بندش حیض کے لئے نہایت مفید الاثر ہے۔

کثرت طمث اور استحاہ

تعریف مرض:

اگر ماہواری کے دنوں میں حیض بکثرت آئے تو اسے کثرت طمث اور اگر زیادہ دنوں

تک آتا رہے تو اسے استحاہ کہتے ہیں۔

اسباب:

کثرت الدم، رقیق الدم کے باعث رگوں کے منہ کھل جانا، کثرت سودا کے باعث رگوں کا منہ کھلنا، رحم کے عضلات کا ڈھیلا ہونا، کثرت مباشرت، جنزل کمزوری، چوٹ کے باعث کسی رگ کا کٹ جانا، استقاط حمل کی عادت، بچہ دانی میں آنول کا حصہ رہ جانا، بچہ دانی کا کینسر

علامات:

ایام بکثرت آتے ہیں کبھی کبھی کم مقدار میں بار بار آتے ہیں کبھی ایک ہی مرتبہ زیادہ مقدار میں آتے ہیں جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے پیڑ اور کمر میں درد رہتا ہے بھوک نہیں لگتی پاؤں پر ورم آ جاتا ہے کبھی کمزوری سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ کثرت ایام کی حالت میں درد اور کرائی زیادہ ہوتی ہے چہرے اور بدن کی رنگت زرد ہوتی ہے خون کے کثرت اخراج کے باعث کمزوری ہوگی نبض تیز چلتی ہوگی قارورہ کارنگ زردی مائل سرخ ہوگا اعضاء رئیسہ میں کمزوری لازماً ہوگی۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج فرمائیں۔

728- دافع کثرت الدم

عنایت: جناب حکیم محمد اصغر صاحب فتح پور جھنگ۔

هو الشافی: دم الاخوان، طباشیر، گل ارمنی، گلزار فارسی، نشاستہ، گوند کیکر، گوند کتیرا، کشتہ بارہ سنگھا، برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر پورڈر بنا کر محفوظ رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ ہمراہ شربت انجبار اور شربت انار تین تین تولہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: کثرت حیض میں نہایت مفید ہے۔

729- اکسیر کثرت حیض

عنایت: حکیم ٹھاکر رام صاحب احمد آباد (ہند)۔

هو الشافی: بال ناریل سوختہ پانچ تولہ، دانہ الاچھی خورد پانچ تولہ، کشتہ سنگجراحت پانچ تولہ، شہد سہ چند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر شہد میں معجون بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ شیر بکری پانی ملا ہوا دیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل تین خوراک سے کثرت حیض بند ہو جائے گا بھروسہ کی چیز ہے قدر

کیجئے

730- پڑیائے جادو

عنایت: حکیم تیز سنگھ راجپوتانہ (ہند)۔

هو الشافی: سنگجراحت شگفتہ رال سفید، الاچھی خورد، گوند کتیرا، تاج، سمندر سوکھ ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر سفوف بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ ہمراہ شربت صندل یا شربت انجبار دن میں تین مرتبہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: کثرت حیض کے لئے بہترین اثرات کی حامل کامیاب و لائٹنی دوا ہے۔

731- نورانی پورڈر

عنایت: جناب حکیم پیر عبدالخالق مدنی صاحب پٹیالہ (ہند)۔

هو الشافی: سونا کیرو، کہریاشمعی، درخت جامن کا اندرونی چھلکا، برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ بکری کے دودھ کی لسی سے دیجئے۔

فائدہ: کثرت حیض خواہ کتنا ہی شدید اور پرانا کیوں نہ ہو فوراً فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ عزوجل۔

طغرے

* کہریاشمعی ایک ماشہ کی مقدار دن میں تین دفعہ دھریئے کثرت حیض میں جادو کی دوا ہے۔

* شب یمانی بریاں بقدر ایک ماشہ صبح، دوپہر، شام لیجئے یہی فوائد کی حامل دوا ہے۔

* تخم گانجا سوختہ بقدر دورلی دن میں تین مرتبہ دیجئے فوائد میں بے مثال ہے۔

* سنگجراحت شگفتہ اور کمر کس برابر وزن لے کر چار ماشہ کی مقدار بکری کے دودھ کی لسی سے لیجئے۔ تریاق کامل کی حامل ہے۔

732- اکسیر استخاضہ

عنایت: جناب حکیم محمد ظہیر الدین صاحب دہلی (ہند)۔

هو الشافی: تالکھانہ بریاں دو تولہ، کڑاچھال کہریا، آتیں، کیرو، مازو سبز، مائیں، کلاں، لودھ

پہنائی، رسوت سنگجراحت، گوند چبناں، کاکڑا سنگی، ہر ایک ایک تولہ، شکر سفید بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

پس لقمائی فارمولے

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر شیر بڑ کے ساتھ خوب بقدر کنار مرال بنا لیجئے۔
استعمال: ایک گولی دن میں تین بار دودھ کے ساتھ دیجئے۔
فائدہ: چند خوراکیوں سے زیادتی حیض ختم ہو جائے گی بیس سالہ تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ تیس یوم متواتر کھلا دیجئے۔

737- سفوف کرامت

عنایت: جناب حکیم دلی محمد خان صاحب اوگرہ ضلع ہزارہ۔
ہوالہ شافی: گوند کثیر، گوند کیکر، مغز کدو، بیخ انجبار ہر ایک تین تین ماشہ، گل انار، دم الاخوان ہر ایک دو دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر سنجال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: کثرت طمث کے لئے بہت مفید دوا ہے۔

738- اکسیر استحاضہ

عنایت: جناب حکیم بشن داس صاحب سری نگر جموں کشمیر۔
ہوالہ شافی: خرما، رسونت، تالکھانہ، لودھ پٹھانی، برابر وزن، دیسی شکر برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ پورڈر دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت انجبار دیجئے۔
فائدہ: جب حیض زیادہ دنوں تک جاری رہے تو اس کے لئے نہایت مفید دوا ہے بنائے اور استعمال کیجئے۔

739- سیلان الدم

عنایت: حکیم محمد طفیل صاحب ترہائے شکر گڑھ گورداسپور (ہند)۔
ہوالہ شافی: شب یمانی، سرمہ سیاہ، کھتہ سفید، سنگجراحت ہر ایک چار ماشہ، کبریا شمشعی، صدف مرادیدی، اقا قیا ہر ایک ایک تولہ، دم الاخوان، گوند بول، کتیرا سفید ہر ایک آٹھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل غبار بنا کر سنجال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: جسم کے اندر یا باہر سے خواہ کہیں سے خون آرہا ہو مثلاً نکسیر، مٹانہ، پاخانہ، کثرت ایام سب کے لئے مفید لاجواب ہے۔

شام لقمائی فارمولے

ترکیب استعمال: نو ماشہ روزانہ بوقت صبح آب تازہ کے ساتھ دے دیجئے۔
فائدہ: سیلان خون کے لئے بہت مفید ہے چند روز کے استعمال سے پرانی سیلابت دور ہو جاتی ہے۔

733- تریاق کثرت حیض

عنایت: جناب حکیم سید فضل حسین شاہ صاحب مزنگ لاہور۔
ہوالہ شافی: خم ہرمل ایک ماشہ، شکر سفید تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو خوب باریک کر لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ ایک خوراک ہے روزانہ صبح دوپہر شام ایسی تین خوراک ہمراہ لی جئے۔
فائدہ: پہلے دن اگر خون بند نہ ہو تو دوسرے دن ضرور بند ہوگا خواہ کتنے ماہ سے کیوں نہ ہو۔

734- اکسیر طمٹ

عنایت: جناب حکیم پنڈت لچھمداس صاحب سانہ دال لدھیانہ (ہند)۔
ہوالہ شافی: عرق گوگرد (سلفیورک ایسڈ ڈائلوٹ) دس قطرے پانی ایک اونس۔
ترکیب تیاری: دونوں کو آپس میں ملا کر سنجال لیجئے۔
ترکیب استعمال: اس کی چار خوراک بنا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: جاری خون کو فوراً بند کرتا ہے نہایت سریع الاثر سو فیصد کامیاب بے ضرر ہے۔

735- دوائے نسواں

عنایت: حکیم محمد ریاض الدین قریشی صاحب صدر بازار میانوالی۔
ہوالہ شافی: کھتہ سفید، ماجو، سنگجراحت، سپاری، ڈھاک، گوند، دم الاخوان ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے سفوف بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: تین ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ یا شربت انجبار سے دیجئے۔
فائدہ: خون حیض بند کرنے میں اکسیر بے نظیر ہے۔

736- حب حیضی

عنایت: جناب حکیم مولوی گل محمد صاحب بھکڑ میانوالی۔
ہوالہ شافی: جوہر گندھک پانچ تولہ، آرد دار ہلد پانچ تولہ، گوند کتیرا، ست نیم، ست گلو، ہر ایک چھ ماشہ، شیر بڑ بقدر ضرورت۔

740- دوائے طمٹ

عنايت: جناب حکیم مولوی دوست محمد صاحب ہوشیار پور (ہند)۔
ہوالشافی: رال زرد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: نہایت باریک کر کے محفوظ رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح ایک ماشہ دوپہر اور ایک ماشہ شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: چند ایام میں کثرت حیض سے جان چھوٹ جائے گی ہزار بار کا مجرب نسخہ ہے بواہر خوبی میں بھی کارآمد ہے۔

741- اکسیر طمٹ

عنايت: جناب حکیم ڈی اے جمعدار صاحب ہاجیم کلی بیگام (ہند)۔

ہوالشافی: اسکندنا گوری آٹھ تولہ کوزہ مصری سولہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: کثرت طمٹ میں بھروسہ کی دوا ہے آزمائے اور دعائے مدینہ دیجئے۔

742- حب استحاضہ

عنايت: جناب حکیم محمد یاسین صاحب پاٹھڑے حویلی بنارس (ہند)۔

ہوالشافی: لک مغول، کبریا شمع، گل ارمنی، انیون، دم الاخوان، مردارید شاخ، مرجان، اتاقا، کندر برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور خوب جنگل بیر برابر بنا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ شربت انجبار دن میں تین مرتبہ لیجئے۔

فائدہ: نکسیر استحاضہ خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو بواہر خوبی وغیرہ میں جید الاثر دوا ہے۔

743- کشتہ سنگجراح

عنايت: جناب حکیم قادر بخش صاحب ٹرپئی بدھلہ سنت مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالشافی: سنگجراح پانچ تولہ شیر گاؤ چار تولہ۔

ترکیب تیاری: سنگجراح کو شیر گاؤ میں کھل کیجئے اور خشک ہونے پر بیس کلو ادویوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر سنبھال لیجئے۔

www.pdfbooksfree.pk

ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ شربت انجبار سے دیجئے۔
فائدہ: کثرت حیض میں نہایت ہی کامیاب ہے۔

744- سفوف استحاضہ

عنايت: جناب حکیم محمد اشرف علی صاحب بازید خیل شاہجہانپور (ہند)۔

ہوالشافی: خرماختہ، تمر ہندی خستہ، تالمکھانہ، لودھ پٹھانی، چیناں گوند برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: استحاضہ میں نہایت مفید ہے ہزار ہا مرتبہ کا آزمودہ ہے۔

745- اکسیر نفاس

عنايت: جناب حکیم سید علی معطر صاحب سیوہاروی بجنور (ہند)۔

ہوالشافی: تالمکھانہ سنگ جراح، تمر ہندی، آملہ، مقشڑ، ہر ایک ایک تولہ، گلناز، گیرو، ہر ایک چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: حاملہ عورتوں کے جاری شدہ خون کو روکنے میں جید الاثر ہے کثرت نفاس کے لئے بھی نہایت مفید ہے۔

اٹھرا

746- اکسیر اٹھرا

عنايت: جناب حکیم نایک چند صاحب تلہ امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: مغز کول ڈوڈے، لفلقل سیاہ، رسونت مصفی، چاکسو دھما، بوئی، برہم ڈنڈی، منڈی، بوپھلی، مندل سرخ، افتیمون، ہر ایک ایک تولہ، شاہترہ، گل گاؤ زبان، برگ نیم، برگ حنا، پوست ہلیلا، گیرو، بھوگنی، بوئی، ہر ایک نو نو ماشہ، مردارید، ناسفتہ، تین ماشہ، کشتہ مرجان، چھ ماشہ، کشتہ سنگ یشب، چھ ماشہ، شہد خالص بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر کشتہ جات ملا لیجئے اور شہد کی مدد سے خودی خوب تیار کر کے سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: جب عمل ہو جائے روزانہ ایک گولی کھلاتا شروع کر دیجئے اور دو روز
چھوڑانے تک کھائیے۔
فائدہ: جن کے بچے پیدا ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں یا حمل کی حالت میں اسقاط ہو جاتا ہے ان
کے لئے یہ لبوسوفید تجربہ شدہ ہے۔
پرہیز: سرخ مرچ، پیسٹن، گوشت، گرم اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔

بشور رحم

747- مرہم چاندنی

عنايت: جناب حکیم رئیس الدین فریدی صاحب جبل پور۔
ہو الشافی: موم سفید چھ ماشہ روغن گل دو تولہ سفید بیضہ مرغ ایک عدد آب کاسنی تین تولہ
آب کوبہر تین تولہ صندل سرخ سفیدہ کاشغری رسونت ہر ایک تین تین ماشہ کافور ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: پہلے موم کو پگھلا کر روغن گل میں ملا دیجئے پھر سفیدی بیضہ مرغ اور آب ملا کر
دیگر ادویات باریک کر کے مکس کر کے مرہم بنا کر حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ دوا بطور فرزجہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: رحم اور مہبل کی پھنسیوں کے لئے لاجواب مرہم ہے چند یوم کے استعمال سے پھنسیوں
سے نجات مل جاتی ہے۔

خارش رحم

748- اکسیر لاجواب

عنايت: جناب حکیم محمد الدین صاحب نور جمال گجرات۔
ہو الشافی: کافور ایک ماشہ عرق گلاب مناسب مقدار۔
ترکیب تیاری: کافور کو عرق گلاب میں حل کر کے شیشی میں سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: فرج میں لیں۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل چند مرتبہ لگانے سے کلی شفا نصیب ہوگی۔
پرہیز: گرم اور سخت اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

حرقۃ البول نسواں

749- اکسیر اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم اللہ دتہ صاحب بدھلہ سنت عدیۃ الاولیاء ملتان شریف۔
ہو الشافی: سنگ جراحی چودہ ماشہ گل ارمنی دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ ہمراہ آب ساغی دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: زنانہ حرقۃ البول میں نہایت بھروسہ کا نسخہ ہے۔

پرسوت

750- اکسیر پرسوت

عنايت: ڈاکٹر عبدالحمید چغتائی صاحب دہلی دروازہ لاہور۔
ہو الشافی: قرآن مقدس کی سورۃ مریم کی آیت وھدی الیک بجلع النخلہ تقسط
ملیک رطباً جنیباہ لکلی واشربہی وقری عینا فاما ترہن من البشر احد الفقوانی لذات
للرحمن صوما فلن اکلم الیوم لسیاہ
ترجمہ: اور تو کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا کہ وہ تجھ پر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گرائے گی
پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر اگر انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں
نے اپنے رب عزوجل کے لئے روزہ مانا ہے لہذا میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔
ترکیب: قرآن مقدس سے معلوم ہوا کہ دروزہ کے وقت عورت کو چاہئے کہ کھجوریں تناول
فرمائے اور پانی پیئے پھر جب وضع حمل سے فارغ ہو تو بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک
پہنچائے اور ایک دن مکمل خاموشی اختیار کرے اور کسی سے بھی بات چیت ہرگز نہ کرے الحمد للہ
عزوجل یہ ایک عظیم الشان مجرب نسخہ ہے سینکڑوں مرتبہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جو عورت ان باتوں کو
مخوف رکھتی ہے سنت کے مطابق اپنے کام سرانجام دیتی ہے وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے کیونکہ
ہر سنت کے پہلو میں کروڑوں فضائل و فوائد ہیں۔
فائدہ: ایسی عورت رحم کے درد بعد ولادت پرسوت کے بخار اور دیگر امراض زچگی وغیرہ سے
مخوف رہتی ہے لہذا ہر کسی کو چاہئے کہ اپنے شب و روز سنت کے مطابق گزار کر دونوں جہاں کو

حرقۃ البول نسواں

749- اکسیر اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم اللہ رحمۃ صاحب بدھلہ سنت مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔
ہو الشافی: سنگ جراثیم چودہ ماشہ گل ارمنی دو ماشہ۔
ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ ہمراہ آب ساغی دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: زنانہ حرقۃ البول میں نہایت بھروسہ کا نسخہ ہے۔

پرسوت

750- اکسیر پرسوت

عنايت: ڈاکٹر عبدالحمید چغتائی صاحب دہلی دروازہ لاہور۔
ہو الشافی: قرآن مقدس کی سورۃ مریم کی آیت وھدی البک بجدع النخلہ تقسط
 ملیک رطباً جنیہاً فکلی واشربہی وقری عینا فاما ترہن من البشر احد الفقوانی نذات
 للرحمن صوما فلن اکلم الیوم نسیاہ
ترجمہ: اور تو کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا کہ وہ تجھ پر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گرائے گی
 پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر اگر انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں
 نے اپنے رب عزوجل کے لئے روزہ مانا ہے لہذا میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔
ترکیب: قرآن مقدس سے معلوم ہوا کہ دروزہ کے وقت عورت کو چاہئے کہ کھجوریں تناول
 فرمائے اور پانی پیے پھر جب وضع حمل سے فارغ ہو تو بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک
 پہنچائے اور ایک دن مکمل خاموشی اختیار کرے اور کسی سے بھی بات چیت ہرگز نہ کرے الحمد للہ
 عزوجل یہ ایک عظیم الشان مجرب نسخہ ہے سینکڑوں مرتبہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جو عورت ان باتوں کو
 ملحوظ رکھتی ہے سنت کے مطابق اپنے کام سرانجام دیتی ہے وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے کیونکہ
 ہر سنت کے پہلو میں کروڑوں فضائل و فوائد ہیں۔

فائدہ: ایسی عورت رحم کے درد بعد ولادت پرسوت کے بخار اور دیگر امراض زچگی وغیرہ سے
 محفوظ رہتی ہے لہذا ہر کسی کو چاہئے کہ اپنے شب و روز سنت کے مطابق گزار کر دونوں جہاں کا

پنجم لسانی فارمولے
ترکیب استعمال: جب حمل ہو جائے روزانہ ایک گولی کھلاتا شروع کر دیجئے اور دروزہ
 پھوڑانے تک کھائیے۔
فائدہ: جن کے بچے پیدا ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں یا حمل کی حالت میں اسقاط ہو جاتا ہے ان
 کے لئے یہ لیسو سو لیسو تجربہ شدہ ہے۔
پرہیز: سرخ مرچ، پیکن، گوشت، گرم اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔

بثور رحم

747- مرہم چاندنی

عنايت: جناب حکیم رئیس الدین فریدی صاحب جبل پور۔
ہو الشافی: موم سفید چھ ماشہ روغن گل دو تولہ سفید بیضہ مرغ ایک عدد آب کاسنی تین تولہ
 آب کوبز تین تولہ مندل سرخ سفیدہ کاشغری رسونت ہر ایک تین تین ماشہ کافور ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: پہلے موم کو پگھلا کر روغن گل میں ملا دیجئے پھر سفیدی بیضہ مرغ اور آب ملا کر
 دیگر ادویات باریک کر کے کس کر کے مرہم بنا کر حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ دوا بطور فرزجہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: رحم اور مہبل کی پھنسیوں کے لئے لاجواب مرہم ہے چند یوم کے استعمال سے پھنسیوں
 سے نجات مل جاتی ہے۔

خارش رحم

748- اکسیر لاجواب

عنايت: جناب حکیم محمد الدین صاحب نور جمال گجرات۔
ہو الشافی: کافور ایک ماشہ عرق گلاب مناسب مقدار۔
ترکیب تیاری: کافور کو عرق گلاب میں حل کر کے شیشی میں سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: فرج میں لیں۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل چند مرتبہ لگانے سے کلی شفا نصیب ہوگی۔
پرہیز: گرم اور سخت اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

مسقط جنین

بعض اوقات کسی بیماری یا حاملہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جائز ضرورت کے پیش نظر جنین یا حمل کو گرایا جاتا ہے اسلام کے اندر چار ماہ سے پہلے پہلے شری مجبوری کے تحت حمل گرایا جاتا ہے اور اس کی بھی احتیاطیں ہیں بہر حال مزید معلومات کے لئے درالافتاء کے علماء کرام سے رابطہ کیجئے۔ لہذا جائز ضرورت کے پیش نظر یہ لاکھ روپے کا کامل نسخہ ہے قدر کرنے پر ہی آپ کو احساس ہوگا۔

751- اکسیر مانع حمل

عنايت: جناب رشید احمد سنیا سی گیا (ہند)۔
هو الشافى: سرمہ سفید پچاس گرام شیر میش دو سو گرام۔
ترکیب تیاری: سرمہ کو شیر میش میں خوب کھرل کیجئے اور کوزہ گلی میں بند کر کے بیس کو ادپلوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر پھر شیر میش میں کھرل کیجئے اور آگ دیجئے اسی طرح تیسری مرتبہ بھی کیجئے بعدہ کھرل کر کے سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت عورت کے ایام ماہواری ختم ہونے پر ایک رتی روزانہ کھلاتے رہئے۔
فائدہ: نہایت مفید مانع حمل دوا ہے سات یوم متواتر استعمال کرنے سے شرطیہ طور پر ایک سال تک حاملہ نہ ہوگی۔
پرهیز: دوران دوا ملاپ سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔

752- رکاوٹ

عنايت: جناب حکیم مرزہ خلیل الرحمن صاحب حیدرآباد باب الاسلام سندھ۔
هو الشافى: کریر کے تازہ پھول تین تولہ دیسی گھی بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: اس کی سبزی بنا لیجئے یعنی سالن بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایام ماہواری سے فراغت کے بعد روزانہ بلا ناغہ تین دن تک کھلاتے رہئے۔
فائدہ: تین دن کے استعمال سے ایک سال تک حمل میں رکاوٹ رہے گی۔

753- جوشاندہ مسقط

عنايت: جناب حکیم محمد شاہد اکبر نقشبندی صاحب شیخوپورہ لاہور۔
هو الشافى: بڈ اسکند ناگوری سونجھ جربالس سیاہ ہر ایک ایک تولہ ایلو اچھ ماشہ قد سیاہ کہنہ تین تولہ پانی تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو تین پاؤ پانی میں جوش دیجئے اور آدھ حصہ رو جانے پر مل چکان کر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت روزانہ صبح دوپہر شام تین تین تولہ سے پانچ پانچ تولہ پلا دیجئے۔
فائدہ: جنین یا حمل کو گراتا ہے حیض کھول دیتا ہے ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں گیا۔
نوٹ: ہر حال میں خوف خدا عزوجل کو دل میں رکھئے اور صرف جائز ضرورت کے لئے استعمال کیجئے۔

طغرے

* کھینی سیاہ تین رتی ہمراہ شیر گرم دیجئے تسہیل ولادت میں نہایت مفید الاثر ہے۔
* بیخ چہ پشہ بقدر نو ماشہ ہمراہ آب گرم دینے سے بھی یہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔

754- ساقط حمل

عنايت: جناب حکیم شیر محمد صاحب خیر اللہ پور جالندھر (ہند)۔
هو الشافى: لوٹا جی چھ تولہ موٹگ چار تولہ ایلو اچھ تولہ جو کھار چھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک مثل غبار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: سب سے پہلے تین یوم تک متواتر جوشاندہ مسقط 753 پلاتے رہئے بعدہ کسی نیک خاتون دایہ کے ذریعے ایک گرم دوا گولی بنا کر خشک کر کے رحم میں رکھو دیجئے یا پھر کسی سنگ پر لعاب اسپغول کے ذریعے دوا لگا کر خشک کر کے یہ سنگ رحم میں پہنچائیں۔
فائدہ: اوّل پہلے دن ورنہ دوسرے دن حد تیسرے دن تک خون آنا شروع ہو ہی جائے گا نہایت مفید مجرب ہے۔ (تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

عنایت: جناب حکیم عبدالکریم صاحب بزل جہلم۔

هو السافی: سونف رومی انیسوں تخم کرنس پودینہ بہاری مشک طرامشی ہر ایک ایک تونہ
سبل المیب دارچینی مور بلسان قط شیریں تخم بلسان اہبل ہر ایک ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر کنار دشتی برابر خوب بنا لیجئے اور سنبھال کر
حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: جب مباشرت کو دل کرے تو ایک گولی آدھا گھنٹہ پہلے ہمراہ آب تازہ
کھا دیجئے۔

فائدہ: حمل کو روکنے کے لئے تجربہ شدہ دوا ہے بنا لیجئے اور دعائیں دیجئے اور شان طب کے
بارے میں سوچئے کہ ماضی اور حال میں طب کیا کیا خدمات سرانجام دے رہی ہے۔



کان کے امراض

جو اس خفہ ظاہری میں ایک رکن کان بھی ہے جس کا فعل "سننا" ہے یقیناً اللہ عزوجل
کی برکت لاجواب ہے اسی میں سے کان بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر
انسان آدھا رہ جاتا ہے جبکہ جبکہ غلطی کرتا معلومات کی کمی کے ساتھ ساتھ سوزد گداز سے بھی محروم
رہتا ہے۔ کان پہننے کی قوت کا آلہ ہے جو دماغ سے لے کر تیز آواز سن سکتا ہے اور پیغام کو دماغ
تک پہنچا سکتا ہے۔

درد کان (وجع الاذن)

تعریف مرض:

کان کے اندر کسی سبب سے درد ہوتا ہے۔

اسباب:

کان میں کچھ پڑ جانا سردی لگنا کان کی پھنسیاں کسی دانت کا بوسیدہ ہونا کان میں
پانی جمع ہونا وجع الفاصل چوٹ لگنا بعض اوقات کثرت بلغم کے باعث بھی درد کان ہو جاتا
ہے۔

علامات:

درد کان اسباب کی کمی و زیادتی سے کم و بیش ہوتا ہے بعض اوقات درد کی چھین چہرے
پیشانی اور گردن تک محسوس ہوتی ہے کان پر ہاتھ رکھنے سے بھی شدید درد ہوتی ہے درد کے
ہاٹ مریض بیٹھ یا لیٹ نہیں سکتا بہت پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔
تین سال سے اوپر کے مریض درد کان کے متعلق بتا دیتے ہیں جب کہ دو سال سے
پہلے مدنی منے وہ بتا نہیں سکتے اگر بچہ بار بار روئے اور کان کی طرف ہاتھ لے جائے تو اور
کان کو چھیڑنے سے چھین مارنے لگے تو درد کان تصور کر کے علاج کیجئے اور اگر کان سرخ ہو اور
درد دیکھنے سے سرخی مائل پھنسی محسوس کریں تو پھنسیاں درد کان کا باعث ہوں گی۔

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کریں۔

756- روغن گوش

عنايت: جناب حکیم محمد شفیق صاحب سوہاؤہ جہلم۔

هو الشافى: السننیک ایک تولہ سرکہ انگوری پندرہ تولہ روغن بادام پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے سرکہ میں السننیک کو بھگو دیجئے اور جوش دے کر چھان لیجئے پھر روغن بادام داخل کر کے سرکہ کو جلا کر روغن حاصل کر لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو دو قطرے قدرے گرم کر کے کان میں پٹکائیے۔

طغره

کلوروفارم سے روئی تر کر کے چٹی سے پکڑ کر کان کے قریب کر کے چھ سات پھر کان کی طرف ماریں جادو کی مانند اثر ہوگا اور درد کان کافور ہو جائے گا۔

757- گوشمیں

عنايت: جناب حکیم محمد علی نقشبندی مجددی صاحب شاہ گنج حیدرآباد دکن (ہند)۔

هو الشافى: لہسن کی صاف شدہ ڈلیاں بیس عدد روغن کنجد دس تولہ۔

ترکیب تیاری: لہسن کو روغن کنجد میں جلا دیجئے اور روغن فلٹر کر کے سنجال لیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح شام چار چار قطرے نیم گرم کان میں ڈالئے۔

فائدہ: درد کان اور ورم کان میں اکسیر الاثر مجرب ہے۔

پیپ کان / بہرہ پن / ورم کان / زخم کان

پیپ کان، بہرہ پن، ورم کان اور زخم کان وغیرہ وغیرہ گوالگ الگ امراض ہیں اسباب و علامات مختلف ہیں مگر الحمد للہ عزوجل طب میں ایسے لاجواب اور تریاتی نسخہ جات موجود ہیں جو فقط ایک نسخہ متعدد امراض کو صحت میں بدل دیتا ہے اسی کے مصداق دو نسخہ جات پیش خدمت ہیں آپ آزمائیں یا نہ آزمائیں مگر نسخہ جات کی حقیقت مسلمہ ہے۔

درج ذیل نسخہ جات میں سے منتخب فرما کر علاج کریں۔

758- شانی

عنايت: جناب حکیم رحیل داس صاحب ماہڑہ مظفر گڑھ۔

هو الشافى: شہد خالص روغن بادام، گلیسرین ہر ایک تین تین تولہ، امرت دھارا ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پیشی میں ڈال کر سنجال لیجئے۔

ترکیب استعمال: قدرے نیم گرم تین تین قطرے کان میں ڈال دیجئے۔

فائدہ: پیپ درد کان، زخم کان، نعل سماعت، ورم کان وغیرہ وغیرہ میں اکسیر بے نظیر ہے۔

759- امرت گوش

عنايت: جناب حکیم دیوان درگا داس صاحب گوجرانوالہ۔

هو الشافى: مولی خشک دو تولہ، مشک کافور چار ماشہ، رتن جوت چھ ماشہ، قرفل دو ماشہ، روغن نیلی ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: پہلے رتن جوت کو پانچ تولہ پانی میں بھگو دیجئے پھر روغن نیلی میں ڈال کر آگ پر گرم کیجئے اور تمام اشیاء کو ڈال کر خوب پکائیے جب پانی خشک ہو جائے تو فلٹر کر لیجئے اور تک کافور ڈال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین قطرے روزانہ صبح دوپہر، شام نیم گرم کر کے سپرد کان کیجئے۔

فائدہ: درد کان، بہرہ پن، پھنسی، ورم وغیرہ میں اکسیر لاجواب بے مثل و بے مثال ہے۔



مشانہ

(Bladder)

بہت جمع ہوتا رہتا ہے مشانہ عضائی اور عضلی ریشوں سے مرکب ہوتا ہے۔ مشانہ کے سامنے مردوں میں سیدھی آنت ہوتی ہے جب کہ عورتوں میں اندام نہانی اور رحم ہوتا ہے لہذا وہ ہے کہ عورت کو اگر زور سے چھینک آئے یا کھانسی آئے تو پیشاب کے چند قطرے خارج ہو کر کپڑے لپٹا ہوجاتے ہیں۔

عورتوں میں پیشاب کی نالی ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے جب کہ مردوں میں پیشاب کی نالی 2 انچ لمبی ہوتی ہے اور اس میں دو جھکاؤ ہوتے ہیں ایک جھکاؤ کے ذریعے پیشاب جب کہ دوسرے جھکاؤ کے ذریعے منی خارج ہوتی ہے دونوں چیزیں بیک وقت خارج نہیں ہوتیں کیونکہ ایک جھکاؤ سیدھا ہونے پر دوسرا مزید جھک جاتا ہے یعنی پیشاب والا جھکاؤ سیدھا ہو تو پیشاب خارج ہوگا جب کہ منی کے جھکاؤ میں مزید اضافہ ہو کر منی بند ہوجائے گی اور اسی طرح منی کے جھکاؤ میں سیدھا پن آنے سے پیشاب کے جھکاؤ میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے اور منی آسانی سے خارج ہوجاتی ہے۔

مشانہ میں تین سو راج تھوتے ہیں ایک پیشاب کی اخراجی نالی جب کہ دونائیاں حاملین کی مشانہ کی گردن پر ایک غدود لگا ہوتا ہے جو عموماً سکڑا رہتا ہے اور پیشاب کو مشانہ سے ہر وقت خارج نہیں ہونے دیتا جب حاجت ہوتی ہے تو یہ غدود ڈھیلا ہو کر اپنے دباؤ نالی سے ہٹا لیتا ہے جس سے پیشاب آسانی خارج ہوجاتا ہے پیشاب کرنے کے بعد پھر یہ غدود اپنی جگہ پر واپس آجاتا ہے۔ مشانہ جب سکڑتا ہے تو چاروں طرف سے خود بخود ذاتی طور پر سکڑتا ہے اور پیشاب مکمل طور پر خارج ہوجاتا ہے حاملین کے آخری سروں پر مشانہ میں کیواڑیاں لگی ہوتی ہیں جو پیشاب کو واپس ہٹنے سے روکتی ہیں نیز پیشاب گردوں سے آہستہ آہستہ مشانہ میں ہر وقت جمع ہوجاتا ہے جب کہ مشانہ سے ایک بار خارج ہوتا ہے۔

گردے اور مشانے کے امراض

گردے کو عربی میں کلیہ جب کہ ڈاکٹری میں کڈنی کہتے ہیں تعداد میں دو ایک دائیں اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے ہر گردہ گیارہویں پسلی کے نیچے مقام کمر میں پھیلی طرف واقع ہوتا ہے۔ گردوں کی حفاظت کے لئے ان کے ارد گرد زیادہ مقدار میں چربی ہوتی ہے تاکہ ہڈی اور نخیس وغیرہ سے محفوظ رہیں دائیں طرف کا گردہ جگر کے باعث قدرے نیچے ہوتا ہے اور قدرے چوڑا ہوتا ہے جب کہ بائیں طرف کا گردہ لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے اور چوڑائی میں دائیں سے کم ہوتا ہے۔ عموماً گردہ گیارہ سنٹی میٹر لمبا اور تین سنٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے مردوں میں گردے کا اوسط وزن تقریباً 125 گرام سے 170 گرام ہوتا ہے جب کہ عورتوں میں تقریباً 115 سے 155 گرام تک ہوتا ہے ہر گردے کی اگلی سطح محدب اور پھلی سطح چھٹی ہوتی ہے بیرونی کنارہ محدب اور اندرونی کنارہ مقعر ہوتا ہے جس میں ایک کھدانا ہوتا ہے جسے ناف گردہ کہتے ہیں اس راستے سے گردے کی ورید اور شریان اندر اور باہر آتی جاتی ہے نیز اعصاب بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں نیز پیشاب کی نالی بھی اسی راستے سے نکلتی ہے۔ گردے کا اوپر کا سرگول اور سونہ ہوتا ہے اس سے اوپر ایک غدود ہوتا ہے جسے ایڈرنل گینڈ کہتے ہیں جب کہ طبعی زبان میں فوق الکلیہ سے موسوم کرتے ہیں۔

افعال گردہ:

گردے پیشاب پیدا کرتے ہیں خون صاف کرتے ہیں یعنی فضلات خون کو خارج کرتے ہیں لہذا گردے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے کیونکہ ان کے فعل میں کمی بیشی سے فضلات رک جاتے ہیں جس سے خارش، چنبل، دھندل پھوڑے پھنسی، کیل مہاسے، یرقان، منہ کی کثرت، اماں تہوج اور سوجن وغیرہ علامات نمودار ہوتی ہیں۔ ڈبل بارہ گھنٹے میں تقریباً ڈیڑھ کو پیشاب خارج ہوتا ہے۔ گردوں میں خون زیادہ مقدار میں دورہ کرتا ہے کیونکہ ورید گردہ اور شریان گردہ حجم میں بہت بڑی ہوتی ہے پیشاب شریانوں اور وریدوں سے جذب ہو کر خون گردہ میں جمع ہوتا ہے پھر حاملین کے ذریعے مشانہ میں اترتا ہے جب مشانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے تو حاجت ہو کر خارج ہوجاتا ہے۔

درد گردہ

تعریف مرض: کسی سبب کے باعث درد ہوتا ہے۔

اقسام: اس کی دو معروف اقسام ہیں:

(1) **درد گردہ رنجی:** اس میں ریاہ کے باعث تہمت پیدا ہو کر درد گردہ ہوتا ہے۔

(2) **درد گردہ حقیقی:** اس میں پتھریوں یا ریت کے باعث درد گردہ ہوتا ہے اس کا ذکر مناسب جگہ پر ہوگا۔

درد گردہ رنجی

اسباب:

بادی چیزوں کے کثرت استعمال یا شدید سردی سے ریاہ پیدا ہو کر گردہ میں تہمت پیدا ہو کر درد کا باعث بنتا ہے درد قونج اور درد گردہ قریب قریب اور علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں لہذا ان میں تفرق کر لینا نہایت ضروری ہے۔

تفرق درد گردہ اور درد قونج

درد گردہ اپنے خاص مقام پر ہوتا ہے۔ قبض ہونا اس کی خاص علامت سے ہے قارورے میں اگر دیکھا جائے تو جماگ دار ہوگا پیشاب دھندلا دودھیا رنگ کا حال ہوگا جب کہ درد قونج پیٹ میں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کمر کے مہروں کی طرف پہنچتا ہے یہی علامات ہیں۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

760- اکسیر گردہ

جناب حکیم محمد ریاض صاحب ملیسی ملتان۔

پھنکوی سفید پچاس گرام آب مولیٰ ایک کلو۔

تیاری: دونوں کو آگ پر رکھئے جب پھنکوی پھول جائے باریک کر کے سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: تین رتی ہمراہ عرق مرکب یا عرق بادیان سے دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ رنجی میں نہایت ہی لاجواب ہے تڑپتے ہوئے مریض کو ایک ہی خوراک میں آرام آجاتا ہے۔

طخڑے

برگ پتیل سات عدد پانی میں جوش دے کر پلا دیجئے قبض اور ریاہ کے باعث درد گردہ میں مفید الاثر ہے۔

دسی نل ایک ایک رتی صبح و شام پانی سے دیجئے پیشاب نیلے رنگ کا آئے گا درد گردہ ختم ہو جائے گا۔ ضعف گردہ اور درد کمر میں بھی مفید الاثر ہے۔

مغز ریشما ہر ایک گھنٹے بعد دیجئے درد گردہ میں سحر اثر ہے۔

جنگلی کبوتر کی بیٹ کی سفیدی دورتی پانی سے دینا نہایت مفید ہے۔

دانہ فرنگ اصلی چاندی کی انگشتی میں بطور مگینہ بنا کر پہن لیجئے انشاء اللہ عزوجل درد گردہ نہ ہوگا۔

761- حب گردہ

جناب حکیم محمد شہاب الدین صاحب کراچی۔

تیاری: قلمی شورہ دو تولہ ایکسٹریکٹ ہائیو سائکس چھ ماشہ کشتہ حجر الیہود مولیٰ والا ایک تولہ گوگرد جو کھار چھ چھ ماشہ۔

تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے پانی کی مدد سے خوب نخلدی بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: ایک گولی ہر چار گھنٹے بعد ہمراہ مناسب بدرقہ سے دیجئے آٹھ پہر میں پانچ گولیوں سے زیادہ نہ دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ میں بہت مفید ہیں دو تین خوراک میں فائدہ ہو جاتا ہے۔

762- معجون اعظم

336

عنايت: جناب حکیم محمد اعظم صاحب دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: مربہ آملہ پانچ عدد مربہ ہلیلہ چار عدد مربہ بھی دو عدد انجیر زرد پانچ عدد موہن تھوڑے دو تولہ جبر الیہود دو تولہ سنگ سرمائی نو ماشہ زہر مہرہ خطائی پانچ ماشہ منفر ختم قحطی منفر خمر لوزہ منفر خیارین چوب انکور سوختہ منفر کدو گوگرد ہر ایک ایک تولہ کاج ختم مصلیٰ ختم مکھی ختم مکھی ہر ایک سات ماشہ ختم کٹوتہ انیسویں ختم ہلیون ہر ایک پانچ ماشہ ختم کرفس اسارون کوند بیول ہر ایک تین ماشہ منفر چلتوزہ نو ماشہ مصری تیس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر لیجئے اور مصری کا توام تیار کر کے ادویات ڈال کر معجون بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق کدو زبان اور شربت بزرگی ملا کر پیٹھا کر کے دیجئے۔

فائدہ: درد کمر، ضعف معدہ، پتھریوں کو خارج کرنے میں اور درد گردہ میں تیر بہدف ہے۔

763- لعوق کڈنی

عنايت: جناب حکیم کریم بخش جنجوعہ پیرے وال ملتان شریف۔

ہوالشافی: جو کھار، لوٹا، سبھی سہاگہ خام، نوشادر، مرج سیاہ، نمک سیندھا، نمک شیشہ، ہیرا، تلمی شورہ برابر وزن، سرکہ انگوری قدرے مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سرکہ ملا کر لعوق بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ہر پندرہ منٹ بعد تین ماشہ چٹا دیا کیجئے۔

فائدہ: الحمد للہ عذوجل ایک گھنٹے کے اندر اندر ریاحی درد گردہ ختم ہو جاتا ہے نہایت کامل بہرہ کانسہ ہے۔

764- رینل پین آف

عنايت: جناب حکیم محمد حذیفہ قادری بریلی شریف (ہند)

ہوالشافی: نیکہ دو تولہ، گوگرد دو تولہ، کشتہ جبر الیہود تین ماشہ، نمک مولی چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک سفوف بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو ماشہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: یہ دوا پرانے سے پرانے درد گردہ میں اکسیر اعلیٰ ہے، مدتوں کا درد چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔

پس لقمائی فارمولے
دن میں صرف دو مرتبہ دیجئے۔

765- اکسیر درد گردہ

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم صاحب لہ ضلع مظفر گڑھ۔

ہوالشافی: درخت شانہ (گیدڑ واڑ) دو تولہ، روغن زرد دو چھٹاک۔

ترکیب تیاری: گیدڑ واڑ کو گھوٹ کر نکلیے بنا لیجئے اور روغن زرد میں بریاں کر کے اور خوب گھوٹ کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: قدرے نیم گرم تمام دوا پلا دیجئے روزانہ اسی طرح کیجئے۔

فائدہ: درد گردہ رنجی یا پتھری کے باعث ہو البتہ پتھری بڑی نہ ہو اور نہ ہی سدہ کلاں ہو نہایت مجرب الحرجب ہے۔

766- دوائے گردہ

عنايت: جناب حکیم مہتہ دینا ناتھ صاحب موہن جہلم۔

ہوالشافی: پوست ارٹھ تازہ ڈھائی تولہ، پوست بچ پلاہ تازہ دو تولہ، اندر جو شیریں چھ ماشہ، ہیرا بیک چار رتی، تلمی شورہ ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو ایک کلو پانی میں جوش دیجئے جب تین چھٹاک رہ جائے تو اتار لیجئے اور دیگر ادویات باریک کر کے ملا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: مریض کو صبح دوپہر شام ایسی ایک ایک خوراک دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ کیلئے ایک مفید الاثر دوا ہے۔

نوٹ: یہ صرف ایک خوراک ہے۔

پراہیز: دودھ سوڈا ہی دیجئے۔

767- اکسیر معجزہ

عنايت: جناب حکیم بشیر احمد صاحب رہلا نوالی مظفر گڑھ۔

ہوالشافی: تلمی شورہ خالص چار ماشہ، شکر سرخ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: شورہ کو باریک کر کے شکر میں ملا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: حلق سے اترتے ہی درد گردہ غائب ہو جاتا ہے تیر کی جگہ توپ کا کام کرتی ہے ایک اکسیری اور صدری سینے کا رازہ لے جو پشت در پشت چلا آ رہا ہے۔

نوٹ: یہ صرف ایک خوراک ہے۔

برہیز: تھادی و ترش اور دیہم اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

768- کڈنی

عنايت: جناب حکیم رام لعل صاحب سندری فیصل آباد۔
ہوالشافی: رائی تین ماشہ سرکہ انگوری 750 ملی لیٹر۔

ترکیب تیاری: رائی کو سرکہ میں خوب کھل کیجئے جب رائی اچھی طرح کھل ہو جائے۔
ترکیب استعمال: چھ تولہ صبح و شام مریض کو پلا دیجئے۔

فائدہ: چند خوراکیوں سے درد گردہ غائب ہو جائے گا سو فیصد مجرب دوا ہے۔

769- پین گاؤن

عنايت: حکیم ایشر داس صاحب لورالائی بلوچستان۔

ہوالشافی: انیون جو کھار جھوار تین تین ماشہ بادیان سرد چینی، خار خشک ہر ایک چھ ماشہ قلمی شورہ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور عرق سونف میں بخوری حبیب بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہر تین گھنٹے بعد ہمراہ شربت بزوری دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ کی حکمی اور فوری اثر کرنے والی بے مثال دوا ہے مجرب و مفید ہے۔

770- اکسیر درد گردہ

عنايت: جناب حکیم نور عبداللہ خان صاحب کسراں ضلع انک۔

ہوالشافی: قلمی شورہ پانچ تولہ شیرہ برگ بیری دس تولہ۔

ترکیب تیاری: شورہ کو ایک کوزہ گلی میں ڈال کر شیرہ بیری ڈال کر گل حکمت کیجئے اور بھول میں اس انداز سے رکھئے کہ آدھا بھول میں دب جائے چودہ گھنٹے بعد نکال کر جو دوا کوزے کے ارد گردگی ہوئی ہو حاصل کر کے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: دورتی سے ایک ماشہ تک چینی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ ہمراہ شربت بزوری دیجئے۔

فائدہ: نگری پتھری اور درد گردہ میں مفید ہے بے شمار مریضوں کو دی شفا ملی۔ تجربہ شدہ ہے۔

771- دافع درد گردہ

عنايت: جناب حکیم محمد شفیع صاحب کپورتھلہ (ہند)۔

ہوالشافی: جو کھار قلمی شورہ لوٹا بچی سہا کہ خام نوشادر خام مرچ سیاہ نمک سیندھا نمک سبب ہر ایک برابر وزن سرکہ ولاتی بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سرکہ میں لعوق تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ ہر پندرہ منٹ بعد ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: ایسا درد گردہ جو باعث سنگ گردہ ہو اسکو دفع کرنے میں بے نظیر ہے پہلی خوراک ہی جواہر دکھا دیتی ہے۔

772- تریاق درد گردہ

عنايت: جناب حکیم اساتذہ صاحب رن چھوڑ لین کوئٹہ۔

ہوالشافی: گل سرخ، قلمی شورہ بھنگ، گیرو برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ ہمراہ دوغ گاؤ استعمال کیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل درد گردہ کافور ہو جاتا ہے ہمارا معمول مطب نسخہ ہے۔

773- کڈون

عنايت: جناب حکیم سید نصیر علی شاہ صاحب رہنہ سیداں جہلم۔

ہوالشافی: سوڈیم بائیکارب دس تولہ آب حنظل ایک کلو۔

ترکیب تیاری: سوڈیم بائیکارب میں آب حنظل کھل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ ہمراہ عرق بادیان دیجئے۔

فائدہ: پہلی خوراک سے کھل فائدہ نہ ہو تو دوسری خوراک دے دیجئے کھل فائدہ ہوگا اور درد گردہ بھاگ جائے گا قریب بھی نہ بھٹکے گا۔

774- ریٹھا پلڑ

عنايت: جناب حکیم محمد فضل اللہ صاحب گلزار حوض حیدرآباد دکن (ہند)۔

ہوالشافی: پوست ریٹھا اور مغز ریٹھا برابر وزن۔

ترکیب تیاری: پانی کی مدد سے خوب باریک کر کے حبوب بنا لیجئے۔

ریگ گردہ اور پتھری گردہ

(Renal Sand & Stone in the Kidney)

تعریف مرض: بعض اوقات گردہ میں کسی وجہ سے ریگ یا پتھری پیدا ہو کر درد کا باعث بنتی ہے۔

پتھریاں کہاں بنتی ہیں؟
پتھریاں عموماً گردوں میں پیدا ہوتی ہیں اور جب پیدا ہوتی ہیں تو نہایت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کا سائز مشانہ میں بڑھتا ہے۔ ریگ بھی اکثر گردوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں پتھریاں اور ریگ خارج ہو جاتی ہیں جب کہ بعض میں بنتی بھی رہتی ہیں اور خارج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایک دم دونوں گردوں میں پتھریوں کی پیدائش ہوتی ہو پتھریاں کے دانے سے لے کر بیس گرام تک ہوتی ہیں جو پتھریاں زیادہ بڑی ہوتی ہیں وہ مشانہ موہک کے دانے میں اور اگر پیشاب میں باریک باریک ذرات خارج ہوں تو انہیں ریگ گردہ کہتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہوتی ہیں:

اقسام

(1) **فاسفیٹ آف کیلشیم:** یہ پتھری انڈے کی طرح گول زرد رنگ اور نہایت ملائم ہوتی ہے یہ مشانہ میں جمع ہوتی رہتی ہے۔

(2) **اکزالیٹ آف لائٹ:** یہ پتھری کانٹے دار کھردری شکل کی اور وزن میں بھاری ہوتی ہے رنگت سیاہ ہوتی ہے اسے طبی زبان میں سنگ توتی بھی کہتے ہیں یہ ہمیشہ سرجری کے ذریعے نکلتی ہے یہ خبیث پتھری ہے۔

(3) **یورک ایسڈ سٹون:**

یہ اکثر گردوں میں بنتی ہیں کبھی زیادہ مادوں کے مرکب ہونے سے بھی بنتی ہے اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے سائز دانہ خشخاش سے لے کر نارنگی تک ہوتا ہے اسے ادویات سے تحلیل کر

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: فوراً اثر کرے گی درد گردہ کی مجرب الجرب دوا ہے۔

775- حب اطمینان

عنايت: جناب حکیم محمد اسحاق صاحب قاضی پور ڈومیل آزاد کشمیر۔
هو الشافی: 'سنتین' معرہ 'نوشادر' سہا کہ ہر ایک ایک تونہ قنفل دراز پندرہ تونہ الیون پر ماش۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور دو دورتی کی گولیاں بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ہمراہ آب تازہ دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: درد گردہ کی تسلی بخش دوا ہے تڑپتے ہوئے مریض کو سکون عطا کر دیتی ہے۔

776- تریاق گردہ

عنايت: جناب حکیم گو بندرام صاحب قنبر علی خان لاڑکانہ باب الاسلام سندھ۔
هو الشافی: سہا کہ 'نوشادر' مرچ سیاہ 'نمک سیاہ' ہنگ 'جو کھار' مولی کھار 'قلمی شورہ' ہر ایک ہر تونہ سرکہ عمدہ بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک بنا کر سرکہ ملا کر لعوق بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: تین تین ماشہ ہر پندرہ منٹ بعد چٹا دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ میں نہایت مفید تیر بہدف نسخہ ہے ایک ورنہ دوسری خوراک میں شرطیہ آرام ہو جاتا ہے۔

777- جوہر لقمائی

عنايت: جناب حکیم سید محمد صاحب فیروز پور ٹواں شیخوپورہ۔

هو الشافی: نوشادر ایک پاؤ 'ابرک سیاہ' ایک پاؤ 'نمک لاہوری' ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے بطریقہ معروف جوہر اڑا لیجئے اور شیشی میں سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: درد گردہ کے لئے نہایت جید الاثر جوہر ہے صرف ایک خوراک درد کو نابود کر دیتی ہے۔

اعضائے تناسل زنانہ تک محسوس ہوتی ہیں۔

- (2) جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو صرف سامنے ناف کے اردگرد ہوتا ہے پیٹ درد میں پیشاب کے دوران درد نہیں ہوتا۔
- (3) درد کمر شدید نہیں جس طرح درد گردہ ہوتا ہے نیز پیشاب کے دوران درد نہیں ہوتا نیز درد کمر میں درد صرف مقام کمر تک ہی مخصوص ہوتا ہے۔
- (4) درد جگر دائیں جانب مقام جگر پر دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے یا پھر اس کا اثر شدت کی صورت میں دائیں کندھے میں محسوس ہوتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب کر کے علاج کریں۔

778- اکسیر پتھری

عنایت: جناب حکیم رام لعل درمائی صاحب وڑچھ نمک شاہ پور۔

ہوالہ شافی: جو کھار کنگن کھار شب میانی، قلمی شورہ حجر الیہود برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح، دوپہر شام ہمراہ شربت بزوری یا کچی لسی دیجئے۔

فائدہ: سنگ گردہ و مثانہ کے لئے نہایت مفید ہے پتھری کو چند دنوں میں ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتی ہے پیشاب کھل کر آتا ہے۔

پرہیز: کھٹی دیر ہضم اور تیل والی اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

779- اکسیر ریگ

عنایت: جناب حکیم قاضی امید علی صاحب رازش پور باب الاسلام سندھ۔

ہوالہ شافی: سنگ سرمائی ایک تولہ نبات سفید ایک تولہ پوناس کلورس ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح، تین ماشہ شام ہمراہ شربت بزوری استعمال کیجئے۔

فائدہ: ریگ گردہ و مثانہ میں نہایت مفید اور تجربہ شدہ ہے چند دنوں میں فائدہ ہو جاتا ہے۔

780- اکسیر سنگ

عنایت: جناب حکیم محمد حسین سمرہم عیسیٰ صاحب مبارک منزل لاہور۔

ہوالہ شافی: قلمی شورہ آٹھ تولہ جو کھار چار تولہ کشتہ سنگ یہود چار تولہ نمک مولی دو

اسباب: جب جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے اور خون کا زحما ہو جائے یا جب پتھریب کمر پور میں، فالٹس یا اگزائٹ وغیرہ اجزاء زیادہ ہو جاتے ہیں تو گردوں اور مثانے میں پتھریب پیدا ہوتا شروع ہو جاتی ہیں یا ریگ بنا شروع ہو جاتی ہے عموماً ناقص پانی پینے زیادہ میٹھی نفاذ کھانے یا کچی غذائیں کھانے یا جگر و مثانہ یا گردوں کے عوارض سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے زیادہ بادی اور فضل غذائیں بکثرت کھانے اور نظام انہضام کے غیر موثر ہونے سے یہ عوارض پیدا ہوتے ہیں۔

علامات:

جب پتھری گردہ میں ہوتی ہے تو کمر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے جس سے خستہ اور رانوں میں ٹیس پہنچتی ہیں اگر شام کے پیشاب کو بوتل میں بند رکھا جائے تو صبح دیکھنے پر بھورے یا سرخ رنگ کے ذرات یا سفید اجزاء واضح دکھائی دیتے ہیں پیشاب رک رک کر آتا ہے تکلیف ہوتی ہے اگر پتھری پیشاب کے راستے میں رک جائے تو شدید درد ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب میں پیپ یا خون بھی خارج ہوتا ہے کبھی پہلے اور کبھی بعد میں خون یا پیپ اخراج پاتی ہے۔ بعض اوقات پتھری جب گردے میں خراش پیدا کرتی ہے تو اس سے متکی یا تے بھی آتی ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے اگر پتھری مثانہ میں ہو تو سیون اور سپاری میں درد ہوتا ہے پیچھے اس مرض میں پیشاب کر چکنے کے بعد رویا کرتے ہیں اور سپاری کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی طرح جب گردے سے کوئی کنکر مثانہ کی طرف اترتی ہے تو زیادہ شدت کا درد ہوتا ہے اور مریض تڑپتا ہے پیٹ کو دباتا ہے اپنی رانوں کو پیٹ سے لگاتا ہے اور لوٹا پوٹتا ہے۔

گردوں کا درد مردوں میں خصیتین کی طرف اور عورتوں میں زنانہ اعضائے تناسل کی طرف جاتا ہے۔

تفرق الامراض

نوٹ:

درد گردہ کو پیٹ درد جگر اور درد کمر سے تشخیص کرنا نہایت لازمی ہے ورنہ علاج نفعول ہوگا:

- (1) درد گردہ میں خون پیشاب میں شامل ہو کر آتا ہے درد کی ٹیسس مقام گردہ سے شروع ہو کر ران کے اندر تک محسوس ہوتی ہیں یعنی مردوں میں ہتھیں تک جب کہ عورتوں میں

تین تین ماہ تک ایک تولہ ریح مذی خالی سہا کہ لوشادر ہر ایک تین تین ماہ تک ایک

ایک تولہ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک مثل پر دار بنا کر سنبھال لیجئے۔
تذکیب استعمال: ایک ماشہ روزانہ صبح نہار منہ ہمراہ جوشاندہ قلت دیجئے۔
فائدہ: سنگ گردہ و مثانہ میں نہایت کامیاب دوا ہے اس کی کوئی مائی نہیں۔

781- جوشاندہ قلت

عنایت: ہادیان تین تولہ حب الملح چھ تولہ مسکہ کاؤ سات تولہ نمک سیندھا تین ماہ پانی ایک کلو۔
تذکیب تیاری: پہلے ہادیان اور حب الملح کو ایک کلو پانی میں جوش دیجئے پھر چھان کر نمک اور مسکہ ملا کر رکھئے۔
تذکیب استعمال: اکسیر سنگ ایک ماشہ اس جوشاندہ کے ساتھ علی الصبح نہار منہ دیجئے۔
فائدہ: پتھری اور ریک کے لئے لاجواب بدرتہ ہے۔

782- پتھری توڑ

عنایت: جناب حکیم عبدالغنیظ صاحب پروفیسر طبیہ کالج دہلی (ہند)۔
هو الشافی: سنگ یہود پانچ تولہ قلمی شورہ دس تولہ آب مولی تین کلو۔
تذکیب تیاری: ایک کوزہ گلی میں پہلے قلمی شورہ پھر سنگ یہود پھر قلمی شورہ رکھ کر اوپر آب مولی آدھ کلو ڈال دیجئے اور گل حکمت کر کے دس کلو اولیوں میں جمونک دیجئے اور اسی طرح مزید پانچ مرتبہ کیجئے یعنی ہر عمل کل چھ مرتبہ کرنا ہے سرد ہونے پر سنبھال کر محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: چار چاول برابر نمک مولی اور جو کھار ایک ایک رتی ملا کر ہمراہ شربت بزوری دن میں دو مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: چار ریک اور پتھری گردہ و مثانہ کے لئے نہایت مفید ہے اپریشن کی ضرورت نہیں رہتی سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور دعاؤں میں یاد رکھئے۔

783- اکسیر سنگ

عنایت: جناب حکیم قمر الدین صاحب شیش محل پارک لاہور۔
هو الشافی: جنگلی سوئے کے پتے چھ ماشہ نمک لاہور چار رتی، مرچ سیاہ پانچ دانہ پانی آدھ پاؤ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو پانی میں خوب گھوٹیں اور محفوظ رکھئے۔

تذکیب استعمال: نیمہ چھانے سارا پانی پلا دیجئے۔
فائدہ: ایسی چند خوراکیوں سے پتھری ریزہ ہو کر کل جاتی ہے اس سے بہتر علاج پتھری کا اور کوئی نہیں مفید اور لاجواب ہے۔
نوٹ: یہ ایک خوراک ہے۔

784- سفوف پتھری پھوڑی

عنایت: جناب حکیم محمد منیر الدین صدیقی صاحب کھائی گیا (ہند)۔
هو الشافی: قلمی شورہ سنگ یہود سنگ سرمائی جو کھار مولی کھار برابر وزن۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کا پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ شربت بزوری استعمال کیجئے۔
فائدہ: پتھری اور ریک میں معمول مطب ہے۔

785- سٹون کرش

عنایت: جناب حکیم محمد اسحاق شاہ صاحب سامارہ تھر پارک باب السلام سندھ۔
هو الشافی: قلمی شورہ دس تولہ گندھک آملہ سار چھ ماشہ مولی کھار دو تولہ جو کھار دو تولہ۔
تذکیب تیاری: قلمی شورے کو کڑا ہی میں ڈال کر گندھک آملہ سار کی چنگی دیتے جائے ختم ہونے پر زمین پر ڈال دیجئے جم جائے گی پھر تمام ادویات کو باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: چار رتی سے ایک ماشہ تک ہمراہ آب گرم دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: سنگ گردہ و مثانہ میں نہایت کار آمد ہے معمول مطب مجرب نسخہ ہے۔

786- اکسیر سنگ

عنایت: جناب حکیم محمد سردار صاحب فیروز پور (ہند)۔
هو الشافی: قلمی شورہ چار تولہ قفل سیاہ ایک تولہ۔
تذکیب تیاری: گرم توئے پر پہلے کالی مرچ کا پورڈر بچھا دیجئے بعدہ قلمی شورہ کی تہہ لگا دیجئے جب شورہ پھل جائے تو مٹی کے برتن میں الٹ دیجئے تاکہ جم کر سخت ہو جائے پھر پیس کر محفوظ رکھئے۔
تذکیب استعمال: دو ماشہ ہمراہ لسی شیر گاؤ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: دو گھنٹے کے اندر اندر ذرنے وغیرہ بغیر تکلیف کے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائیں گے۔

787- تریاق پتھری

عنايت: جناب حکیم نصر اللہ ریاض صاحب گڑھ لہیل سنگہ ملتان۔
حوالہ: سرکنڈے کے پھول ایک کلو پانی تین کلو۔

ترکیب تیاری: سرکنڈے کو بوائل کیجئے جب آدھا حصہ رہ جائے تو یہ لپے اتار کر چھان کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چمناک جو شانہ روزانہ صبح و شام پلائیے۔
فائدہ: سنگ گردہ کے لئے نہایت کار آمد ہے پیشاب کھولتا ہے پتھری کو تحلیل کرتا ہے۔

788- دوائے افلاطونی

عنايت: جناب حکیم محمد لڈویا صاحب عباس پور آزاد کشمیر۔
حوالہ: پوست ہلیہ پوست ہلیہ آملہ فلفل دراز ہر ایک تین ماشہ گل سرخ چار ماشہ کہرائے شمش چار ماشہ الاچی خورد الاچی کلاں ابریشم ہر ایک چھ ماشہ مروارید دورتی مرجان گل گاؤ زہان ہر ایک دو ماشہ حجر الیہود ڈھالی تولہ عرق گلاب سہ آتش پاؤ شہد خالص پاؤ۔
ترکیب تیاری: پہلے حجر الیہود کو عرق گلاب میں تین دن تک کھول کیجئے اور پھر دیگر تمام ادویات کو نہایت باریک پوسکر شہد ملا کر مہجون کا توام تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: خوراک تین ماشہ دن میں تین وقت ہمراہ آب گرم دیجئے۔
فائدہ: الحمد للہ عذوجل یہ نسخہ سو فیصد کامل اکسیر ہے اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل شامل حال ہو تو یہ دواریت کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ پتھریوں کو توڑ کر خارج کر دے گی جن امراض میں اپریشن کا فیصلہ ہوا تھا یہ نسخہ استعمال کرنے پر اپریشن کی نوبت ہی نہ آئی۔

طغره

* آم کے خشک پتے بقدر چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی دیجئے پچیس دن کے استعمال سے پتھری خارج ہو جائے گی۔

789- اکسیر پتھریں

عنايت: جناب حکیم فضل احمد صاحب بدایونی دہلی (ہند)۔
حوالہ: سنگ یہود پانچ تولہ قلمی شورہ دس تولہ آب لیمون تین کلو۔
ترکیب تیاری: تینوں کو ایک کوزہ میں گل حکمت کر کے پانچ کلو ادپلوں کی آہگ دیجئے آب لیمون آدھ کلو ہر دفعہ ڈالیں سرد ہونے پر نکال لیجئے کل چھ مرتبہ یہ عمل کیجئے اور دوا شیش میں

ترکیب استعمال: ایک رتی دوامیں جو کھار اور مولی کھار ایک ایک رتی ملا کر شربت بزوری سنبھال کر رکھئے۔

فائدہ: نہایت چولی کالسطہ ہے جو پتھریوں کو توڑ کر گردہ و مثانہ کو کیتر کرتا ہے متعدد اطباء کرام کا تصدیق شدہ اور تجرب لسطہ ہے آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے اسی نسخہ کے ہو کر رہ جائیں گے!

790- تریاق گردہ پتھری

عنايت: جناب حکیم محمد احمد صدیقی صاحب راجپوتانہ (ہند)۔
حوالہ: شور کھر ایک کلو مولی ہر ایک شدہ ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو ایک کوزہ میں ڈال کر کھلی جگہ رکھئے دوسرے یا تیسرے روز کھانے کے ارد گرد جو سفیدی نمودار ہو الگ کر لیجئے اسی طرح کرتے جائیں اور یہ دوا محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے ایک ماشہ تک ہمراہ شربت بزوری سے دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عذوجل ایک ہفتہ کے استعمال سے مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا شرطیہ نسخہ ہے۔

791- سنگ گردہ

عنايت: حکیم بڑے میاں سنیا سی گیا شہر (ہند)۔
حوالہ: ایک عدد خرگوش بھنگڑا سفید پاؤ۔

ترکیب تیاری: خرگوش کو ذبح کر کے اس کا چمڑا اتار کر اس چمڑے میں بھنگڑا ڈال کر ایک کوزہ میں بند کر کے پندرہ کلو ادپلوں کی آگ دیجئے اور سرد ہونے پر نکال کر تمام راکھ سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت بزوری دیجئے۔

فائدہ: نہایت ہی زود اثر دوا ہے۔ پتھری کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خارج کرتا ہے۔ مریض جاں بلب کے لئے نوید جانفزا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے۔

ضعف گردہ

دائری نام	عربی نام
Albuminuria	ضعف الکلیہ

تعریف مرض:

اس بیماری میں انسانی خون سے البیومن بذریعہ پیشاب خارج ہوجاتا ہے اسے البیومینوریا یا ضعف گردہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

اسباب:

ورم گردہ بارڈ کثرت مباشرت ایڈٹین کی حامل غذاؤں کا کثرت استعمال، صمغی امراض شدید بخار، امراض قلب و پھیپھڑے مثلاً سل و دق وغیرہ گھوڑ سواری کرنا یا ٹیکسل زیادہ چلانا، ٹھنڈی اشیاء کا کثرت استعمال، پارہ و سکہ وغیرہ کا زہریلا اثر وغیرہ کثرت سودا کا پیدا ہونا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علامات:

البیومن کے کثرت اخراج کے باعث خرابی خون ہوجاتی ہے جسم کمزور رنگ پیکا ہونے، خراب درد سر، چہرہ اداس اور مرجھایا ہوا، بعض اوقات قبض تو کبھی دست کمر میں دھیرا دھیرا پیشاب کا رنگ سفید سرخی مائل اور بار بار آتا ہے، قوت مباشرت میں بھی ضعف پیدا ہوجاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

792- کشتہ ہڑتال درقیہ

عنايت: جناب حکیم بابا اللہ صاحب ساہیوال شہر۔

ہوالشافی: پوست پتیل دو کلو ہڑتال درقیہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پوست پتیل کو سفید راکھ بنا لیجئے پھر ایک کڑاہی میں آدھی راکھ اوپر اور آدھی راکھ نیچے درمیان میں ہڑتال رکھ لیجئے اور چھ گھنٹے نرم آنچ دیجئے پھر سرد ہونے پر کشتہ ہڑتال خاکستری رنگ میں حاصل کیجئے اور کھل کر کے شیشی میں محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک دلی ہاشہ میں یا پان میں رکھ کر روزانہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: ضعف گردہ و مثانہ میں نہایت کارآمد ہے قوت مباشرت پیدا کرتا ہے درد کمر میں مفید ہے تیز امراض بارد میں اکسیر ہے۔

793- اکسیر خشک

عنايت: جناب حکیم محمد نواب صاحب قصور شہر۔

ہوالشافی: گوگرد خشک ایک کلو پانی گوگرد دو کلو سوٹھ دس تولہ۔

ترکیب تیاری: گوگرد کو خوب ہاریک کر لیجئے پھر اس میں گوگرد کا آب ڈال کر خشک کیجئے اور کپڑ چھان کر کے آخر میں سوٹھ پورار ملا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گرم شیریں دیجئے۔

فائدہ: گردہ و مثانہ کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ لوز لاتی ہے نہایت کارآمد دوا ہے۔ بندہ کے مجربات سے ہے۔

طفرے

مغز بادام چھ ماشہ ایک پاؤ گرم دودھ میں ڈال کر پینا مفید ہے۔

ترنجبین دو تولہ عرق گلاب پانچ تولہ میں بھگو کر چھان کر پینا مفید الاثر ہے۔

794- اکسیر مقوی

عنايت: جناب حکیم نس راج صاحب گرمولہ درکان گوجرانوالہ۔

ہوالشافی: دارچینی، بہن سفید، شقائق معری، تاج قلکی ہر ایک دو تولہ، ناگرموتھا، ہانچڑ، ہیلون ہر ایک ایک تولہ، ریگ مائی، عقرز کجنگ ہر ایک تین تولہ، مغز چلغوزہ، مغز پستہ ہر ایک دو تولہ، زعفران ایک تولہ، قند سیاہ ڈیڑھ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو الگ الگ کوٹ لیجئے اور قند سیاہ کا توام تیار کر کے بطریقہ معروف میجون تیار فرما لیجئے۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ روزانہ صبح و شام نہار منہ ہمراہ دودھ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ، ضعف گردہ، درد کمر اور نامردوں کے لئے اکسیر۔

نوٹ: دودھ گرمی اور مرغن غذائیں لیجئے۔

795- نسخہ زور آور

عنايت: جناب حکیم ہمت رائے صاحب مڑل مدینہ الاولیا ملتان شریف۔

ہوالشافی: الاچی کلاں، طہاشیر، موصلی سفید، بہن سفید، ثعلب معری، مغز بادام، مغز پستہ، مغز خیارین، مغز خربوزہ، مغز کدو ستارہ، ہر ایک دو تولہ، سمندر سوکھ، گوند، سھبل، تالکھانہ، تخم ریحان ہر ایک تین تولہ، پوست بنج سنبل چار تولہ، ابریشم محرق سات ماشہ، زعفران کشمیری، جند بیدستر، ست

798- اکسیر مشانہ

عنایت: جناب ڈاکٹر غلام نبی نظامی صاحب جالندھر (ہند)۔

ہو الشافی: کشتہ مکہ ایک تولہ کشتہ بیضہ مرغ چھ ماشہ اسپنول چھلکا تین تولہ کندر دو تولہ روغن لکڑی تین تولہ گوند کیکر مویز منقہ برادہ ناریل ہر ایک چار تولہ کشتہ فولاد چھ ماشہ پیلے گوند کیکر اور منقہ روغن میں چیس لیجئے پھر دیگر ادویات کو ہر ایک کر کے کشتہ ترکیب تیار: پیلے گوند کیکر اور منقہ روغن میں چیس لیجئے پھر دیگر ادویات کو ہر ایک کر کے کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ شیریں نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: یہ دوا کثرت پیشاب رقت اور سرعت میں نہایت مفید ہے مشانہ کو قوت عطا کرتی ہے بول بستر میں شانی اثرات کی حامل ہے۔

799- اکسیر مقوی مشانہ

عنایت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب براڑہ انبالہ (ہند)۔

ہو الشافی: ہلیہ زرد مغز کرنبجہ برابر وزن۔

ترکیب تیار: دونوں کو نہایت باریک مثل غبار بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ سے تین ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: کثرت پیشاب ضعف مشانہ میں نہایت مفید الاثر ہے جسم کی گھٹیوں کو تحلیل کرتا ہے۔

ذیابیطس

(Diabetis)

تعریف مرض:

اس بیماری میں شکر آمیز پیشاب کثرت سے آتا ہے اور شدت کی پیاس لگتی ہے۔ جسم لافراز کمزور ہو جاتا ہے۔

اسباب:

ایسے احباب جو کثرت سے دماغی محنت کرتے ہیں اس بیماری میں جلد گرفتار ہوتے ہیں گرم اشیاء کا کثرت استعمال یا شدید گرم دواؤں کا کثرت استعمال یا جگر کے افعال میں خرابی کے باعث ہوتا ہے اکثر غدد ناقلم کے فعل میں جب تیزی آ جاتی ہے تو بائیں خون سے زیادہ

لوہان کشتہ بیضہ ماکیاں کشتہ کوب الارض کشتہ سنگ یشب ہر ایک چھ ماشہ زعفران کشتہ زعفران کشتہ مرجان کشتہ عقیق کشتہ حبث الحدید کشتہ چاندی ہر ایک تین ماشہ برگ قرکلاں اکسیر عدو بہات رسی دس تولہ۔

ترکیب تیار: تمام ادویات کو الگ الگ نہایت باریک مثل غبار پورڈر بنا لیجئے اور پھر کس کر کے حالت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ سے تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم استعمال کیجئے۔

فائدہ: داغ جریان سرعت انزال رقت منی مسک اور مغلف منی عمر لون ہے چہدے کو ہادق بناتا ہے سرخ و شادابی عطا کرتا ہے ضعف گردہ و مشانہ میں اکسیر صفات کا حامل ہے مہلوق کے لئے آب حیات ہے حرارت عزیز کی پیدا کرتا ہے امراء اور فقراء اور غرباء کیلئے یکساں مفید ہے۔

796- دوائے مشانہ

عنایت: جناب حکیم رام داس صاحب اونہ ہوشیار پور (ہند)۔

ہو الشافی: ست گلو گڑ مار بوٹی مغز جامن ہر ایک ایک تولہ کشتہ فولاد ست سلاجیت زنجبیل ہر ایک دو ماشہ آب گلوبز بقدر مناسب۔

ترکیب تیار: تمام ادویات کو آب گلوبز میں خوب کھل کیجئے اور خوب چنے بھالے بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین حب صبح اور تین حب شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: ضعف مشانہ کے لئے کثرت بول میں مفید ہے شکر کی آمد کو بند کرتی ہے۔ گردہ و مشانہ کو قوت بخشتی ہے۔

797- کشتہ قلعی

عنایت: جناب حکیم پنڈت رام چند صاحب جلال آباد فیروز پور (ہند)۔

ہو الشافی: قلعی ایک تولہ روغن تلخ پاؤ سیماب تین تولہ کمر کس آدھ پاؤ۔

ترکیب تیار: پیلے قلعی کو پھلا کر روغن تلخ میں سرد کیجئے اور پھر سیماب میں چھل بند کر کے کمر کس کا پورڈر بنا کر قلعی اس میں ملفوف کر کے بارہ گلو ادولوں کی آگ دیجئے۔ سرد ہونے پر نکال کر خوب باریک بنائیں لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی مسکہ یا مکھن یا منقہ میں لپیٹ کر صبح و شام دیجئے۔

فائدہ: اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ و مسک و مغلف منی ہے تقویت گردہ و مشانہ اور کمر میں لاجواب دوا ہے۔

800- اکسیر شوگر

عنایت: جناب حکیم محمد شاہد رضا قادری بریلی (ہند)

حوالہ: سندھور تین تولہ پارہ ایک تولہ سم الفار ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: ایک کوزہ لے کر اس میں پہلے ایک تہہ سندھور بچھا کر اوپر سملار ہار ایک شہہ ایل دیجئے پھر پارہ رکھ دیجئے اوپر ہائی آدھا حصہ سملار ہار ایک ڈال کر اوپر ہائی آدھا حصہ سندھور رکھ کر اچھی طرح کوزہ کو گل حکمت کر لیجئے اب ایک گہری کڑا ہی لیجئے اس میں چار انگل تہہ ریت لگا کر اوپر کوزہ رکھ کر اوپر مزید ریت ڈال دیجئے یہاں تک کہ کوزے کے اوپر چار انگل تک مٹی تہہ لگ جائے اب کڑا ہی کو آگ پر رکھئے جب ریت اتنی گرم ہو جائے کہ اس میں دانے بھن جائیں تو آگ بند کر کے سرد ہونے کا انتظار کیجئے سرد ہونے پر ساری دوا نکال کر خوب ہار یک پس لیجئے۔

ترکیب استعمال: صرف ایک چاول مکھن میں رکھ کر کھلا دیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل دو ہفتے کے استعمال سے بد سے بدتر حالت ذیابیطس صحت میں تبدیل ہو جائے گی ایسی دواؤں کے راز بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

801- حب شوگران

عنایت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب ہریانہ پانی پت (ہند)۔

حوالہ: کشتہ بیضہ مرغ (اکاس تیل والا) ایک تولہ انیون ڈھائی تولہ زعفران ڈیڑھ تولہ کستوری خالص ایک ماشہ کونین سلفاس ایک تولہ جوہر ازراقی دورتی ورق نقرہ پچاس عدد ورق طلا پچاس عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک مثل غبار کر کے خوب دانہ موگ تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ سردائی دیجئے۔

فائدہ: یہ ذیابیطس کا لاجواب اور حتمی نسخہ ہے اکثر مریضوں پر استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا ہے۔

802- سفوف شوگر

عنایت: جناب حکیم محمد طالب حسین مہتمم آزاد کشمیر۔

حوالہ: انیون ایک تولہ کشتہ فولاد جامن والا دو تولہ کشتہ بیضہ مرغ دو تولہ جامن خستہ دس تولہ۔

اخراج پاتا ہے جس سے کھائی مٹی غذا یا شوگر یا نشاستہ یا مٹھاس وغیرہ سے بنا ہوا گلوکوز خون میں تحلیل ہو کر ہضم نہیں ہو سکتا بلکہ کپارہ جاتا ہے۔ طبیعت مدیرہ بدن سے فالٹو سمجھتے ہوئے گردن اور مسامات کی راہ خارج کر دیتی ہے یعنی ہائل کی خون میں کمی کے باعث انفیہ وغیرہ کا الہندام متاثر ہو جاتا ہے۔

علامات:

پہلے پہل شوگر کے مریض کو عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے اور معمول سے زیادہ بار بار پیشاب بھی آتا ہے اور رات کو بھی دو یا تین مرتبہ پیشاب آتا ہے صحت دن بدن کمزور ہوتا شروع ہو جاتی ہے مرض بڑھنے کے ساتھ ساتھ علامات میں شدت آ جاتی ہے پیاس میں شدت ہو جاتی ہے منہ خشک رہنے لگتا ہے منہ کا ذائقہ شیریں ہو جاتا ہے سانس میں میٹھی میٹھی بو آنے لگتی ہے بھوک کی شدت ہونے لگتی ہے بار بار کھانا کھانے کے باوجود بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لیجئے قبض ہوتی ہے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا رطوبات کی کمی کے باعث پاخانہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگتے ہیں مگر ہتھیلیاں اور پاؤں کے ٹکڑے جلتے اور گرم ہوتے ہیں رفتار قلب کم ہو جاتی ہے۔ اگر مرض مزید شدت اختیار کر لے تو پیشاب میں دوسے اڑھائی فیصد شوگر بڑھ جاتی ہے اور انتہائی حالتوں میں دس سے بارہ فیصد تک ہو جاتی ہے۔ مریض دن و رات میں سے چھ سے آٹھ کلو سے بھی زائد پیشاب کرتا ہے۔

رات کے پیشاب میں شوگر کم جب کہ دن کے پیشاب میں شوگر کی زیادتی ہوتی ہے پیشاب میں شوگر کے علاوہ یوریا اور فاسفیٹس کا اخراج بھی بڑھ جاتا ہے مردانہ قوت کمزور ہونے لگتی ہے اساک ختم ہو جاتا ہے پیدائش منی میں کمی کے ساتھ ساتھ توام رقیق ہو جاتا ہے اور نامردی دامن گیر ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں حیض بند ہو جاتا ہے موتیا بند یا بیٹائی ناقص بعض اوقات زائل ہو جاتی ہے آخر میں تپق وسل یا نمونیا یا کثرت اسہال یا ذیابیطس تو ما ہو کر انتقال ہو جاتا ہے۔

نوٹ: مریض کو نفسیاتی طور پر پریشانی یا رنج و غم فکر و تردد سے محفوظ رکھئے کیونکہ ان جذبات کے باعث مرض بڑھتا ہے۔

علاج:

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کیجئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: شکر کا آنا مقول اور پیاس و خشکی ریش ہوگی پیٹاب اصلی حالت ہے آجانے کا نہایت
 ست و لقمیرانہ لقمہ ہے اور بے نظیر نمرب ہے۔

806- دوائے ذیابیطس

عنايت: جناب حکیم سید ہادی علی صاحب ہارس (ہند)۔
ہوالشافی: گول مار بولی تین پاؤں سولہ پاؤں سلوف کھلی جان پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو سے تین ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: ذیابیطس کی جملہ علامات کو دور کر کے صحت عطا کرنے کے لئے مفید ہے۔

807- اکسیر ذیابیطس

عنايت: جناب حکیم سرگیاشی لالہ دھارام صاحب پٹالہ (ہند)۔
ہوالشافی: سیماب ایک تولہ گندھک آملہ سار ایک تولہ شیر برمد پانچ تولہ النون پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: پہلے پارہ و گندھک کی کبلی بنا لیجئے پھر دیگر ادویات ملا کر خوب نمردی بنا لیجئے
 اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: صبح و شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر گاؤں دیجئے۔
فائدہ: شکر کا اخراج بند ہو جاتا ہے ذیابیطس میں مفید الاثر دوا ہے۔

808- حب شوگر

عنايت: جناب حکیم احمد عثمانی صاحب الہ آباد (ہند)۔

ہوالشافی: تخم جاسن ایک تولہ النون دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب گریڈ کیجئے اور نمردی خوب تیار کر کے سنبھال کر محفوظ
 رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ زلال مغز پنبہ دانہ ایک تولہ دیجئے۔

فائدہ: پرانے سے پرانا ذیابیطس اس سے دور ہو جاتا ہے نہایت مفید دوا ہے۔

(تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

809- معجون شوگر فری

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم غلام رسول صاحب کالو والی منڈی بہاؤ الدین۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کا پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے ڈیڑھ ماشہ ہمراہ عرق گاؤں زہان دیجئے۔
فائدہ: کثرت پیٹاب اور ذیابیطس میں نہایت مفید ہے۔

803- اکسیر شوگر

عنايت: جناب حکیم محمد شہزاد قادری راجپوتانہ (ہند)۔

ہوالشافی: جاتقل لوگ کسیر دھتورہ ہر ایک ایک تولہ کشتہ فولاد جاسن والا الزحالی تولہ
 ازرائی مدبر ایک تولہ سلاجیت پانچ تولہ آب بھنگ بقدر مناسب۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے آب بھنگ میں گوندھ کر خوب نمردی
 بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ شیر گاؤں دیجئے۔

فائدہ: اس کے استعمال سے جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ذیابیطس کا کرافٹ
 جاتا ہے بعض مریضوں پر حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

804- ڈیابیطس نل

عنايت: جناب حکیم محمد دریام بھی صاحب چک نمبر 228 وہاڑی ملتان۔

ہوالشافی: پوست بھینڑہ پاؤ گندھک آملہ سار پاؤ پانی آدھا کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے پوست کو آدھ کلو پانی میں بھگو دیجئے اسی پانی میں رگڑ کر چھان لیجئے اور
 گندھک آملہ سار اس میں ملا کر خوب کھول کیجئے یہاں تک کہ خشک ہو جائے پھر کپڑ چھان
 کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین سے چھ ماشہ تک صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔

فائدہ: تمام شکایات رفع ہو کر مریض ہمیشہ کے لئے صحت مند اور تندرست و توانا و طاقت ور
 ہو جائے گا ہزاروں نا امید اچھے صحت مند ہو چکے ہیں نہایت اطمینان سے استعمال کروائیے اس
 کے استعمال کرانے سے کار بیکل بغیر اپریشن دور ہو جاتا ہے اطباء اسی آسان نسخہ سے شہرت کی
 بلندیوں کو حاصل کریں۔

805- نسخہ فقیری

عنايت: جناب حکیم فقیر محمد صاحب چھانکامانا جگل چوکی لاہور۔

ہوالشافی: تخم نیلوفر بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تخم سے مغز نکال کر نہایت باریک پورڈر بنا کر سنبھال لیجئے۔

ہوالشافی: آملہ مرہہ دھلا ہوا ایک پاؤ' عرق سونف 750 ملی لیٹر مغز بادام دس تولہ کوند
دس تولہ گل سیاہ' گل سفید' مغز چرغی' مغز ناریل' مغز کدو' مغز پیٹھا' خشکاش ہر ایک دس تولہ کوند
بلوط' اقا قیا' ست گلو' موصلی' گل سرخ' زراوند' خوبان' آملہ خشک' کشنیز خشک' طباشیر دانہ الاہنگی نمونہ
دانہ الاہنگی کلاں' کہرا شمش ہر ایک ایک تولہ مکھک خالص تین ماشہ' زعفران ایک تولہ عرق کوند
ورق طلاہ تین ماشہ' ورق چاندی تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے مرہہ آملہ دھلا ہوا کو عرق سونف میں خوب گھوٹیں اور آگ پر یوٹل کیجئے
پھر تمام مغزیات باریک کردہ ڈال کر پھر دیگر خشک ادویات کا پورڈر ڈال کر اور آخر میں مکھک
زعفران عرق کیڑہ میں کھل کر کے ورق طلاہ و چاندی بھی کھل کر کے اچھی طرح ملا کر مہینے
شوگر فری بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیتے۔
فائدہ: انشاء اللہ عذوجل اس کے کچھ عرصہ تک باقاعدہ استعمال کرنے سے ذیابیطس ہمیشہ بہتر
کے لئے ختم ہو جاتی ہے۔ خاندانی تجربہ شدہ صدی نسخہ ہے' قدر فرمائیے اور شہرت پائیے۔

810- تریاق شوگر

عنایت: جناب حکیم محمد فضل الہی صاحب سیالکوٹ۔

ہوالشافی: سفوف خستہ جامن ایک تولہ' انیون دو ماشہ' کشتہ بیضہ مرغ دو ماشہ' زعفران دو
ماشہ' کشتہ فولاد دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیتے۔

فائدہ: کثرت بول' اور جریان میں اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے حتیٰ کہ ذیابیطس کو کنٹرول کرتا ہے
پیشاب میں شکر کا آنا متوقف ہو جاتا ہے۔ (تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

811- سفوف شوگر

عنایت: جناب حکیم سید فرزند علی فرزند علی والا فیصل آباد۔

ہوالشافی: حشت کہنہ صد سالہ' مازو سبز' نشاستہ' تخم کاہو' گل ارمنی' تخم خرفہ سیاہ' تخم خشکاش
طباشیر' حب آلاس' اقا قیا' صمغ عربی' ست گلو' موصلی' سفید اجوائن' خراسانی' گل سرخ' جفت بلوط
صندل سفید ہر ایک ایک تولہ' کافور چھ ماشہ' کشتہ قلعی' کشتہ صدف ہر ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیتے۔

پس تمہاری فارمولے
فائدہ: ذیابیطس شکر یا غیر شکر دیوں میں مجرب ہے۔

سوزاک

(Gonorrhoea)

تعریف مرض:

اس میں پیشاب کی نالی (نازہ) میں زخم ہو جاتا ہے جس سے پیپ بننے لگتی ہے۔ اکثر
زخم میں درد اور شدید جلن ہوتی ہے۔ مرض کی شدت کے باعث نازہ میں تنگی پیدا ہو کر مرض
میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جرثومہ کو گونوریا کہتے ہیں۔

اسباب:

سوزاک کے اسباب میں پیشاب کی نالی میں رطوبت کا اخراج بند ہونا' کثرت مباشرت'
دوران حیض مباشرت کا فعل سرانجام دینا' گرم و خشک اغذیہ کا کثرت استعمال یا ادویہ گرم شدید کا
کثرت استعمال' اغلام بازی' جلق' تیزابی ادویات و غذاؤں کا کثرت استعمال' زنا کاری اس مرض
کا خاص سبب ہے۔ دوران حمل کی رطوبت مثلاً لیکوریا وغیرہ کے اثر سے بھی سوزاک ہو جاتا
ہے۔ مرد یا عورت کے اندر سوزاک کی مادہ منتقل ہونا اس سے بھی سوزاک پروان چڑھتا ہے۔

شدید گرم اغذیہ مثلاً گرم مصالحہ جات' تیل و ترشی' اچار' چٹنی' شراب خوری' کثرت
گوشت خوری وغیرہ رطوبات کو روک کر پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔

بعض اوقات ریگ مثانہ یا پتھری مثانہ یا کنکریوں کے اٹکنے کے باعث نالی میں سوزش
ہو جاتی ہے۔ کثرت احتلام وغیرہ بازاری عورتوں سے مباشرت وغیرہ سے بھی مرض سوزاک پیدا
ہو جاتا ہے۔

علامات:

مرض لگنے کے تین یا چار دن سے لے کر بعض اوقات آٹھ یا دس دن میں علامات کا
اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں سخت سوجن اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ خراش و
جلن میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ مریض تڑپ اٹھتا ہے۔ پیشاب میں شدید جلن اور سخت
درد ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ سے سرخی مائل زرد پیپ خارج ہونے لگتی ہے۔ پانچ یا چھ دن
میں مرض میں شدت آ جاتی ہے' جلن اور درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پیپ گاڑھی آنے لگتی
ہے۔ بعض اوقات اس قدر جلن ہوتی ہے کہ معمولی کپڑا بھی چھو جائے تو مریض تڑپ اٹھتا ہے۔

814- تریاق سوزاک

عنایت: جناب حکیم سید عبدالقادر شاہ بخاری تونسوی صاحب جی شریف شاہ پور۔
هو الشافی: سکہ ایک تولہ قلعی شورہ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: سکہ کو کڑا ہی میں ڈال کر آگ پر رکھے گرم ہونے پر قلعی شورہ کی چنگی دیتے رہنے اور نیم کی نگرانی سے ہلاتے رہنے جب شورہ ختم ہو جائے تو کڑا ہی اتار کر باریک پس لیجئے اور کپڑے چھان کر کے سنبھال لیجئے۔
استعمال: ایک رتی امراء دودھ کی لسی صبح و شام دیجئے۔
فائدہ: سوزاک نیا ہو یا پرانا دونوں کے لئے نہایت جید الاثر دوا ہے۔

815- تریاق سوزاک

عنایت: جناب حکیم لالہ سری رام صاحب کائیں نور انبالہ (ہند)۔
هو الشافی: چوب چینی ریوند چینی کباب چینی دار چینی دانہ الاچی خورد پھلی کیکر ست سلاجیت ست بروزہ مصلی رومی بورہ مندل سفید قلعی شورہ جو کھار کشتہ قلعی ہر ایک ایک تولہ روغن مندل اعلیٰ درجہ دو تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور روغن مندل میں چوب کر کے سنبھال کر رکھئے۔
استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ شیر تازہ دیجئے۔
فائدہ: سوزاک کے لئے تیر بہدف ہے چند خوراگوں سے پیپ ریشہ بند ہو کر حیش اور درد میں سکون ہو جاتا ہے۔

816- سوکی

عنایت: جناب حکیم گوری لعل صاحب گورا گڑ اندور (ہند)۔
هو الشافی: سلاجیت لوبان سفید پیروزہ سفید موصلی سفید آملہ کشتہ قلعی ہر ایک ایک تولہ نبات سفید پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے دیجئے۔
فائدہ: سوزاک نیا ہو یا پرانا از حد مفید ہے۔

مریض پاؤں پھیلا کر چلا ہے چہرہ پریشان حال ہوتا ہے۔
نوٹ: اگر علاج توجہ سے نہ کیا جائے تو قرعہ پیدا ہو جاتا ہے اور مزن حالت التیار کر جاتا ہے یعنی سوزاکی مادہ خون میں سرایت کر جاتا ہے اور وجود پر پھنسی پھوزے لگنے لگتے ہیں۔

نبض کی ایک حالت:
 اس مرض میں نبض ہاریک اور آری کے دندانوں کی مانند انگلیاں قدرے دہانے سے معلوم ہوتی ہے اور نبض میں سرعت یعنی ہوتی ہے۔ خصوصاً دونوں ہاتھوں کی آخری انگلی پر ہرگز شدید ہوتی ہے۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں سے جو یوز فرما کر علاج کیجئے۔

812- اکسیر سوزاک

عنایت: جناب شفاء الملک حکیم دلبر حسین خان صاحب پشالہ (ہند)۔
هو الشافی: دانہ الاچی کلاں ست پیروزہ کباب چینی طہاشیر کبود ہر ایک ایک تولہ کوزہ معری روغن مندل ہر ایک چار تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور بعد میں روغن مندل ڈال کر سنبھال کر رکھئے۔
استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ خام دیجئے۔
فائدہ: سوزاک میں مفید الاثر دوا ہے۔

813- سوزک

عنایت: جناب شمس الحکماء حکیم شیر محمد صاحب بابا کالہ ضلع فیصل آباد۔
هو الشافی: لوبان کوڈیہ ایک تولہ روغن مندل ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: لوبان کو نہایت باریک کر کے روغن ڈال کر یک جان کر لیجئے۔
استعمال: یہ صرف ایک خوراک ہے ہمراہ شیر گاؤ ایک پاؤ دیجئے۔
فائدہ: پہلی خوراک ہی سے پیپ جلن خارج وغیرہ کو آرام آ جائے گا۔
نوٹ: دوا کھانے کے آدھ گھنٹے بعد آٹھ تولہ گھی گرم کر کے پلا دیجئے اور مزید تین گھنٹے تک پانی نہ دیجئے۔ صرف چار یوم تک روزانہ ایک خوراک دیجئے۔

820- روغن زندگی

عنايت: جناب حکيم ميرال بخش صاحب ڈيره اسماعيل خان۔

هو الشافى: بيروزه ايك پاؤ كافر دس تولہ ريت خالص چھ تولہ شہد دو تولہ توتيا سبز ايك

رہی۔

ترکيب تيارى: سب ادویات کو ملا کر ڈول جنتر کے ذریعے تیل نکال لیجئے اور حفاظت سے

رکھئے۔

ترکيب استعمال: ايك ماشہ عرق بادیان کیساتھ صبح وشام دیجئے۔

فائدہ: جدید و قدیم سوزاک کے لئے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

821- اکسیر سوزاک

عنايت: جناب حکيم احمد علی صاحب نارووال سیالکوٹ۔

هو الشافى: سرب ڈلی ايك تولہ گندھک آملہ سار ايك تولہ۔

ترکيب تيارى: سرپ کو کڑا ہی میں ڈال کر آگ پر رکھئے پکھل جانے پر گندھک باریک

پورڈر بنا کر چمکی دیتے رہئے جب خاک ہو جائے تو تیار ہے۔

ترکيب استعمال: دورتی دوا بیری کے پتے میں لپیٹ کر صبح وشام دے دیجئے۔

فائدہ: نئے و پرانے سوزاک کے لئے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

822- سوزاک آف

عنايت: جناب حکيم و ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانى صاحب غوث پور۔ مدینہ الاولیاء ملتان

شریف۔

هو الشافى: کشتہ سگجراحت کنوار گندل والا جوہر لوبان ست کبابہ ست صندل ہر ايك ايك

تولہ نیلا تھو تھا کافوری چھ ماشہ ست بیروزه دو تولہ۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکيب استعمال: تین رتی سے پانچ رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ لسی خام سے دیجئے۔

فائدہ: اس کی پہلی خوراک ہی سے سوزاک میں فائدہ ہوتا ہوا محسوس کریں گے اس سے بہتر

نسخہ ملنا بہت مشکل ہے لاجواب دوا ہے۔

823- دوائے رحمت

عنايت: حازق الحکماء جناب حکيم خورشید عالم صاحب سرگودھا شہر۔

817- اکسیر سوزاک

عنايت: جناب حکيم مرید سلطان صاحب گولڑہ شریف اسلام آباد۔

هو الشافى: ہلدی خام پانچ کلوز شیر گاؤ سات کلوگرام۔

ترکيب تيارى: ہلدی کو دودھ میں ڈال دیجئے اور یہاں تک رکھئے کہ دودھ خشک ہو جائے پھر

بذریعہ پتال جنتر روغن کشید کیجئے اس روغن کو سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکيب استعمال: دو سے تین بوند صبح وشام ہمراہ دودھ دیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید تجربہ شدہ دوا ہے سوزاک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔

818- دوائے سوزاک

عنايت: جناب حکيم سيد غلام مصطفیٰ شاہ صاحب پوش درگاہ ہیولا۔

هو الشافى: (1) توتیا اخضر چار ماشہ کافور چار ماشہ الاچھی خوردنو ماشہ پلاس پاڑہ کوزہ

ہر ايك نو ماشہ

(2) کشتہ پلاس پاڑہ کباب چینی قلمی شورہ الاچھی خورد ہر ايك ايك تولہ کوزہ مصری چار

تولہ۔

ترکيب تيارى: نمبر 1 ادویات کو ایک بوتل 750 ملی لیٹر میں ڈال کر ایک عمل دن دھوپ میں

رکھئے بعد اس کا زلال سنبھال کر رکھئے۔

نمبر 2 ادویات کو باریک پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکيب استعمال: نمبر 1 ادویات کو بطور پچکاری اٹھیل میں کیجئے۔

نمبر 2 ادویات کو نو ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ شیر گاؤ آب ملا سے دیجئے۔

فائدہ: سوزاک کہنے میں جید الاثر لاجواب دوا ہے سوزش و جلن کے ساتھ ساتھ درد بھی رفع

ہو کر سکون ملتا ہے۔

819- سفوف سین

عنايت: جناب حکيم پنڈت دیوراج صاحب پٹیالہ (ہند)۔

هو الشافى: انبہ ہلدی پانچ تولہ نبات سفید سات تولہ حجر الیہود ايك تولہ۔

ترکيب تيارى: تمام ادویات کو نہایت باریک ٹپیں لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکيب استعمال: چار ماشہ صبح وشام ہمراہ شیر گاؤ آدھ کلو دیجئے۔

فائدہ: یہ پورڈر نیا یا پرانا سوزاک ختم کرنے میں بے حد مفید ہے اور تجربہ شدہ ہے۔

بہن لسانی فارمولے

بہن بیا کر سنجال کر رکھئے۔
تذکرہ استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: سوزاک نیا ہو یا پرانا ہر لحاظ سے مفید ولاجواب دوا ہے۔

827- دوائے سکون

عنایت: جناب حکیم ابوسعید محمد عبداللطیف صاحب کما گراما مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔
هو الشافی: ست بیروزہ، سنبلو جن دانہ اہل خورد دانہ اہل کلاں کباب چینی ہر ایک چھ ماشہ
تذکرہ تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مشل پورڈر بنا کر محفوظ رکھئے۔
تذکرہ استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: نئے اور پرانے دونوں قسم کے سوزاک کے لئے لاجواب دوا ہے۔

828- دوائے سوزاک

عنایت: جناب حکیم خدا بخش عطار صاحب بھوانہ جمگ۔
هو الشافی: (1) گندھک آملہ سار، منسل، صدف صادق، سم القار ہر ایک دو تولہ قلمی شورہ
 چار تولہ چونہ قلمی سولہ تولہ گودہ ستوار گندل بقدر ضرورت۔
 (2) گل ارمنی، رال سفید، کباب چینی، دانہ الاچی خورد دانہ الاچی کلاں، قلمی شورہ، شب میانی
 حققتہ ہر ایک دو تولہ، طہاشیر، گیزو بیروزہ ہر ایک ایک تولہ۔
تذکرہ تیاری: دوا نمبر 1 تمام ادویات کو ایک دن کال گودہ ستوار گندل میں خوب کھل
 کر کے گل حکمت کر کے آٹھ گھنٹہ اداپوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر باریک ٹیس کر شیشی میں
 حفاظت سے رکھئے۔

دوا نمبر 2 تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر سنجال کر رکھئے۔

تذکرہ استعمال: دوا نمبر 1 روزانہ صبح نہار منہ ایک رتی ہمراہ کھن دیجئے۔

دوا نمبر 2 روزانہ شام تین ماشہ ہمراہ لسی خام دیجئے۔

فائدہ: سوزاک کے لئے مجرب اور لاجواب دوا ہے چند دنوں میں ہی سوزاک کو جڑ سے ختم
 کر دیتی ہے۔

829- شب میانی پلڑ

عنایت: جناب حکیم حبیب احمد صاحب، ٹھیکر سہارنپور (ہند)۔

هو الشافی: بھکوی ایک تولہ، قلمی شورہ ایک تولہ، دانہ الاچی خورد ایک تولہ، کوزہ مصری چار

شام لسانی فارمولے

362
هو الشافی: ست گلڑت سلاجیت، ست اسپون، کشتہ قلمی الاچی خورد، پالکمانہ، پکمانہ، پکمانہ
 اصل السوس، مندل سرخ، بہن سرخ، بہن سفید، طہاشیر ہر ایک ایک تولہ، ست بیروزہ سات تولہ
 چینی سفید برابر وزن۔

تذکرہ تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مشل خبار پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

تذکرہ استعمال: نو ماشہ صبح شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں دیجئے۔
فائدہ: جریان احکام، رقت منی، درد کمر، تھکان، سوزاک وغیرہ میں نہایت مفید دوا ہے۔

824- سفوف اعلیٰ

عنایت: جناب حکیم وڈاکٹر نصیر الدین اندرون موچی دروازہ لاہور۔
هو الشافی: زرد چوب چار تولہ، آملہ مقشر چار تولہ، نبات سفید آٹھ تولہ۔
تذکرہ تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک ٹیس لیجئے اور سنجال کر محفوظ رکھئے۔
تذکرہ استعمال: سات ماشہ صبح و شام ہمراہ آب سادہ دیجئے۔
فائدہ: پرانے سوزاک کے لئے اکسیر ہے۔

825- حب سوزو

عنایت: جناب حکیم نذیر احمد صاحب فزیشن طیبہ کالج لاہور۔
هو الشافی: کباب چینی، خم خرد، طہاشیر، الاچی خورد، بیروزہ، سلاجیت، رال سفید، روغن مندل
 برابر وزن۔
تذکرہ تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے روغن ملا کر خوب بخودی تیار کر لیجئے۔
تذکرہ استعمال: ایک گولی صبح دوپہر شام ہمراہ شربت مندل دیجئے۔
فائدہ: معمولی مطلب دوا ہے عرصہ پندرہ سال سے زیر استعمال ہے ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے ہند
 اور پہلے دن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کورس ڈیڑھ ہفتہ۔

826- حب سازو

عنایت: جناب حکیم سید محمود شاہ صاحب گوند پور شمالی ارکات (ہند)۔
هو الشافی: سرد چینی، طہاشیر، قلمی شورہ، زبدۃ الجوز، ہر ایک چھ ماشہ، الاچی خورد، بیروزہ سفید ہر ایک
 ایک تولہ، گندھک آملہ سار، نو ماشہ، سباب، منسل، دو ماشہ، ورق نقرہ، تین ماشہ، بیروزہ، تین تولہ، روغن
 بیروزہ ایک تولہ، روغن مندل سفید ایک تولہ۔
تذکرہ تیاری: پہلے تمام خشک ادویات کو باریک کر لیجئے پھر روغنیاں ملا کر خوب قفل ہو

تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں دواؤں کو کل حکمت کر کے تین کلو اوپلوں میں پھونک دیجئے۔
پہاٹھ پھول جائے گی باریک کر کے دیگر ادویات ڈال کر پورڈر تیار فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ لسی خام دیجئے یا شدت مرض میں دن میں تین

وقت ہمراہ لسی دے دیجئے۔

فائدہ: سوزاک کے لئے لاثانی دوا ہے پہلے دن ہی پیپ ریشہ بند ہو جائے گا اور درد میں

سکون ہو جائے گا۔

830- حب عزیز

عنايت: جناب حکیم غلام حیدر صاحب سکھ دارالاسلام سندھ۔

هو الشافی: مرداسنگ ایک تولہ قد سیاہ کہنہ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو باریک پس کر حب بخودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ مناسب بدرقہ دیجئے۔

فائدہ: سوزاک کے لئے لاجواب دوا ہے۔

831- دوائے سوزن

عنايت: جناب حکیم نواب الدین صاحب رسول پور شیخوپورہ۔

هو الشافی: گندہ بیروزہ مصفی دو تولہ، نخود بریاں ایک تولہ، بچ سنگھا ہولی پانچ تولہ، کنڈ

سکجراحت کاسنج، کھتہ سفید گل ارمنی زیرہ سفید، جو کھار سرد چینی ہر ایک تین ماشہ، رال چو ماڑ

سرمہ سفید ایک تولہ، سنگ سرمائی سات ماشہ، گل درخت سفیدہ سو عدد، قلمی شورہ سمندر سوکھا گند

کتیرا ہر ایک سات ماشہ، روغن مندلی روغن کباب چینی ہر ایک بیس تولہ، روغن گندہ بیروزہ ہر

بوند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور روغنیاں ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت بزوری دیجئے۔

فائدہ: سوزاک قرحہ پیپ کے لئے لاجواب دوا ہے پشت در پشت صدری و خاندانی نسل ہے۔

832- کشتہ نیلا تھوتھا

عنايت: جناب حکیم بشیر احمد صاحب ہائٹی حصار (ہند)۔

هو الشافی: کانورس تولہ، طوطیا سبز دو تولہ۔

ترکیب تیاری: کانور کے درمیان طوطیا رکھ کر کل حکمت کر کے چار کلو اوپلوں کی آگ دیجئے

پس لقمائی فارمولے

سرد ہونے پر باریک کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو چاول ہمراہ لسنکہ صبح و شام دیجئے۔

فائدہ: سوزاک کہنہ کے لئے شریطہ کھکی دوا ہے نیز ہر قسم کی بوا سیر میں شریطہ علاج ہے۔

833- اکسیر سوزاک

عنايت: جناب حکیم قاضی محفوظ الدین صاحب قصبہ سہنہ گورڈ گالوہ۔

هو الشافی: ست بیروزہ دانہ الاپٹی خورد طہاشیر سرد چینی آرد نخود بریاں کھتہ سفید روغن

مندلی سفید ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے روغن ملا کر سنبھال کر حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت بزوری اور شربت مندلی سے دیجئے۔

فائدہ: نئے سوزاک کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

834- تریاق سوزاک

عنايت: جناب حکیم مظفر حسین سری گو بند پورہ جموں و کشمیر۔

هو الشافی: زخم حیات چھ ماشہ، تخم خرپڑہ سات ماشہ، خار خشک سات ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پالی میں سردائی کی طرح گھوٹیں۔

ترکیب استعمال: صبح و شام پلا دیا کریں جب کہ یہ صرف ایک خوراک ہے۔

فائدہ: پیشاب کی جلن، سوزش درد کانور ہو جائے گا سوزاک ختم ہو جائے گا۔ متواتر چار دفعے

استعمال کریں۔

835- اکسیر سوزاک

عنايت: جناب حکیم غلام رسول صاحب ملکوال گجرات۔

هو الشافی: پھلکوی سفید بارہ تولہ، بیروزہ بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو باریک کر کے گل حکمت کر کے رات کو تنور میں رکھئے صبح

کال کر باریک کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ لسی خام دیجئے۔

فائدہ: نئے اور پرانے سوزاک کے لئے مفید دوا ہے قرحہ کے لئے ہمراہ حسیانہ بادام سے

دیجئے گا۔

836- دوائے صندل

عنايت: جناب حکیم محمد یوسف صاحب شگھوئی جہلم۔
هو الشافی: معطل روئی الاچھی خورد پیروزہ شنگ ہر ایک دو تولہ روغن صندل ڈیڑھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہر ایک کر کے روغن ملا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ سے دو ماشہ صبح شام ہمراہ آب تازہ سے دیجئے۔
فائدہ: سوزاک ہر قسم میں مفید الاثر دوا ہے۔

837- دافع سوزاک

عنايت: جناب حکیم پیارے لال صاحب اگر وال سیالکوٹ۔
هو الشافی: سبجراحت اڑھائی تولہ شب یمانی شگفتہ بیس تولہ کیر و اٹھارہ ماشہ سندھو مرادھا۔
ترکیب تیاری: پہلے سنگ جراثحت کو گل مدار میں گل حکمت کر کے پندرہ کلو اونپوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر دیگر ادویات ڈال کر کھل کیجئے اور مثل غبار تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چار رتی صبح و شام کھن یا ملائی میں پیٹ کر دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل قرحہ چند روز میں مدل ہو جائے گا پیپ وغیرہ ختم ہو کر سوزاک کا نام نشان تک نہ رہے گا سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

838- شورہ پلڑ

عنايت: جناب حکیم تھو لال صاحب ہری بھون لودھیانہ۔
هو الشافی: دانہ الاچھی کلاں قلمی شورہ برابر وزن۔
ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ آب خالص دیجئے۔
فائدہ: سوزاک کے تمام نسخہ جات کا سر تاج نسخہ ہے۔

839- دوائے خاص برائے سوزاک

عنايت: جناب حکیم سالک رام صاحب پونڈری کرنال (ہند)۔
هو الشافی: ست پیروزہ دو تولہ کھتہ سفید دو تولہ سہاگہ شگفتہ تین ماشہ معطل روئی ایک ڈل

کاسخ ایک تولہ طہاشیر ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کا ہر ایک پورڈر بنا کر حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت نیلو فر دیجئے۔
فائدہ: سوزاک جدید میں مفید دوا ہے۔

840- دوائے سازون

عنايت: جناب حکیم زکی الدین صاحب ویلور شمالی ارکاٹ۔
هو الشافی: خرمبرہ سوختہ ہزار دانہ سنگ جراثحت پیروزہ موم سفید ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت قالہ دیجئے۔
فائدہ: سوزاک نیا ہو یا پرانا اعلیٰ درجہ کا اکسیری زور دار نسخہ ہے قرحہ کو ختم کرتا ہے۔

841- سوزاکولین

عنايت: جناب حکیم ندیم اختر صاحب اوکاڑہ چھاؤنی۔
هو الشافی: لوبان کوڈیہ دو تولہ پھلی کیکر خام ایک تولہ روغن صندل بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور روغن سے خوب بخودی بنا کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ لسی خام یا شربت نیلو فر دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل سوزاک کا مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔

842- سفوف آرام

عنايت: جناب حکیم محمد سلیم صاحب میر پور آزاد کشمیر۔
هو الشافی: کانور دیسی سنگ جراثحت ریوند چینی قلمی شورہ طہاشیر شب یمانی شگفتہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح ایک ماشہ شام ہمراہ دودھ کی لسی یا شربت بزوری سے استعمال کیجئے۔

فائدہ: دوا کے چند دنوں کے استعمال سے سوزاک جڑ سے ختم ہو جاتا ہے پہلے دن ہی پیپ اور درد بند ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے مریض آرام محسوس کرتا ہے بڑی پایا کی دوا ہے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین گولی صبح، دوپہر، شام ہمراہ لسی خام دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کا سوزاک ختم ہو جائے گا۔

846- دوائے سنپاسی

عنایت: جناب حکیم گردناتھ سنگھ سنپاسی الہ آباد (ہند)۔
ہوالشافی: سینک گائے سینک بھینس ہر ایک دس تولہ روئی سنجل بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو روئی سنجل میں پیٹ کر روغن سرسوں میں تر کر کے آگ لگا کر راکھ کو باریک پیس کر سرمہ بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: دونوں آنکھوں میں ایک یا تین تین سلائی لگائے۔
فائدہ: انشاء اللہ عزوجل ایک ہفتہ کے استعمال سے سوزاک پرانا ہو یا نیا ہمیشہ کے لئے دم دبا کر بھاگ جائے گا۔

سلسل البول / بے ارادہ پیشاب نکل جانا

(Incontinence of Urine)

تعریف مرض:

اس بیماری میں مثانہ میں پیشاب روکنے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔

اسباب:

پیشاب کے بلا ارادہ خارج ہونے کے اسباب میں کمزوری مثانہ یا خراش مثانہ مثانہ کا ڈھیلا ہو جانا، جنرل کمزوری یا فالج ہوتا ہے بچوں میں پیٹ کے کیڑے کا نچ نکلتا وغیرہ بھی اسباب ہیں عموماً زیادہ عمر والے احباب کو یہ عارضہ ہوتا ہے ذیابیطس اور مزاج کا سرد ہونا یا سخت سردی کے موسم میں بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔

علامات:

پیشاب بلا ارادہ قطرہ قطرہ خارج ہوتا رہتا ہے مریض سویا ہوا ہو یا جاگ رہا ہو پیشاب جتنا گردوں سے آتا ہے اتنا ہی خارج ہو جاتا ہے بس مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کیڑے بھیگ رہے ہیں۔

843- سازولین

عنایت: جناب حکیم محمد مرزبان نقشبندی پٹیالہ (ہند)۔
ہوالشافی: طاہر پانچ تولہ دانہ الاچی خورد پانچ تولہ کتیرا دو تولہ موسلی سفید چھ تولہ کزک خشک چھ تولہ دم الاخوین دو تولہ گل ارمنی دو تولہ رب السوس گل محتوم گل انار کا پانچ تولہ مغز چہار زریعہ چینی ہر ایک دو تولہ لوبان سفید سلاجیت ست بروزہ کشتہ کلعی در بھنگ ہر ایک دو تولہ روغن مندل خالص بارہ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل غبار پورڈر بنا لیجئے آخر میں روغن مندل اور کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال: چار ماش صبح و شام ہمراہ شربت مندل یا شربت بزروری دیجئے۔
فائدہ: پرانے سے پرانا سوزاک اور زخم وغیرہ کو چند یوم میں نیست و نابود کر دے گا بے شمار لاٹانی دوا ہے تجربہ کر کے رب عزوجل کی عنایات کا مظہر ملاحظہ فرمائیے۔

844- دوائے سوزاکی

عنایت: جناب حکیم کرم داد خان پشاور شہر۔
ہوالشافی: سرمہ سفید دو تولہ سنگ جراحی دو تولہ سنگ یہود ایک تولہ رس کھیکھو اور دس تولہ رس ہرن کھری دس تولہ بھائل دس تولہ کھیکھو اور میں کھل کر کے نکیہ بنا کر کوزہ میں بند کر کے حکمت کر لیجئے پھر دس کلو ادپلوں کی آگ دیجئے پھر اسی طرح آب ہری کھری میں کھل کر آگ دیجئے پھر اسی طرح آب بھائل بوئی دس تولہ میں کھل کر کے گل حکمت کر کے دس ادپلوں کی آگ دیجئے نہایت نفس دوا برآمد ہوگی پیسکر سنجال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی سے دورتی ہمراہ لسی خام سے دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: سوزاک، قرح سوزاک، سگریزہ، مثانہ و گردہ میں اعلیٰ درجہ کی بے مثال دوا ہے۔

845- کھتہ پلڑ

عنایت: جناب حکیم محمد طاہر صاحب ساہیوال۔
ہوالشافی: کھتہ سفید ایک تولہ پوست ریٹھا ایک تولہ خار خشک ایک تولہ زیرہ سفید ایک کشتہ صدف ایک تولہ آب کیلا ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب کیلا میں خوب کھل کیجئے یہاں تک کہ آب کھل جائے۔

درج ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کریں۔

847- دوائے ازراقی

عنايت: مسیح الملک جناب حکیم شمس الدین صاحب جو کنانوالی کجرات۔
هو الشافی: ازراقی مدبر گولہ مغز نیم ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے نخودی خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: مقوی ہاضمہ، سلسلہ البول، بواسیر، رگی وغیرہ میں مفید الاثر دوا ہے۔

848- حب شالی

عنايت: جناب حکیم زبیر احمد صاحب بکھروی شاہ پور۔

هو الشافی: قنفل سیاہ دو ماشہ، زنجبیل تین ماشہ، کندر مسد کونی، جفت بلوط، قسط شیریں، سنبل
روئی، قنفل دراز ہر ایک پانچ ماشہ، شہد خالص سات ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد میں ملا کر جنوب بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح، شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: سلسلہ البول، قبض، گیس وغیرہ میں مفید ہے۔

849- سفوف درباری

عنايت: جناب حکیم رام لعل صاحب شاہ پور۔

هو الشافی: تل سفید پانچ تولہ سفید سپاری، خولجاں، سیوس اسپغول ہر ایک اڑھائی تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: زیادتی پیشاب اور سلسلہ البول کے مریضوں کے لئے خصوصیت سے فائدہ مند ہے۔

850- اکسیر مقدم

عنايت: جناب حکیم محفوظ عالم قریشی صاحب کولور شاہ آباد۔

هو الشافی: گلزار فارسی، مصطلکی روئی، طباشیر ہر ایک تین تولہ، ثعلب مصری، تخم خشکاش، زنجبیل
کندر، جفت بلوط ہر ایک چار تولہ، شکر سفید برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: سرعت انزال، کثرت البول، سلسلہ البول میں میزائل بہدف ہے

851- اکسیر سلسلہ البول

عنايت: جناب حکیم امام الدین صاحب کپورتھلہ (ہند)۔

هو الشافی: کانور دو تولہ، طباشیر ایک تولہ، شکر ف روئی ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور پانی کی مدد سے نخودی گولیاں تیار
کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: جو مریض ضبط پیشاب کی ہمت نہیں رکھتا اس کے لئے ایک نعمت نسخہ ہے جو سلسلہ البول
کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔

852- جامع النفع

عنايت: جناب حکیم شیخ غلام رسول صاحب گولڑہ شریف اسلام آباد۔

هو الشافی: گڑ پرانا دس تولہ، روغن گاؤ دس تولہ، سفوف ڈیلا دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے دونوں جزو کو آگ پر رکھ کر پت پکا لیجئے پھر پورڈر ڈال کر خوب ملا لیں
اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات سوتے وقت دو تولہ کھالیا کیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل تین دن کے استعمال سے سلسلہ البول کا خاتمہ ہو جائے گا کئی مریضوں
پر تجربہ شدہ ہے۔

853- حب مثانہ

عنايت: جناب حکیم رنجیت سنگھ مظفر نگر بازار نواب شاہ۔

هو الشافی: گندھک آملہ سار ایک تولہ، پارہ ایک تولہ، کھتہ سفید چھ ماشہ، قنفل چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے گندھک و پارہ کی بجلی تیار کر لیجئے پھر دیگر ادویات باریک کر کے ملا لیجئے
پھر زردی بیضہ سے خوب ایک رتی برابر بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی رات سوتے وقت تازہ پانی سے دیجئے۔

فائدہ: سلسلہ البول اور تقطیر البول کے لئے نہایت فائدہ مند ہے۔

نسخہ نمبر 793 ملاحظہ فرمائیے۔

854- معجون ماسک البول

عنايت: جناب حکيم محمد ارشاد صاحب لال حويلی راولپنڈی۔

هو الشافي: ہليلہ سیاہ، پوست ہليلہ کالی (بریاں روغن گاؤں) کھتہ سفید ہر ایک نو تولہ ہنز بلوط دو تولہ کنڈر دو تولہ ثعلب مصری ساڑھے چار تولہ کبریا شمی چھ تولہ حب آلاس سولہ تولہ مویز منقی اکیس تولہ عرق گلاب بقدر مناسب کشتہ بیضہ مرغ دو تولہ۔

ترکيب تياری: تمام خشک ادویات کو باریک پورڈر بنا لیجئے پھر عرق گلاب میں گوند کر بلورہ معروف معجون تیار کر لیجئے۔

ترکيب استعمال: سات ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت صندل کے ہمراہ دیجئے۔

فائدہ: بستر پر پیشاب نکل جانا، قطرہ قطرہ آنا، بلا ارادہ آنا، سلسل البول، منی سیلان و ذی سیلان کے لئے نہایت مفید ہے۔

بول الدم / خونی پیشاب

(Haematuria)

تعريف مرض:

اس بیماری میں پیشاب میں خون آتا ہے کبھی بجائے پیشاب کے خالص خون بھی آتا ہے۔

اسباب:

بعض اوقات گردوں میں پتھریوں کے باعث زخم ہو کر خون آنے لگتا ہے بعض اوقات گردوں کے مقام پر چوٹ لگنے سے بھی خون آتا ہے بعض اوقات بوا سیری خون بند ہونے سے بھی گردوں سے خون آنے لگتا ہے حیض کا خون بند ہونے پر بھی پیشاب میں خون آنے لگتا ہے نہایت خشک ادویات و اغذیہ کا کثرت استعمال بھی اخراج خون کا سبب بنتا ہے مثلاً شکر اور ازراقی وغیرہ۔

علامات:

اگر گردوں اور مثانہ میں معمولی زخم ہوں تو پیشاب کیساتھ خون مل کر آتا ہے لیکن اگر زخم بڑے اور گہرے ہوں تو پیشاب سے پہلے خون آتا ہے یا بعد میں زیادہ مقدار میں خون آتا ہے

شہس لقمانی فارمولے

یا بعض اوقات خون زیادہ مقدار میں جمع ہو کر حاجت کا احساس پیدا کرتا ہے جس پر خالص خون ہی اخراج پاتا ہے۔

خون کہاں سے آرہا ہے؟

* اگر مثانے سے آئے تو پیشاب میں مل کر آتا ہے۔

* اگر گردوں سے آئے تو خون کے منجمد ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور گردوں کے مقام پر درد لازمی ہوتا ہے۔

* جب خون غدہ نخامیہ سے آتا ہے تو پیشاب کرنے سے پہلے آتا ہے عضو تناسل میں ہیجان محسوس ہوتا ہے اور مقدار میں بہت کم آتا ہے۔

* اگر خون احنلیل سے آئے تو بغیر پیشاب کے ہی خارج ہوتا رہتا ہے۔

علاج:

حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

855- خیساندہ خاص

عنايت: جناب حکيم محمد اشفاق صاحب شاہدرہ لاہور۔

هو الشافي: گل سرخ دو تولہ گل بنفشہ ایک تولہ زیرہ سفید ایک تولہ کوزہ مصری بقدر مناسب۔

ترکيب تياری: تمام ادویات کو ایک کلو پانی میں بھگو دیجئے صبح مل چھان کر کوزہ مصری بقدر مناسب ڈال کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکيب استعمال: ایک کپ چھوٹا صبح دوپہر شام پلا دیجئے۔

فائدہ: پیشاب کے راستے خون بند کرنے میں زود اثر دوا ہے انشاء اللہ عزوجل آٹھ دن میں کلی صحت نصیب ہو جائے گی۔

پرہیز: گوشت، گرم مصالح جات، سرخ مرچ وغیرہ سے پرہیز ضروری ہے۔

856- اکسیر حالبس الدم

عنايت: جناب حکيم غلام حسین صاحب دنیا پوری دنیا پور ملتان۔

هو الشافي: دم الاخوان، سنگ جراثیم، کبریا شمی، ہر ایک دس دس گرام۔

ترکيب تياری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکيب استعمال: ایک ایک ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ شربت انجبار دیجئے۔

ناک کے امراض

ماہیت:

ناک قوت شامہ کا خاص آلہ ہے۔ یہ چہرے کے عین درمیان بالائی لب کے اوپر
مثبت شکل میں واقع ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں:

(1) بیرونی حصہ

(2) اندرونی حصہ

ناک میں دو سوراخ ہوتے ہیں انہیں نتھنے کہتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک دیوار ہوتی
ہے نتھنوں کی اندرونی جانب بال ہوتے ہیں جبکہ بیرونی سطح صاف ہوتی ہے ناک کے نتھنوں کے
اندرونی جانب ایک جھلی ہوتی ہے جس سے ہلکی ہلکی رطوبت مترشح ہوتی رہتی ہے جو ناک کو تر
رکھتی ہے ناک میں تین ہڈیاں ہوتی ہیں اور پانچ کریاں (نرم ہڈیاں) ہوتی ہیں۔

ناک کا ایک سوراخ باہر جب کہ دوسرا اندر حلق میں کھلتا ہے جب انسان کوئی چیز کھا نہیں
سکتا تو غذا مخلول کی صورت میں بذریعہ نالی اسی اندرونی راستے سے معدے میں پہنچائی جاتی
ہے۔ نالی کی اندرونی سطح میں جو لعاب دار جھلی ہوتی ہے اس میں ریٹھے ہوتے ہیں جو ناک کے
عصب شامہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو سونگھنے اور پرکھنے میں معاونت کرتے ہیں۔

نکسیر/رعاف

(Epistaxis)

تعریف مرض:

ناک کے راستے کبھی ایک طرف تو کبھی دونوں طرف سے خون آنے کو نکسیر کہتے ہیں۔

اسباب:

دماغ میں خون کا اجتماع، ناک یا سر پر چوٹ لگنا، خون شدید صفراوی یا دموی بخار سانپ
کا ڈسنا، حیض کی بندش، بوا سیری خون کی رکاوٹ، سرسام شدید، دموی مزاج یا سوداوی مزاج میں یا
موسم گرما میں اکثر نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل پہلی خوراک ہی سے خون آنا موقوف ہو جائے گا چند دنوں میں مرل
تابود ہو جائے گا۔

متفرق نسخہ جات

857- اکسیر جس البول

عنایت: جناب حکیم جیون داس صاحب جھنگ شہر۔

ہوالشافی: ریوند چینی ایک تولہ، شیرہ خار شک، شیرہ خیارین، شیرہ تخم خرپڑہ، شیرہ تخم کھن

ہر ایک ایک تولہ، شربت بزوری تین تولہ۔

ترکیب تیاری: ریوند چینی کو الگ باریک کر لیجئے دیگر شیرجات شربت بزوری میں ملا کر
رکئے۔

ترکیب استعمال: پہلے ایک تولہ ریوند چینی کا پورڈر کھا کر اوپر سے دیگر مرکب شربت
پلا دیجئے۔

فائدہ: جب کسی دوا سے پیشاب نہ کھل رہا ہو تو اس وقت اس دوا کی ایک خوراک ہی کافی
ہے۔

حرقت البول

نسخہ نمبر 701 ملاحظہ فرمائیے۔



علامات:

کبھی ایک تو کبھی دونوں نعتوں سے قطرہ قطرہ تو کبھی دھار باندھ کر خون خارج ہوتا ہے کبھی کچھ وقت کے بعد نکسیر یعنی خون آنا بند ہو جاتا ہے تو کبھی دیر تک مسلسل جاری رہتا ہے اگر نکسیر کا سبب کثرت خون دماغ ہو تو نکسیر سے پہلے سر میں بوجھ یا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے پھر عام حالت سے زائد خون کا اخراج ہوتا ہے کبھی کبھی خشکی کے باعث ناک کھجانے سے یا پہلی غاش سے بھی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے جو قطرہ قطرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔

علاج:

حسب ضرورت نسخہ جات میں سے دوا تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

858- اکسیر نوزو

عنایت: جناب حکیم پنڈت ارجن دیو شرما صاحب بلوٹ شریف ڈیرہ اسماعیل خان۔

ہوالشافی: دال نخود چھ ماشہ شیر گاؤ تین تولہ شکر سرخ چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: روزانہ رات دال کو دودھ میں ڈال دیجئے صبح دال کو گھوٹ کر شکر ملا کر تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح نہار منہ اس دوا کو مزے مزے سے چائیں۔

فائدہ: نکسیر بند ہو جائے گی اگر دو دن استعمال کریں تو ایک سال نکسیر نہ ہو اگر دس پونج استعمال کریں تو پانچ سال تک نکسیر نہ ہو اگر بیس دن استعمال کریں تو انیس سال تک نکسیر نہ ہوگی انشاء اللہ عزوجل تجربہ شدہ میزائل بہدف دوا ہے۔

859- دوائے نکسیر

عنایت: جناب حکیم غلام محمد صاحب بڑانہ جھنگ۔

ہوالشافی: مردار سنگ پاؤ۔

ترکیب تیاری: نہایت باریک کر کے بوتل میں سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بطور نسوار استعمال کیجئے۔

فائدہ: نکسیر کے لئے سو فیصد لاثانی بحرب البحر دوا ہے۔

860- بلڈ کیئر

عنایت: جناب حکیم پیر الال صاحب کوٹہ راجپوتانہ (ہند)۔

ہوالشافی: جدید دور میں مختلف گروپس کے خون۔

ترکیب تیاری: ہر گروپ کے خون کو ایک مٹی کے برتن میں خشک کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: جس گروپ کا خون ہوگا اسی گروپ والے کو بطور نسوار دیجئے۔

فائدہ: صرف ایک مرتبہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لئے نکسیر آنا بند ہو جائے نہایت مفید تجربہ شدہ ہے۔ (تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

861- رعانی

عنایت: جناب حکیم رحیم بخش صاحب پاک دروازہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالشافی: شبو یمانی شکفتہ پاؤ، آب کیلا آدھ کلو بال شتر دو تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے شب یمانی کو آب کیلا میں خشک کیجئے پھر بال شتر جلا کر اس میں شامل کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بطور نسوار چند مرتبہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: نکسیر والے کو پہلے ہی دن آرام آ جاتا ہے لاجواب دوا ہے۔

862- ضماد نکسیر

عنایت: جناب حکیم ارشد صاحب پروفیسر طبیہ کالج لاہور۔

ہوالشافی: ملتان مٹی ایک تولہ برادہ صندل سفید تین ماشہ دھنیا خشک تین ماشہ کانور ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں نہایت باریک پس کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تالو کے مقام سے بالوں کو دور کر کے لیپ کیجئے اوپر کھدر کے کپڑے کی گدی رکھ دیجئے اور پانی سے تر کر دیا کریں۔

فائدہ: نکسیر کو بند کرنے میں بے مثل ضماد ہے تجربہ شدہ ہے۔

863- دوائے نکسیر

عنایت: جناب حکیم محمد شفیع صاحب خانوال مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالشافی: کھتہ سفید پھلکڑی شکفتہ کاغذ سوختہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تینوں کو ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بطور نسوار استعمال کیجئے۔

فائدہ: نکسیر میں نہایت لاجواب ہے خواہ پر تالے کی طرح خون آ رہا ہو فوراً بند ہو جائے گا۔

طغرے

- * مہکوی کو عرق گلاب میں پیس کر دو قطرے ناک میں پکانے سے فوراً نکسیر رک جانے ہے جادو کی دوا ہے لازمی آزمائیے۔
- * ملتانی مٹی کا تالو پر مناد کرنا یا پیشانی پر مناد کرنا نکسیر بند کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔
- * تخم ریحان چھ ماشہ ہمراہ لسی خام استعمال کیجئے چند روز کے استعمال سے نکسیر جو کئی دن سے نہ جاتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی۔
- * جو شریف کے ستوشکر میں ملا کر روزانہ استعمال کیجئے پانچ روز کا استعمال ساری عمر کے لئے سکون نصیب ہوگا۔

سونگھنے کی قوت زائل ہونا

اگر سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے تو یہ نسخہ استعمال کیجئے:

864- اکسیر قوت شافہ

عنايت: جناب حکیم عبدالرحیم صاحب رنجھوڑ لائن کراچی۔

ہوالشافی: پوست سہانجنہ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: اس چھال کو سایہ میں خشک کر کے باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔

فائدہ: اس کے استعمال سے قوت شامہ لوٹ آتی ہے نہایت مفید تجربہ شدہ ہے۔

پینس

اس مرض میں ناک سے چھپچھڑے نکلتے ہیں بدبودار رطوبات کا اخراج اور کبھی کیڑے بھی

نکلتے ہیں۔

چند نسخہ جات

865- اکسیر پینس

عنايت: جناب حکیم محمد عیسیٰ صاحب جعفر آباد سی بلوچستان۔

ہوالشافی: کباب چینی چھ ماشہ الائچی خورد چھ ماشہ روغن بجنجد ایک تولہ۔

ہمیں لقمائی فارمولے

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور روغن کجند میں ملا کر کریم سی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دن میں تین مرتبہ ناک میں لگائے۔

فائدہ: تمام کیڑے خارج ہو جائیں گے بدبو ناک ختم ہو جائے گی مجرب ہے۔

866- دافع کیڑے ناک

عنايت: جناب منظور حسین سنیا سی صاحب چلتا پھرتا (ہند)۔

ہوالشافی: کتے کی کھوپڑی کی ہڈی پاؤء مشک کافور ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: کتے کی ہڈیوں کو جلا کر راکھ بنا لیجئے اور کافور ملا کر دونوں کو سوار کی طرح

باریک کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ذرا سی سوار لے کر سانس کے ذریعے اوپر چڑھائیں۔

فائدہ: ایک گھنٹے کے اندر اندر تمام کیڑے خود بخود خارج ہو جائیں گے نہایت لاجواب نسخہ

ہے جو ایک سنیا سی صاحب نے محبت سے عطا فرمایا۔

طغرہ

* نیازبو کے پتوں کا رس دو قطرے ناک میں پکائیے تمام کیڑے مر جائیں گے اور خارج

ہو جائیں گے۔



مردانہ پوشیدہ امراض

اکثر امراض مردانہ بچپن کی نادانیوں کے باعث جنم لیتی ہیں یہ امراض مردوں اور عورتوں میں ملتے ہیں مگر مردوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں چھوٹی عمر میں (مادہ منویہ) منی جیسی نہایت ہی قیمتی سرمایہ فضول سمجھ کر بازاری عورتوں کی قربت جلق و اغلام بازی میں بے دریغ ضائع کر کے مصنوعی لذت حاصل کی جاتی ہے چند لمحات کی یہ لذت مستقبل کے خوفناک امراض کا سبب بنتی ہے بعض اوقات معشوق کی غیر موجودگی میں اس کا خیالی تصور جما کر دماغ کے شہوانی مرکز میں تحریک پیدا کر کے یا معشوق کے جنسی اعضاء کو تصورات میں سمیٹ کر اس مرکز میں تحریک پیدا کر کے انتشار اور پھر انزال سے لذت اور سرور حاصل کیا جاتا ہے یہ عموماً مشت زنی (ہاتھ سے انزال) اغلام بازی (مرد کے ذریعے انزال) یا حیوانات سے فعل بد کے ذریعے مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں بندہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے اور آخر کار دماغ اور اعصاب دھوکہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں یعنی پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان خیالات سے سرور اور لذت نہیں ملتی تو دماغ نئی نئی ترکیبیں سوچتا اور ایجاد کرتا ہے اسی تذبذب میں دماغ کند ہو جاتا ہے اور دغذغ بنانے سے انکار کر دیتا ہے شہوانی مرکز میں بھی ضعف پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسماک اور انتشار مفقود ہو کر ملاپ کی فطری لذت سے محروم ہو کر غیر فطری جنسی لذت حاصل کرنے والا اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھنے لگ جاتا ہے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں انسان کمزوریوں کا منہ نظر آتا ہے یعنی وقت لذت طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ رہ جاتا ہے۔

جریان / اسپرے ٹوزیا

(Spermatorrhoea)

جریان کے معنی کسی رقیق مواد کا بہنا ہے اصطلاح طب میں منی کے بغیر ارادہ بالغی ضرورت کے بہنے کو جریان کہتے ہیں۔

ماہیت:

اسپرے ٹوزیا دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے اسپرم کے معنی تخم یا بیج کے ہیں جب کہ ٹوزیا

کے معنی "بہنا" ہے چونکہ منی جسم انسانی کے لئے تخم کی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے اسے جریان منی کہتے ہیں دیہاتی احباب اسے دھات کے نام سے موسوم کرتے ہیں عموماً منی کا اخراج بوقت مباشرت ہوتا ہے اسے انزال کہتے ہیں چونکہ جریان کی صورت میں منی بغیر مباشرت بغیر ارادہ اور اکثر بغیر انتشار ہی کے اخراج پا جاتی ہے بلکہ بہہ جاتی ہے لہذا اسے سیلان بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال پہلے حکیم بقراط گزرے ہیں آپ کی یعنی حکیم بقراط کی کتب میں بھی جریان کا ذکر آیا ہے۔

اسباب:

کثرت مباشرت، جلق، شہوت انگیز باتیں کرنا یا نظارے کرنا یا مناظرہ دیکھنا کمزوری خزانہ منی، کثرت منی وغیرہ تر چیزیں اور سرد چیزوں کا کثرت استعمال یا بلغم پیدا کرنے والی چیزوں کا کثرت استعمال جریان کے اسباب ہیں۔

علامات:

مرض جریان عموماً پیشاب و پاخانہ اور جذبات کی شدت کے وقت ہوتا ہے جب مرض میں شدت ہوتی ہے اعضائے جنسی زیادہ ذکی اُخس ہو جاتے ہیں تو پاجامہ وغیرہ کی رگڑ یا خوبصورت لڑکی یا صرف تصور ہی سے اخراج ہو جاتا ہے جب کچھ عرصہ اسی حالت میں بیت جاتا ہے تو ضعف و نقاہت پیدا ہو جاتی ہے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، خیالات کا منتشر رہنا، ہڈیوں میں ہلکا ہلکا درد ہونا، صبح جاگنے میں تکلیف یعنی سستی ہونا، کثرت سے بھول جانا، سر کا بوجھل رہنا، سانس پھول جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے سر میں بوجھ بااوقات درد محسوس ہوتا ہے کمر و پشت اور پیٹ و سینہ میں اکثر عصبی درد رہتا ہے ہاضمہ خراب اور ڈکاریں آتی ہیں، ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، رنگت زرد سیاہی مائل ہو جاتی ہے خصیتیں میں کبھی کبھی ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے پاؤں کے تلوں میں جلن، قوت باہ کمزور پڑ جاتی ہے دائمی درد سر سر چکرانا، ضعف بصارت، مرگی، خسیوں، ضعف ہضم حتیٰ کہ سل و دق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

علاج:

حسب ضرورت نسخہ جات میں سے دوا تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

867- حب شباب

عنایت: استاد الاطباء جناب حکیم غلام رسول بکھر شاہ پور۔

ہوالشافی: برادہ چاندی تین ماشہ، سیماب نو ماشہ، کشتہ بیضہ مرغ ستائیس ماشہ، شیر برگد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: پہلے برادہ اور سیلاب خوب کھول کیجئے یہاں تک کہ گرہ بن جائے پھر کھول تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور کھول کرتے جائیں یہاں تک کہ تمام کشتہ کھول میں بند ہو جائے پھر شیر مدار ڈال کر خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: شہد پانچ تولہ کھی پانچ تولہ زردی بیضہ مرغ ایک عدد چھلکا اسپول ہ ماشہ دودھ پاؤ پہلے ایک گولی کھا کر چھلکا منہ میں ڈال کر پھر دیگر آمیزہ شدہ پی لیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال، احتلام، جریان، ضعف باہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

868- جریا نین

عنايت: زبده الحکماء جناب حکیم محمد الیاس خان صاحب پروفیسر طبیہ کالج دہلی (ہند)۔
ہوالشافی: قفل دراز، الاچھی خرد گندھک آملہ ساز، کشتہ سکہ، جند بیدستر ہر ایک ایک تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور شہد کی مدد سے بخودی گولیاں بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی روزانہ بوقت صبح ہمراہ شیر گاؤ دیتجئے۔

فائدہ: جریان کے لئے اکسیر الاثر دوا ہے آزمائیے اور فائدہ اٹھائیے۔

869- جرنو

عنايت: زبده الحکماء جناب حکیم غلام محی الدین صاحب ڈھڈی تھل جہلم۔
ہوالشافی: تاج، تالکھانہ کمرکس، موجس، بیج بند، عققرقا، گوند کثیر، الاچھی خورد، طہاشیر، سرپالہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، موصلی سنبل، بہمن سرخ، بہمن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، ہر ایک تین تولہ، تخم ریحان دس تولہ، گل انار چالیس تولہ، ثعلب مصری، چھ تولہ شربت خشک، پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر شربت میں بطریقہ معروف ملان تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح و شام چھ چھ ماشہ ہمراہ شیر گاؤ آدھا کلو کھلا دیتجئے۔

فائدہ: جریان و احتلام کے لئے نہایت مفید ہے منی کو صالح اور بکثرت پیدا کرتا ہے اللہا ریسہ کو طاقت عطا کرتا ہے۔

870- جریانی

عنايت: جناب حکیم سید واجد حسین صاحب اکبر آبادی اندور اسٹیٹ (ہند)۔

ہوالشافی: پوست بیضہ مرغ ایک تولہ، سیلاب دو تولہ، نبات سفید دو تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے پوست بیضہ مرغ کو ایک گھڑی کامل کھول کیجئے پھر پارہ ڈال کر ایک دن رات کامل کھول کیجئے پھر نبات سفید کی چٹلی چٹلی ڈال کر خوب کھول کیجئے تاکہ پارہ تابود ہو جائے تیار ہے۔

ترکیب استعمال: ایک چھ ماشہ ہمراہ مکھن صبح کھلا دیتجئے۔

فائدہ: جریان کے لئے نہایت کامیاب ہے مسک و مقوی ہے۔

پرہیز: گرم و ترش چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔

871- اکسیر جریان

عنايت: جناب حکیم ابوالحسن محمد احسان الحق صاحب پروفیسر طبیہ کالج امرتسر (ہند)۔
ہوالشافی: طہاشیر، اصل السوس، تالکھانہ، پکھاں بید، دانہ الاچھی سفید، کشتہ قلعی، ست سلابیت، مندل سفید ہر ایک دس تولہ، شکر تری، کشتہ سکہ ہر ایک چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھول کر لیجئے اور پورڈر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیتجئے۔

فائدہ: جریان وغیرہ میں نہایت کامیاب بخروسہ کی دوا ہے۔

872- حب عنبر خاص

عنايت: حازق الحکماء جناب حکیم رفیق احمد صاحب کلکتہ (ہند)۔

ہوالشافی: مصطکی رومی، قرفنل، جند بیدستر ہر ایک ایک تولہ، عنبر اشہب دو تولہ، ثعلب مصری، خولجاں، پنیر مایہ ستر اعرابی ہر ایک تین تین تولہ، ایکسٹریکٹ ڈامیانہ ایک اونس، ایکسٹریکٹ نکس و امیکا چھ ماشہ، فرالی سلفاس ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے عنبر کو روغن بلسان چار تولہ میں پکھلائیں پھر دیگر ادویات کو نہایت باریک کر کے شامل فرما لیجئے اور بخودی خوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیتجئے۔

فائدہ: جریان، سرعت انزال، رقت منی کے لئے نہایت اعلیٰ تجربہ شدہ دوا ہے۔

873- تریاق جریان

عنايت: جناب حکیم سید عماد الحسن شاہ صاحب کانپور شہر۔

ہوالشافی: نخود بریاں، اصل السوس، مقشڑ، طہاشیر، بیج گل عباسی کہنہ، برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ شہد پانی میں ملا کر اس سے تین ماشہ دوا صبح و شام لیجئے۔
فائدہ: جریان نیا ہو یا پرانا کے لئے بے مثال دوا ہے۔

874- سیماب پلر

عنايت: جناب حکیم ابو ظفر محمد عبد الخالق صاحب راولپنڈی۔

هو الشافى: تلخی ایک تولہ سیماب چھ ماشہ بیش مد بر تین ماشہ، قفل ابیض دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تلخی کو پہلے پھلانیں پھر سیماب ڈال کر خوب کھول کیجئے پھر دیگر دواں دوائیں ملا کر خوب زوردار ہاتھوں سے کھول کیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو چاول سے تین چاول ہمراہ ملائی دیجئے مرض کی نوعیت کو ملحوظ رکھئے ہوئے دن میں دو مرتبہ بھی دے سکتے ہیں۔

فائدہ: جریان کے لئے خصوصیت سے مفید ہے۔

875- جرنول

عنايت: جناب حکیم غلام محمد سائیں صاحب جموں و کشمیر۔

هو الشافى: پھلی کیکر (جن میں دانہ نہ بنا ہو) ایک کلو ستاور ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب اچھی طرح باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین سے چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں دیجئے۔

فائدہ: جریان الٹی اور ہر قسم کے جریان میں خصوصاً مجلوقین کے لئے آب حیات ہے (تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)۔

876- جریانین

عنايت: جناب حکیم محمد صدیق احمد صاحب مچھی ہٹ لاہور۔

هو الشافى: گوند کیکر، گوند کثیر، نشاستہ، کشیز مقشر، تالمکھانہ آرد سنگھاڑا ہر ایک چوتولہ دانہ

سفید چار سو گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیریں دیجئے۔

فائدہ: جریان و احتلام کے لئے بے مثال دوا ہے۔

877- جرنالست

عنايت: جناب حکیم شہاب الدین چک نمبر 282 گ ب فیصل آباد۔

هو الشافى: رابل سفید دس تولہ شب میانی چار تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کروائیے۔

فائدہ: جریان احتلام رقت سرعت کی اشتہا، کمزوری، سستی کے لئے نہایت جید الاثر دوا ہے۔

878- معجون مجلوقین

عنايت: جناب حکیم ابوالکرم محمد ابراہیم صاحب جنڈالی مظفر پور (ہند)۔

هو الشافى: تاج، تالمکھانہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، انگن، ستاور شقائق مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید ہر ایک ایک تولہ، الاپچی کلاں، دارچینی، بوپھلی، ثعلب مصری، طہاشیر، ترہملہ ہر ایک دو تولہ، مغز ہادام مقشر تین تولہ، عسل خالص ایک کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد خالص میں بطریقہ معروف معجون تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں سے لیجئے۔

فائدہ: جلق و اغلام کے باعث کمزوری، جریان و احتلام سرعت انزال، قوت باہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

879- سفوف جدید

عنايت: جناب حکیم پنڈت دیوی دیال صاحب ٹوہانہ ضلع حصار (ہند)۔

هو الشافى: تخم کوچ ایک کلو، تالمکھانہ ایک کلو، کوزہ مصری دو کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: جریان و احتلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا نہایت مفید و مجرب دوا ہے۔

880- جریائل

عنايت: جناب حکیم عبدالغنی صاحب نور جمال ضلع کجرات۔

هو الشافى: قلمی مصفی، سیسہ مصفی، سیماب مصفی ہر ایک دس گرام، سرد چینی، طہاشیر، دانہ الاپچی خوردنچ ہر ایک تیس گرام۔

ترکیب تیاری: پہلے دو اجزاء کو کڑا ہی میں ڈال کر پھلانیں پھر سیماب ڈال کر خوب کھول کیجئے بعدہ دیگر ادویات باریک کر کے خوب کھول کیجئے کہ مثل غبار ہو جائے۔

ترکیب استعمال: 1000 ملی گرام صبح و شام ہمراہ شیریں دیجئے۔

884- دوائے کندن

عنايت: جناب حکیم و پرہمان صاحب تونسہ شریف ڈیرہ غازی خان۔
هو الشافى: ثعلب مصری پانچ تولہ، موصلی سفید دس تولہ، تخم ریحان مسلم پانچ تولہ، کشتہ مثلث

ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے جب کہ تخم ریحان مسلم ہی کس کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چار ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: جریان و احتلام، سرعت انزال دور کر کے قوت اساک حقیقی پیدا کرتا ہے۔ قوت باہ بڑھاتا ہے مسمن بدن اور محمولون ہے درد پشت زائل کرتا ہے واقعی مفید و لاثانی نسخہ ہے۔

885- دوائے جریان

عنايت: جناب حکیم حافظ محمد امیر صاحب بھاسہ گوالیار (ہند)۔

هو الشافى: موصلی سفید، موصلی سیاہ، سیوس اسپنول، زنجبیل، گل منڈی ہر ایک دو تولہ نبات سفید چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: دافع جریان اور مقوی ہے۔

886- جرنائو

عنايت: جناب حکیم محمد امین صاحب جہان آباد شاہ پور۔

هو الشافى: ریش برگد تین تولہ، شیر برگد پچاس گرام، شقائق مصری، طباشیر، الاچھی خورد، ثعلب مصری ہر ایک ایک تولہ، کوزہ مصری چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: جریان منی کے لئے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

887- سفوف جرن

عنايت: جناب حکیم شیر زمان صاحب ڈب میانوالی۔

هو الشافى: گوند کیکر، گوند کتیرا، تالمکمانہ، شقائق مصری، گوند سہاجنہ، گوند دھاک، گوند سنبل،

شہس لقمانی فارمولے
فائدہ: ہر قسم کے جریان کے لئے نہایت لاجواب دوا ہے۔

881- کشتہ مرجان

عنايت: جناب حکیم چند لال صاحب کھجول (ہند)۔

هو الشافى: مرجان پچاس گرام، شیر برگد ستر گرام۔
ترکیب تیاری: مرجان کو شیر برگد میں خوب کھول دیجئے اور ٹکیہ بنا کر خشک کر کے ایک کونڈی میں گل حکمت کر کے دس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سفید رنگ کا کھفتہ پورڈر ملے گا سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ سو ملی گرام صبح و شام خالی پیٹ ہمراہ دودھ دیجئے۔
فائدہ: جریان کے لئے نہایت مفید الاثر کشتہ ہے نیز دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔

882- ممسکی

عنايت: جناب حکیم سید عبدالرحمن قادری صاحب پونہ (ہند)۔

هو الشافى: نخود سیاہ بریاں سو گرام، آب کنڈیاری (پھٹ کٹائی) پاؤ، مغز پستہ دستولہ ہائیکر مصلی روی دار چینی ہر ایک چھ تولہ شہد قدرے مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور شہد کی مدد سے خوب سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی رات ہمراہ شیر نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: جریان قدیم و جدید میں لاثانی دوا ہے سرعت انزال کے لئے خاص نسخہ ہے تدریجی اور دعائے مدینہ سے نوازئیے۔

883- دوائے جادو

عنايت: جناب حکیم غلام رسول انصاری صاحب سہمگیاں دروازہ جالندھر (ہند)۔

هو الشافى: تخم خرد، کشیز خشک، اسپنول مسلم ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: ہزاروں مریضوں کو امراض جریان و احتلام و سرعت انزال سے نجات دے کر یاب کیا ہے آپ بھی آزمائیے تجربہ شرط ہے۔

فائدہ: جریان و احتلام اور تقویت اعضاء رئیسہ کے لئے کامیاب دوا ہے۔

891- حب رحمت

عنايت: جناب حکیم پنڈت دماشکر ترپاشی صاحب لاہور۔

هو الشافى: کشتہ نقرہ جلوتری زعفران ریگ مای ہر ایک ایک تولہ سمندر سوکھ جوزبوا ہر ایک نو ماشہ زہر مہرہ دو ماشہ مشک خالص ڈیڑھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: مشک نقرہ زعفران زہر مہرہ کو عرق گلاب میں کھل کیجئے پھر دیگر ادویات کوٹ کر ملا کر حبوب نخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیتجئے۔

فائدہ: ضعف باہ اسماک و جریان کے لئے مفید الاثر دوا ہے۔

892- کشتہ تانبہ

عنايت: جناب حکیم مرزہ ظفریاب صاحب پروفیسر طبیہ کالج دہلی (ہند)۔

هو الشافى: مغز تخم ارٹو دس تولہ دودھ پاؤ مغز جمال گوٹہ دو تولہ بھٹکڑی دو تولہ تانبہ تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے مغز جمال گوٹہ اور بھٹکڑی ہر ایک کو کوٹ کر تانبہ کے اوپر تلے لیپ کر دیجئے پھر مغز ارٹو کو دودھ میں خوب گھوٹیں اور اس کے نغذہ میں لیپ کیا ہوا سکھ رکھ کر گل حکمت کر کے چالیس گلو ادیلوں کی آگ دیجئے سبز ہونے پر نکال کر پورڈر بنا کر سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: نصف رتی مکھن یا ملائی میں رکھ کر دیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ و اعصاب ہے دافع جریان اور اعلیٰ درجہ کا مسک ہے۔

893- جرنانک

عنايت: جناب حکیم نیاز احمد صاحب منگور سہارنپور (ہند)۔

هو الشافى: ستاور دس تولہ سنگ جراحت دس تولہ کوزہ معری بیس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیتجئے۔

فائدہ: نئے اور پرانے جریان کے لئے بے مثال دوا ہے اس کے استعمال سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا نہایت مفید دوا ہے۔

شہس لقمانی فارمولے
گوٹہ بادام تودری سرخ تودری سفید گوکھردکلاں تخم کاسنی ہر ایک ایک تولہ دس پیس
تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک سلوف بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: جریان اور رقت منی کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

888- معجون جریان

عنايت: جناب حکیم حاکم سنگھ صاحب فیروز پور شہر (ہند)۔

هو الشافى: ستاور ثعلب معری تودری سرخ تودری سفید موصلی سفید موصلی سیاہ بہمن ہر ایک ایک تولہ دس پیس تر ہندی شاکل معری تخم سردالی مغز ریٹھا مغز کدو مغز اخروٹ ہر ایک ایک تولہ دس پیس پندرہ تولہ عرق کیوڑہ پاؤ آب اتار شیریں ایک پاؤ کوزہ معری ڈیڑھ گلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور بطریقہ معروف معجون تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر شیریں دیتجئے۔

فائدہ: چند دنوں میں رقت منی کو غلیظ کر دیتی ہے جریان و سرعت انزال کا نام و نشان دور ہے۔

889- اعصابی

عنايت: جناب حکیم رام ناتھ صاحب ڈرگ روڈ سندھ۔

هو الشافى: سائٹریٹ آف آرن اینڈ کیفین چالیس گرین اسٹرنکٹیا پچیس منم شربت ہل چھ ڈرام پانی بارہ اونس۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ملا کر حل کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: صبح و شام دو دو چمچ لیجئے۔

فائدہ: درد کمر جریان اور تقویت اعصاب کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

890- سفوف پوشیدہ

عنايت: جناب حکیم چراغ الدین صاحب سرگودھا۔

هو الشافى: سنگ جراحت چھ تولہ پھل کھانہ موصلی سفید ست سلاجیت ہر ایک دو تولہ سفید چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح تین ماشہ شام ہمراہ لسی خام استعمال کیجئے۔

894- تریاق جریان

عنايت: جناب حکيم شيخ قمرالدين آزاد صاحب مکھڑ شريف کيل پور (ہند)۔
هو الشافي: مغز تر ہندی کلنتہ صمغ عربی موسلی سفید ہر ایک دو دو تولہ سنگھاڑا خشک 'مازو بزر' ثعلب معری ہر ایک ایک تولہ کشتہ قلمی چھ ماشہ بات سفید برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان و احتلام سرعت انزال کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

895- اکسیر ثالم

عنايت: جناب حکيم لال چند صاحب امام پاڑہ راولپنڈی۔
هو الشافي: گوند کتیرا کشتہ سفید کشتہ قلمی تالکھانہ سپستان خس کندر اصل السوس گلناز ریوند خطائی کجھ سیاہ برگ جتا کباب چینی ست گلو سلاجیت دانہ الاچی خورد دانہ الاچی کلاں طباشیر نشاستہ برابر وزن شکر سفید ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو لے کر خوب باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: مقوی باہ مسک ہے جریان و احتلام اور ضعف کمر میں اکسیر لاثانی دوا ہے۔

896- دوائے ریڈ

عنايت: جناب حکيم پنڈت برہمانند صاحب روپڑا نبالہ (ہند)۔
هو الشافي: دم الاخوان انجبار گيرڈ سنگ جراث گوند کتیرا طباشیر سرمہ سفید صدف مرواریدی برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کے جریان خون کے لئے لاجواب دوا ہے خواہ خون جہاں سے مرضی آرہا ہو اکسیر صفت دوا ہے۔

897- جریانک

عنايت: جناب حکيم ہرنس رائے صاحب منڈی گوبند گڑھ نامہ (ہند)۔
هو الشافي: موسلی سفید تالکھانہ گوند کتیرا ہر ایک ایک تولہ اسپنول مسلم ایک تولہ شکر سفید

پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے دیجئے۔
فائدہ: جریان و احتلام کے لئے لاجواب دوا ہے۔

898- حب مسک

عنايت: جناب حکيم فضل الدین صاحب بیرہل شریف شاہ پور۔
هو الشافي: مغز تر ہندی دس تولہ تخم خرمادس تولہ شیر برگد پاؤ۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو شیر برگد میں خوب کھرل کیجئے اور خوب نخودی تیار کر کے حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: چند دنوں میں قدرتی اسماک پیدا کر دیتی ہے جریان کا قلع قمع کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے۔

899- شاہ تاج

عنايت: جناب حکيم امام بخش صاحب بڑانہ جھنگ۔
هو الشافي: پھلی بیول موچرس صمغ پلاس مازو ہر ایک ایک تولہ مغز حب القطن پانچ تولہ جز مال تین تولہ قنفل اسود ایک تولہ تر ہندی بریاں ایک تولہ شکر ف روی تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر کے پانی کی مدد سے خوب نخودی بنا کر حفاظت سے رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی دن میں دو یا تین مرتبہ ہمراہ عرق بادبان یا شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔
فائدہ: ضعف باہ سرعت انزال جریان احتلام رقت مادہ منویہ میں اور تولید مادہ میں موثر الاظم دوا ہے۔ (تخریج شدہ حکيم محمد عبدالوحید عطاری)

900- ہرملی

عنايت: جناب حکيم عالم شاہ صاحب گھوڑ پالہ گجرات۔
هو الشافي: تخم حزل نیم بریاں دس تولہ کوکنار دس تولہ تل سیاہ دس تولہ قد سیاہ کہنہ میں تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ سے تین ماشہ دن میں دو مرتبہ ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: لاجواب نسخہ ہے مقوی ہاہ اور مسک ہونے کے علاوہ کمزوری وغیرہ دور کر دیتا ہے۔

901- معجون آن

عنایت: جناب ڈاکٹر وحیم مطا محمد چشتی گولڑی بندیاں شاہ پور۔
ہوالشافی: شاتل مصری، ثعلب مصری، ہر ایک دو تولہ، تخم شلغم، تخم پیاز، تخم گندما، تودری زرد، تودری سفید، بہن سرخ و سفید، موصلی سفید و سیاہ، موصلی سنبل، دارچینی، زخمیل، ستار، تخم ہالون، تخم گدڑ، ہر ایک دس گرام، بیج ہند، تالمکھانہ، گوند ڈھاک، ہر ایک دس گرام، مغز بادام شیریں، مغز اخروٹ، مغز پستہ، مغز چلغوزہ، مغز فندق، کبجہ سفید، ہر ایک پانچ تولہ، شکر تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب الگ کرینڈ کر لیجئے مغزیات کو الگ باریک ہیں لیجئے پھر چینی کا توام تیار کر کے تمام ادویات ملا کر معجون تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دس گرام صبح و شام ہمراہ دودھ نیم گرم کھلا دیجئے۔
فائدہ: مجلوق، ست ازسرو، چست اور مردانگی قوت کا حال ہو جاتا ہے جریان کو ختم کر دیتا ہے اس کا مسلسل استعمال نامرد کو مرد بنا کر زندگی کا لطف دوبالا کر دیتا ہے۔

902- دوائے دلبر

عنایت: جناب حکیم بشیر احمد انصاری صاحب سرسوی حصار (ہند)۔
ہوالشافی: سم الفار سفید دو ماشہ، دانہ الاچی خورد تین ماشہ، کھتہ سفید چار ماشہ، اصل السوس پانچ ماشہ، آب اورک پچاس گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہار یک مثل غبار بنا کر آب اورک میں خوب کھل لیجئے اور دانہ موگ برابر گولیاں تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ناشتے کے بعد دودھ سے لے لیجئے۔
فائدہ: بہت ہی مقوی ہاہ اور مسکی ہے ایک بار لازمی آزمائیے۔
پرہیز: تمام بادی اور تیل والی مریج مصالحہ جات وغیرہ سے پرہیز کیجئے۔
غذا: دودھ کی مکھن زیادہ استعمال کیجئے۔

903- کشتہ قلعی

عنایت: جناب حکیم سید محمود علی شاہ صاحب کھرالہ ضلع نماڑی پی (ہند)۔
ہوالشافی: قلعی ایک تولہ، گورکھ پان ایک پاؤ، اوپلے دس کلو۔
ترکیب تیاری: قلعی کو گورکھ پان کے نندے میں دے کر دس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے مرد

ہونے پر نہایت عمدہ کشتہ حاصل کیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی ہمراہ بالائی دن میں دو وقت لیجئے۔
فائدہ: جریان کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

904- حب مشکلی

عنایت: جناب حکیم محمد حسین قریشی صاحب بنالہ گرداسپور (ہند)۔
ہوالشافی: مشک خالص دو ماشہ، ورق طلا، ایک ماشہ، ورق نقرہ تین ماشہ، زعفران چار ماشہ، مہاشیر سات ماشہ، بسباسہ آٹھ ماشہ، کشتہ قلعی چھ ماشہ، عرق جہول ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق جہول میں خوب کھل لیجئے اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ ملائی استعمال کیجئے۔
فائدہ: تقویت ہاہ اور جریان و احتلام کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

905- کشتہ مرکب

عنایت: جناب حکیم محمد اسحاق صاحب گڈپہ مدراس (ہند)۔
ہوالشافی: برادہ فولاد، آب لیموں، بارہ تولہ، سیماب ایک ماشہ، سم الفار ایک ماشہ، شکر ف ایک ماشہ، ہڑتال و رقیہ ایک ماشہ، رس کھیکھیو، ار بقدر مناسب۔
ترکیب تیاری: پہلے برادہ فولاد کو عرق لیموں میں خوب کھل لیجئے جب پانی ختم ہو جائے تو دیگر ادویات ڈال کر لعاب کھیکھیو ار سے کھل لیجئے اور ایک کلو اوپلوں کی آگ دیجئے اسی انداز میں بارہ مرتبہ آگ دیجئے اور ہر دفعہ ایک ایک ماشہ دیگر ادویات کا اضافہ کرتے جائیے آخر میں پس کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: نصف چاول ہمراہ مکھن استعمال کیجئے۔
فائدہ: قوت ہاہ اور اساک کے لئے نہایت مفید دوا ہے جریان و احتلام کا خاتمہ کر دیتی ہے۔

906- جریانم

عنایت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم منگور حسین صاحب وائس پرنسپل طبیہ کالج امرتسر (ہند)۔
ہوالشافی: اجوائن خراسانی دو تولہ، رسونت دو تولہ، کشتہ مرجان ایک تولہ، کشتہ قلعی چھ ماشہ، آب بھنگ پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب بھنگ میں تین یوم تک خوب کھل لیجئے اور رتی رتی کی خوب بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عذوجل چند روز کے استعمال سے جریان کا قلع قمع ہو جائے گا۔

907- کشتہ سہ دھاتہ

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم عبدالرشید صاحب نظام آباد گوجرانوالہ۔
هو الشافى: قلعی، جست، مسکہ ہر ایک دو دو تولہ اجوائن خراسانی پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک کڑای میں ڈال کر پگھلائیے پھر اجوائن خراسانی کی چکل دیتے رہئے جب تمام اجوائن ٹم ہو جائے پھر اسے ایک پاؤ دہی کے پانی میں کھل کیجئے پھر ایک قلم بنا کر گل حکمت کر کے دس کلو ادویوں کی آگ دیجئے یہ عمل یعنی ہر دفعہ دہی کے پانی میں کھل کر کے مزید تین مرتبہ کیجئے۔ زرد رنگ کا کشتہ تیار ہو جائے گا سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک رتی صبح ایک رتی شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام وغیرہ میں اہتمام کی مفید دوا ہے۔

908- سفوف خدمت

عنايت: جناب حکیم جوہر الدین گوہر صاحب مظفر گڑھ۔
هو الشافى: ثعلب مصری، موصلی سفید، مغز تخم تر ہندی نیم بریاں، بہمن سفید، سنگ جراثیم ہر ایک ایک تولہ، مغز بادام شیریں تین تولہ، کشتہ قلعی چھ ماشہ، کشتہ مرجان چھ ماشہ، نبات سفید چار ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر شیریں دیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔
پرہیز: تیل والی اور ترش نیز جناع سے پرہیز واجب ہے۔

909- کشتہ قلعی

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن صاحب دانپلے پسرور سیالکوٹ۔
هو الشافى: قلعی پانچ تولہ، کربجوا پندرہ تولہ، پرانا گڑ تین پاؤ۔
ترکیب تیاری: قلعی کے پترے بنا کر کربجوا کا نغذہ بنا کر اس کے درمیان رکھ دیجئے اور اوپر کپڑا لپیٹ کر اوپر کوئلہ رکھ دیجئے تین دن تک سرد ہوگا قلعی ٹکفتہ طے گی پس کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دور رتی ہمراہ مسکہ استعمال کروائیے۔
فائدہ: جریان رقت و سرعت کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

910- کشتہ سنگھ

عنايت: جناب حکیم گلاب سنگھ صاحب جہلم شہر۔
هو الشافى: سنگھ چار تولہ، بو پھلی ایک کلو۔
ترکیب تیاری: بو پھلی کا نغذہ بنا کر اس میں سنگھ دے دیجئے اور ایک کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے دس کلو ادویوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نکال کر باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چار رتی صبح و شام ہمراہ لسی خام دیجئے۔
فائدہ: جریان کے لئے خصوصیت کے ساتھ مفید اور مجرب ہے۔

911- اکسیر ثعلبی

عنايت: جناب حکیم مخدوم نور محمد صاحب لنگر مخدوم جھنگ۔
هو الشافى: موصلی سفید بارہ تولہ، ثعلب پنجہ تولہ، ثعلب مصری چھ تولہ، تخم ریحان چھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام، سرعت انزال کے لئے نہایت ہی مفید ہے قوت اساک بڑھاتا ہے
اعضائے ریشہ کو طاقت دیتا ہے نہایت مفید دوا ہے۔

912- جرنوز

عنايت: عمدۃ الحکماء جناب حکیم محمد ادریس آزاد صاحب فنڈ اور ضلع بجنور (ہند)۔
هو الشافى: بو پھلی پانچ تولہ، ستار پانچ تولہ، بہمن سفید تین تولہ، دارچینی تین تولہ، قد سفید پندرہ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: احتلام، سرعت اور جریان میں خاصہ اہمیت کا حامل ہے نظیر میزائل بہدف نسخہ ہے۔

913- جریالی

عنايت: جناب حکیم محمد غوث صاحب سیندور اسٹیٹ ضلع بلہاری مدراس (ہند)۔
هو الشافى: کشتہ صدف مرداریدی، در گل خیرا، گوند کتیرا، سازج ہندی، کشتہ قلعی و بھنگ ہر ایک پانچ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گرام صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیتے۔

فائدہ: سرعت انزال کی اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ جریان کا خاتمہ کرنے میں اصول ہے۔

914- حب شفاقی

عنايت: جناب حکیم ملاؤ الدین صاحب میاں دنڈا مرثر (ہند)۔

حوالہ شافی: کشتہ چاندی پانچ ماشہ ریگ مایہ جلوتری زعفران ہر ایک دو ماشہ جوز بوا سمندر سوکھ ہر ایک نو ماشہ زہر مہرہ ایک ماشہ مشک خالص ڈیڑھ ماشہ عرق گلاب بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہاریک کر کے عرق گلاب کی مدد سے خوب نفوذی بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی رات کو سوتے وقت ہمراہ شیر گاؤ دیتے۔

فائدہ: تقویت باہ کے لئے مفید دوا ہے جریان کو ختم کر کے اساک پیدا کرنے میں بے نظیر ہے۔

915- کشتہ بیضہ مرغ

عنايت: جناب حکیم میاں حاکم علی صاحب شر قہور کلاں شیخوپورہ۔

حوالہ شافی: پوست بیضہ مرغ معنی ایک کلو عرق لینوں دو کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر اچھی طرح گل حکمت کر کے اینٹوں کے بٹے میں دبے دیتے۔ سرد ہونے پر نکال کر خوب کھول کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورتی صبح و شام ہمراہ مکھن استعمال کیجئے۔

فائدہ: جریان اور احتلام میں آزمودہ دوا ہے۔

916- دوائے یخت و ر

عنايت: جناب حکیم چونی لعل گپتا صاحب پلکھوا میرٹھ (ہند)۔

حوالہ شافی: تخم سداب انیسوں گنار فارسی برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہاریک کھول کر لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ آب ہاسی لیجئے۔

فائدہ: جریان کے لئے اکیسرفیات کا حامل مجرب نسخہ ہے۔

917- اکیسیر جریان

عنايت: جناب حکیم سید آل نبی رضوی صاحب فرخ آباد یوپی (ہند)۔

ہم لقمی فارمولے

حوالہ شافی: زہر مہرہ ہائے خورد پانچ تولہ برگ نیم ایک پاؤ ذخم حیات ایک پاؤ اولے دس کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں بوٹیوں کا نغدہ بنا کر زہر مہرہ اس میں ملغوف کر دیتے اور دس گلو اولوں کی آگ دیتے سرد ہونے ہونے پر ہاریک پیس کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: چار رتی سے پانچ رتی ہمراہ شہد ملا یا پانی کھلا دیتے۔

فائدہ: جریان منی اور بوا سیر خونی اور پچش میں نہایت مفید دوا ہے۔

918- دوائے جریان

عنايت: جناب حکیم چڈت کندن لعل صاحب چنوتتاں حیدر (ہند)۔

حوالہ شافی: کشتہ قلعی تین تولہ بوجھلی پانچ سو گرام کوکنار سو گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہاریک پیس کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین سے چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیتے۔

فائدہ: جریان کو ختم کرتا ہے نہایت مفید دوا ہے۔

919- کشتہ مثلث

عنايت: جناب حکیم سید نذر حسین صاحب ریلوے روڈ جہلم۔

حوالہ شافی: جست سکہ قلعی ہر ایک ایک تولہ پوست (کوکنار) دس تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی تینوں ادویات کو کڑھائی میں پکھلائیے پھر پوست کی چٹکی دیتے جائے

یہاں تک کہ تمام پوست جل کر راکھ ہو جائے پھر ایک دن دہی میں کھول کر کے نکلیے بنا کر خشک

کیجئے پھر کوزہ گلی میں بند کر کے بیس کلو اولوں کی آگ دیتے سرد ہونے پر سفید رنگ کا کشتہ

برآمد ہوگا اسی طرح تین مرتبہ آنچ دیتے زردی مائل ہو جائے گا سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین رتی ہمراہ مکھن یا ملائی دیتے۔

فائدہ: جریان و احتلام کو نابود کر دیتا ہے مقوی مغلط منی و مسک اعلیٰ درجہ کا ہے۔

920- معجون مقوی

عنايت: جناب حکیم صالح محمد صاحب میز پور خاص باب الاسلام سندھ۔

حوالہ شافی: مغز بادام شیریں مغز چلغوزہ مغز اخروٹ مغز فندق مغز کدو مغز کاہوا انجون

بگ جوز بوا بہاسہ تمام ادویات ایک ایک تولہ عنبر اشہب ایک ماشہ مشک خالص ایک ماشہ قد

مغیرہ چند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ہاریک کر لیجئے اور قد سفید کا توام بنا کر تمام ادویات ملا دیتے

آخر میں مشک اور عنبر عرق گلاب میں کھول کر کے شامل فرما کر معجون کا توام بنا کر سنبھال کر

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان اور اسماک کے لئے لاجواب دوا ہے۔

921- سفوف جریان

عنايت: جناب حکیم فضل الرحمن عاصم صاحب تھکال بالا پشاور۔
هو الشافي: گوند کیکر، کمرکس، گوند ڈھاک، معطلی روی، ہم وزن شیر بڑ بقدر مناسب۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور شیر بڑھ میں ترو خشک کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: جریان احتلام اور سرعت کے لئے نہایت جید الاثر دوا ہے کمر درد میں مفید ہے۔
پرہیز: گرم اور ثقیل و ترش اغذیہ سے پرہیز واجب ہے۔

922- اکسیر جریان

عنايت: جناب حکیم پنڈت بیروہل صاحب راجدوارہ رام پور (ہند)۔
هو الشافي: تالمکھانہ، تمر ہندی، بربیاں، بیج بند الاچی، خورد شقال، مصری، طباشیر۔
ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو پورڈر بنا کر کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چار ماشہ صبح چار ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان کے لئے نہایت فائدہ مند ہے اعصاب کو طاقت دیتا ہے دماغی طاقت کے لئے اکسیر ہے مادہ کو گاڑھا کرتا ہے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

923- اکسیر مغاظ

عنايت: جناب حکیم نارام گپتا صاحب سہارنپور (ہند)۔
هو الشافي: ثعلب مصری، موجرس، بہن سفید، تالمکھانہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، ستاؤر، سمندر سوکھ، تخم قنب، طباشیر نقرہ، ہر ایک ایک تولہ، سلاجیت اصلی، چھ ماشہ، کشتہ قلعی، چھ ماشہ، کشتہ مثلث چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح دو ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: جریان کہنہ و جدید رقت منی، ذکاوت حس اور احتلام میں نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

924- جرجون

عنايت: جناب حکیم عظیم بخش صاحب کاٹھ گڑھ ہوشیار پور (ہند)۔
هو الشافي: ستاؤر سنگ جراثیم، ہر ایک پانچ تولہ، قند سفید دس تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام اور سیلان الرحم میں اکسیری دوا ہے۔

925- حب الخالص

عنايت: جناب حکیم رام ناتھ کوچر صاحب کھڈیاں لاہور۔
هو الشافي: شکر ف روی، لوگن، جوز مال، جلوتری، اجوائن خراسانی، اجوڑ، سمندر سوکھ، کانچ ہر ایک ایک تولہ، تالمکھانہ، بیج ہر ایک چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھل کر کے بخودی خوب تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ کھن یا ملائی میں کھلا دیجئے۔
فائدہ: دافع سرعت انزال، جریان منی اور قوت باہ کے لئے بے نظیر دوا ہے۔ ضرور بنا کر استفادہ حاصل کیجئے۔

926- حب زندگی

عنايت: جناب حکیم سید علی مبارک صاحب مبارک محل آگرہ (ہند)۔
هو الشافي: اجوائن خراسانی، موصلی سفید، داڑھی برگد، کشتہ قلعی، معطلی روی، برابر وزن، شیر برگد بقدر مناسب۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک شل پورڈر بنا کر شیر برگد میں گوند کر خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان کا خاتمہ کر کے منی کو غلیظ اور سپرم پیدا کرتی ہے نیز قوت اسماک حقیقی پیدا کرتی ہے۔

927- حب جریاٹو

عنايت: جناب حکیم رحمت علی صاحب چاہنڑ کے جالندھر (ہند)۔
هو الشافي: تخم سرس، تخم تمر ہندی، ثعلب مصری، معطلی برابر وزن، شیر برگد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پرڈر بنا کر شیر برگد سے خوب خودی تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین حب صبح، تین حب شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔

فائدہ: جریان کو ختم کرنے میں لاثانی دوا ہے مادہ منویہ کو گاڑھا کر کے قوت باہ پیدا کرتی ہے۔ (تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)۔

928- کشتہ قلعی سیمابی

عنایت: جناب حکیم قاضی خان صاحب رتوچہ جہلم۔

حوالہ شافی: پارہ پانچ تولہ سم الفار دو تولہ قلعی دس تولہ شیر مدار دس تولہ سناکی برگ حشیش برگ حتا اجوائن بھلانوہ ہر ایک ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: پہلے قلعی کو پگھلا کر پارہ ڈال کر خوب کھول دیجئے پھر سم الفار ملا کر شیر مدار میں یہاں تک کھول دیجئے کہ شیر مدار ختم ہو جائے تو کھیہ بنا کر خشک کیجئے اب پہلے سناکی پھر مہندی پھر اجوائن پھر برگ حشیش اور آخر میں بھلانوہ رکھ کر اوپر کھیہ رکھ دیجئے پھر اسی ترتیب سے نصف ادویات رکھ کر خوب گل حکمت کر کے خشک کیجئے اور پچیس کلو اوبلوں کی گ دیجئے سرد ہونے پر خوب کھول کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین رتی ہمراہ کھن یا بالائی استعمال کروائیے۔

فائدہ: مقوی باہ دافع جریان رقت منی اور سرعت انزال کے لئے نہایت مفید و مجرب و آزمودہ ہے ایک بار آزمائیں گے تو ہمیشہ کے لئے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔

929- سروالی پلڑ

عنایت: جناب حکیم سراج الدین صاحب راجہ جنگ لاہوری۔

حوالہ شافی: تمر ہندی خستہ تخم سروالی ستارہ برابر وزن شیر برگد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شیر برگد میں خوب خودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین گولی صبح، تین گولی شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔

فائدہ: جریان منی دانگی میں اکسیر صفات کا حال ہے۔

پرہیز: بادی ترش، قدسیا، لحم و بقر وغیرہ۔

930- اکسیر جریان

عنایت: جناب حکیم عبدالصمد صاحب بھٹی پول کھور (ہند)۔

حوالہ شافی: صمغ عربی زرد چوب، نشاستہ بہدانہ، شہد خالص ہر ایک ایک تولہ کشیز خشک دو

بہت لقمائی فارمولے

تولہ پہلی میکر دو تولہ آرد خود بریاں چھ ماشہ، تانہ کھانہ چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر لیجئے اور آخر میں شہد ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک ماشہ دوا ہمراہ شیر گاؤ صبح و شام استعمال کیجئے۔

فائدہ: جریان کو ختم کرنے میں مفید الاثر دوا ہے معمول مطلب ہے۔

931- حب مقوی

عنایت: جناب حکیم طاہر حسین عارنی صاحب ہیر دروازہ بمبھوپال (ہند)۔

حوالہ شافی: ازرائی مدبر، مویز منقی، مغز بادام شیریں ہر ایک اڑھائی تولہ، کشتہ نواڈا کشتہ چاندی، کشتہ قلعی ہر ایک تین ماشہ، شہد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھول کر کے پیس لیجئے اور شہد کی مدد سے خوب خودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح و شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ استعمال کروائیے۔

فائدہ: نہایت مفید دوا ہے جریان کا خاتمہ کرتی ہے مقوی باہ ہے۔

932- حب جریان

عنایت: جناب حکیم سلطان محمود صاحب گوجرہ۔

حوالہ شافی: سمندر سوکھ، بیج بند، سریالہ، تخم بھنگ ہر ایک پانچ تولہ، کشتہ قلعی، کشتہ چاندی ہر ایک دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور خوب خودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: سرعت انزال اور جریان میں مفید دوا ہے۔

933- دوائے انمول

عنایت: جناب حکیم محمد عمران قادری صاحب قلند گوجر سنگھ۔

حوالہ شافی: جوہر کانپد چھ تولہ، ایکسٹریکٹ بیلا ڈونا چھ تولہ، کشتہ قلعی در بھنگ چھ ماشہ، کشتہ رومات چھ تولہ، رب کوکنار چھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو رب کوکنار میں ملا کر خوب کھول کیجئے اور رتی کی گولیاں بنا کر اوپر ورق چاندی چڑھا دیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح بعد ناشتہ اور ایک گولی سہ پہر شیر نیافر دیجئے۔

فائدہ: ذکات حس سرعت انزال، جریان، احتلام، رقت منی کے لئے نہایت مفید دوا ہے ہر قسم کی

سیلان رطوبت کے لئے آب حیات ہے۔ اکیس یوم تک استعمال کریں۔

934- جریانول

عنايت: جناب حکیم محمد امین رحمانی صاحب چک نمبر 190 دہاڑی۔

ہوالشافی: قلعی معنی ایک تولہ پارہ ایک تولہ سفیدہ کاشغری دو تولہ بیروزہ معنی چار تولہ ثعلب مصری چار سو گرام۔

ترکیب تیاری: قلعی اور پارہ کو چھل بند کیجئے پھر سفیدہ کاشغری ملا کر خوب کھرل کیجئے کہ مثل غبار بن جائے پھر دیگر ادویات باریک کر کے ڈال دیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کروائیے اوپر سے پچاس گرام مکھن لازماً کھلا دیجئے۔

فائدہ: جریان و سیلان منی رقت، سرعت انزال، احتلام، ضعف اعضاء ریحہ اور ذکاوت حس کا تریاق ہے سلسل البول میں بھی نہایت کامیاب ہے۔ کمزوری سے پیدا شدہ جملہ علامات کو ختم کرتی ہے رنگت کو نکھارتی اور باافراط منی پیدا کرتی ہے شب روز کا معمول مطب نسخہ ہے آپ ضرور آزمائیے اور دعائے مدینہ دیجئے۔

935- کشتہ قلعی

عنايت: جناب سنیاسی خدا بخش صاحب چھانگا ماننگ جنگل چوکی۔

ہوالشافی: قلعی دو تولہ پوست بیضہ مرغ دو تولہ کھیکھیو ار پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: قلعی کو پھلائیں اور بیضہ مرغ باریک کردہ کا پورڈر چنگی سے ڈالتے جائیں جب پہلی چنگی جل جائے تو دوسری چنگی ڈالیں اسی طرح تمام بیضہ مرغ کا پوست ختم کر دیجئے پھر ایک پورا دن آب کھیکھیو ار میں کھرل کیجئے اور نکیہ بنا کر بیس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سفید رنگ کا نفیس کشتہ برآمد ہوگا سنبھال کر حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو رتی مکھن یا ملائی کے ہمراہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: جو صاحبان جریان کا علاج کرواتے کرواتے تھک گئے ہوں وہ یہ دوا استعمال کریں انشاء اللہ عزوجل صدری نسخہ کے باعث شفا یاب ہو جائیں گے۔

936- جریائل

عنايت: جناب حکیم احمد یار خان صاحب گرد اسپور (ہند)۔

ہوالشافی: پوست آملہ برگ حشیش ہلدی رسونت ہر ایک دو تولہ کافور، جانفل ہر ایک ایک تولہ ورج ایک تولہ انیون دو ماشہ سلاجیت دو تولہ کشتہ قلعی دو تولہ کشتہ چاندی پانچ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ دن میں دو مرتبہ ہمراہ شیر شیریں سے دیجئے۔
فائدہ: جریان، احتلام، سوزاک نیا تو بالکل ختم کر دیتا ہے ایک اسرارہ نسخہ ہے کمال چیز ہے ضرور آزمائیے۔

937- تریاق جریان

عنايت: جناب حکیم محمد مشتاق قادری صاحب کراچی۔

ہوالشافی: پوست ہلیلہ زرد، پوست بیڑہ، پوست آملہ، ثعلب مصری، موصلی سفید، ست اسپنول برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔

فائدہ: قبض کا خاتمہ کرتا ہے جریان کا قلع قمع کرتا ہے نہایت مفید دوا ہے جراثیم پیدا کرنے والے کے علاوہ قدرتی امسا کی قوت بھی پیدا کرتا ہے۔

938- گلاب پلڑ

عنايت: جناب حکیم محمد سلطان صاحب میاں چنوں ساہیوال۔

ہوالشافی: گل سرخ پچاس گرام، بیج بند پچاس گرام، دانہ الاچی کلاں پچاس گرام، ہلیلہ سیاہ بریاں روغن زرد سو گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: دل کی دھڑکن اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے عام جسمانی کمزوری کو ختم کر کے چہرے کی رنگت نکھارتا ہے قبض کشا اور اعلیٰ درجہ کا دافع جریان ہے۔

939- اکسیر جریان

عنايت: جناب حکیم شاہ نواز صاحب راجپوتانہ (ہند)۔

ہوالشافی: ختم دھتورہ، نو ماشہ ریوند چینی، چھ ماشہ سوٹھ تین ماشہ گوند ببول تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کوٹ کر پانی کی مدد سے خوب بخودی بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ رات سوتے وقت گرم دودھ میں دس گرام دیسی گھی ملا کر استعمال کیجئے۔

فائدہ: جریان و احتلام اور امساک میں مفید دوا ہے دروں کو ختم کرتی ہے۔

طفرے

کشتہ قلعی میں ایک رتی صبح و شام ہمراہ کھن دیجئے مفید الاثر دوا ہے۔
 کشتہ یمانی شگفتہ آدھ ماشہ صبح و شام نہایت جید الاثر دوا ہے۔
 کشتہ بیضہ مرغ ایک رتی صبح و شام ہمراہ کھن دیجئے نہایت مفید دوا ہے۔
 آب تر پھلا پلانا مفید ہے۔

مغلظ منی نسخہ جات

بعض اوقات مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے پیش نظر نسخہ جات حاضر خدمت ہیں۔ حسب ضرورت بنا کر استعمال کیجئے۔

943- اکسیر مغلظ

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم نقشبندی صاحب فیروز پور مرثل ضلع مدینہ الاولیا ملتان شریف۔
ہوالشافی: کونیل برگڈیخ بھنڈی سپستان کیلا خام دو دو تولہ قد سفید بارہ تولہ کشتہ قلعی نیم ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور کشتہ ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح چھ ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: تجربہ شدہ اکسیر الاثر مغلظ منی دوا ہے آزمائے اور دعائیں دیجئے۔

944- اکسیر تھنک

عنايت: جناب حکیم جان محمد صاحب ردولی شریف ضلع بارہ بنکی (ہند)۔

ہوالشافی: ناریل ایک عدد تخم ہالیون چار تولہ شکر سفید ہم وزن۔
ترکیب تیاری: ناریل میں سوراخ کر کے تخم ہالیون اس میں ڈال کر گل حکمت کریں اور خشک ہونے پر ہلکی آنچ پر بریاں کیجئے ایک اندازہ کے مطابق جب پوست ناریل جل جائے تو ٹھنڈا کر لیجئے اور دونوں کو خوب باریک کر کے شکر ملا کر سنبھال رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح نہار منہ ایک تولہ ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔
فائدہ: مادہ منویہ کو چند روز میں گاڑھا کرتا ہے۔ صفرادی مزاج والوں کے لئے نہایت محرک و مقوی باہ ہے۔ رطوبت غریزی بکثرت پیدا کرتا ہے۔
پرہیز: تمام گرم غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔

940- نبات پلز

عنايت: جناب حکیم محمد نواز قادری صاحب مدراس (ہند)۔
ہوالشافی: مازو بے سوراخ ایک تولہ پوست انار ایک تولہ کافور تین ماشہ شب یمانی بریاں چھ ماشہ نبات سفید تین تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: یہ نہایت مختصر اور قلیل نسخہ ہے مگر بلا مبالغہ اکسیر ہے جریان کا خاتمہ کرتا ہے ضرور آزمائیے۔

941- اکسیر جریان

عنايت: جناب حکیم غلام مجتبیٰ قادری صاحب بریلی شریف (ہند)۔
ہوالشافی: کیکر کی کچی پھلیاں خشک ایک کلو تالمکھانہ پاؤ بہو پھلی پاؤ کشتہ قلعی سو گرام طباشر سو گرام ستاور پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے گردے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ منی مذی ودی وغیرہ کا اخراج رک جائے گا۔ جریان کی وجہ سے کمزوری رفع ہو جاتی ہے جسم موٹا ہو جاتا ہے نہایت مفید دوا ہے ضرور بنا کر استعمال کیجئے اور شہرت حاصل کیجئے۔

942- ستاور پلز

عنايت: جناب حکیم مرزہ عطا محمد صاحب پنڈی راجپوتانا لاہور۔
ہوالشافی: ستاور ایک کلو تخم ریحان ایک کلو موصلی سفید ایک کلو تخم کوچ پانچ کلو کشتہ قلعی ایک کلو کشتہ چاندی ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھرل کر کے نکیہ بنا لیجئے اور روغن گاؤ میں بریاں کیجئے پھر پیس کر نخودی خوب تیار کر کے سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام ذکات حس جسمانی کمزوری دماغی کمزوری اور دیگر امراض میں لاجواب دوا ہے۔

945- سفوف لعل شاہ

عنايت: جناب حکیم سید لعل شاہ برق صاحب دروازہ گنج پشاور۔

حوالہ شافی: سنگھاڑا، مصلیٰ روی، مصلیٰ سفید، مصلیٰ سیاہ، کرکس، بیج بند، تخم سروالی، سمندر، جھاگ، کشتہ قلعی، کشتہ چاندی، کشتہ مرجان ہر ایک برابر وزن، کوزہ مصری برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیجئے اور کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ دو صبح و شام نہار منہ ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لئے نہایت بے مثال دوا ہے احتلام کو ختم کرتی ہے پیشاب کی جلن دور کرتی ہے مقوی و محرک دماغی طاقت خوب بڑھاتی ہے برسوں کی بھولی بھری چیزیں یاد آجاتی ہیں جسم کو موٹا اور صحت مند بناتی ہے۔ اکتالیس یا اکیس روز روزانہ استعمال کیجئے۔

946- سفوف اعظم

عنايت: حکیم چراغ علی صاحب بیگوالہ ضلع سیالکوٹ۔

حوالہ شافی: اندر جو شیریں، مصلیٰ روی، الاچی خورد، ہر ایک چھ تولہ، تالمکھانہ، ثعلب مصری، مصلیٰ سفید و سیاہ، بہن سرخ، بہن سفید، گوگرد، تخم کوچ ہر ایک دس تولہ، تخم اونگن آٹھ تولہ، آرد سنگھاڑا بیس تولہ، مغز تخم ترہندی تین تولہ، کوزہ مصری پچاس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح چھ ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: گرم مزاج والوں کیلئے لاثانی تحفہ ہے مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے اور ضعف باہ میں مفید ہے۔ احتلام و جریان میں منافع بخش دوا ہے۔

947- اکسیر اکمل

عنايت: جناب حکیم محمد فضل حق انصاری صاحب دہلی دواخانہ سیالکوٹ۔

حوالہ شافی: آرد سنگھاڑا، ثعلب مصری، مصلیٰ سفید، تالمکھانہ، دانہ الاچی خورد، موجس، شقائق مصری ہر ایک دو تولہ، بوپھلی سات تولہ، قد سفید اکیس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: مادہ منویہ کی جملہ شکایات کو حکمی طور پر فائدہ کرتا ہے رقت سرعت انزال اور احتلام کے دفعہ کے لئے مجربات و معمولات سے ہے۔

948- حب کندن

عنايت: جناب حکیم گنگا رام صاحب احمد پور شرقیہ بہاولپور۔

حوالہ شافی: اجوائن خراسانی، کباب چینی، عققرحہ، ریگ مایہ تر، زعفران، خولجان، جوزبوا، ہر ایک سات تولہ، ایون خالص پانچ تولہ، مشک خالص چار تولہ، سلاجیت چھ تولہ، کشتہ فولاد چھ تولہ، کشتہ چاندی چھ تولہ، شہد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو الگ الگ نہایت باریک پیس لیجئے اور شہد کی مدد سے خوب تھوری بنا کر اوپر سونے کے ورق لپیٹ لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ، مسک لاجواب اعضاء رئیسہ کو نہایت طاقت ور بناتا ہے رنگ کو سرخ کرتا ہے جوانی کو حقیقی شباب سے ہمکنار کرتا ہے۔ چار نکاح کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ نوابوں اور زیروں کا خاص نسخہ ہے آپ بھی آزمائیے۔

949- حب عنبرین

عنايت: جناب حکیم سید نظام الدین صاحب بنیرہ میواڑ (ہند)۔

حوالہ شافی: عنبر اشہب اعلیٰ ایک تولہ، مشک خالص ایک تولہ، لوبان کوزیہ ایک تولہ، مسر زرد ایک تولہ، آب ادراک بیس تولہ، آب کریلا بیس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک اور آب کریلا میں خوب کھل کیجئے یہاں تک کہ خوب بننے کے قابل ہو جائے تو حب دانہ مونگ برابر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ صبح بعد ناشتہ لیجئے ہمراہ نیم گرم دودھ۔

فائدہ: تقویت کے لئے نہایت مفید ہے بدن کو سرخ کرتا ہے۔ مغلظ منی، مولد خون اور مشتمی اعلیٰ درجہ کا ہے نہایت کامیاب دوا ہے۔

950- حب میلان

عنايت: جناب حکیم میلا رام صاحب بھاسکر قدیم بازار گورداسپور (ہند)۔

حوالہ شافی: ازرائی مدبر، عققرحہ، شکر ف، زریخ، مویاکی، سلاجیت، زعفران، ایون، جدوار، ظالی تمام برابر وزن شہد بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کر کے شہد سے خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ صالح خون پیدا کرتی ہے بجلی کی مانند تیز اور زوردار ہے نہایت اعلیٰ درجہ کی مغلظ منی ہے۔

951- معجون نشاط

عنایت: جناب حکیم چراغ الدین صاحب ہوشیار پور (ہند)۔

ہوالشافی: بہن سرخ و سفید حب آلاس ہر ایک دو تولہ جفت بلوط خونچاں عقرقر جا ہر ایک ایک تولہ تخم ترب چار تولہ نصیہ الثعلب جوزبوا کندز اقا قیا حبث الحدید تخم مثبت سعد کونی ہر ایک ایک تولہ شہد چھبیس تولہ چینی سفید پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس لیجئے پھر شہد اور چینی کا توام بنا کر ترکوزہ ادویات ڈال کر معجون تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: مغلظ منی اعلیٰ درجہ مقوی معدہ مقوی باہ ہے مادہ منویہ بکثرت پیدا کرتی ہے جوانی کی حفاظت کرتی ہے تجربہ شدہ ہے۔

احتمام

ماہیت:

احتمام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خواب دیکھنا یا خواب میں جنسی لذت حاصل کرنے کے ہیں عوام اپنی اپنی زبان میں اسے تعبیر کرتے ہیں مثلاً شیطان آنا بد خوابی کپڑے خراب ہونا وغیرہ۔

اسباب:

فاسد خیالات کی کثرت سوزش و خراش جنسی اعضاء کثرت مباشرت کھلے ماحول یعنی (بے راہ روی) کے ماحول میں رہنا پیٹ کے کیڑے بد ہضمی قبض نرم بستروں پر سونا رات کو دیر سے سونا شکم سیری تیز مصالحہ جات کا کثرت استعمال چٹ پٹی غذاؤں کا کثرت استعمال گانے باجے سننا انٹرنیٹ کا غلط استعمال ٹی وی کے نقش و عریانی مناظر دیکھنا وغیرہ۔

علامات:

نیند میں خواب کی حالت میں اور بعض اوقات بغیر خواب کے انزال ہو جاتا ہے عموماً شروع شروع میں خواب کے ساتھ انتشار کی حالت میں لذت محسوس کرتے ہوئے احتمام ہو جاتا

بے مکر مرض کی شدت کی صورت میں بے خبری میں بغیر خواب کے اور بغیر انتشار کے ہر روز یا بعض اوقات دو دو مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے۔

جسمانی یا دماغی شدید محنت پر بے دم ہونا خیالات کا منتشر رہنا حافظہ شدید کمزور قوت ارادی غیر مستحکم بسا اوقات درد سر کمر میں درد اکثر عصبی درد کبھی سینہ میں کبھی چہرہ میں کبھی رانوں میں تو کبھی پنڈلیوں میں بعض اوقات پیشاب کی نالی میں جلن خصیتین میں ہلکا ہلکا درد سماعت متاثر ہوتی ہے چہرہ زرد جسم کمزور آنکھیں اندر دھنسی ہوئی آنکھوں کے گرد حلقے مزاج میں چڑچڑاہن آلات تناسل کی کمزوری خصیتین کا سکڑ جانا عضو کا سکڑ جانا ڈرپوک بزدل اور کمزور ہونا ناامید ہونا ضعف بصارت ضعف ہضم بعض اوقات مرگی جنون مایو لیا تہائی پسندی وغیرہ وغیرہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

952- اکسیر احتلام

عنایت: جناب حکیم محمد محسن علی خان نیازی صاحب مظفر نگر۔

ہوالشافی: بہن سرخ بہن سفید عقرقر جا خارخک تخم اونگن موصلی سفید بیدانہ گوند کیکر موچس ثعلب مصری پھلی بیول کشتہ قلعی زعفران ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے کشتہ ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: احتمام کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کی معمولی مطب دوا ہے مادہ منویہ کو غلیظ کرتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔

953- خاصی

عنایت: جناب حکیم عطا محمد صاحب بڑانہ جھنگ۔

ہوالشافی: بوپھلی پانچ تولہ سیبوس اسپتول دو تولہ مغز املی خورد پانچ تولہ موصلی سفید پانچ تولہ مصطلی روی ایک تولہ کشتہ عقیق چھ ماشہ کشتہ مرجان چھ ماشہ کشتہ قلعی چھ ماشہ نبات سفید آٹھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے کشتہ جات ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے جریان احتمام اور امساک میں مفید الاثر دوا ہے جسم میں رطوبات کا اضافہ کرتی ہے مادہ منویہ میں اضافہ کرتی ہے گاڑھا کرتی ہے سرعت انزال کی دشمن دوا ہے مقوی بھی ہے۔

954- احتلامی

عنايت: جناب حکیم عبدالکریم صاحب پکا باغ جالندھر (ہند)۔
ہوالشافی: 'حم قنب' کندر، جفت بلوط، گلزار برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا کر خوب نخودی تیار فرمائیے اور محفوظ کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: تین گولی روزانہ رات سوتے وقت ہمراہ آب تازہ لیجئے۔
فائدہ: احتلام کے لئے بے حد مفید دوا ہے جسم میں الکلائن پیدا کرتی ہے۔

955- راحت جان

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم احمد شاہ صاحب بصیر پورا دکاڑہ۔
ہوالشافی: 'تالکھانہ' بنج بند، گوکھر، مازو، مائیں، اندر جو، گل دھاوا، موجرس، سمندر سوکھ پیر،
 بنج بانہ ہر ایک ایک تولہ، اقا قیاد تولہ، مصری چار تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا لیجئے اور محفوظ کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: سات ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں دیجئے۔
فائدہ: احتلام اور لیکوریا کے لئے نہایت مجرب دوا ہے۔

956- سکون

عنايت: جناب حکیم نور محمد صاحب صدر بازار راولپنڈی۔
ہوالشافی: مغز توری، تلخ، مغز تمر ہندی، افتیمون برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے خوب نخودی لعاب صمغ عربی میں پالنے
 خشک ہونے پر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ آب تازہ یا لسی خام دیجئے۔
فائدہ: احتلام وغیرہ میں تریاتی نسخہ ہے۔

957- نرم

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم احسان علی صاحب چاند پور بجنور (ہند)۔
ہوالشافی: بہن سرخ، بہن سفید ایک ایک تولہ، سبوس اسپغول پانچ تولہ، ثعلب مصری ایک
 تولہ، صمغ عربی چھ ماشہ، مغز تمر ہندی دو تولہ، قند سفید برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پورڈر بنا کر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

شام لقمائی فارمولے
فائدہ: احتلام کے لئے نہایت مفید دوا ہے جسمانی طاقت بحال کرتی ہے مادہ منویہ کثرت سے
 پیدا کرتی ہے۔

طغرے

فرائی ایٹ کونین سائٹراس دس گرین ہمراہ آب تازہ رات سوتے وقت لیجئے۔
 * گوند کتر ادو ماشہ ایک پاؤ دودھ میں بجگو کر نہار منہ میٹھا ڈال کر پی لیجئے۔
 * کوئیل ڈھاک اور گڑ برابر وزن لے کر نخودی خوب بنا کر صبح و شام کھائیے۔
 * پوناشیم برومائید اور کلورل ہائیڈریٹ برابر وزن پندرہ گرین لے کر رات کو پانی سے کھا
 لیجئے۔
 * کیمبر مونو برومائید پانچ گرین کی نکیہ رات کو پانی سے لیجئے۔

958- حب احتلام

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم محمد اعظم نقشبندی صاحب سردار آباد فیصل آباد۔
ہوالشافی: پوناشیم، برومائید، تخم جوز مائل، مرچ سیاہ ہر ایک ایک تولہ، کافور چھ ماشہ، کشتہ قلعی
 چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے لعاب صمغ عربی سے نخودی خوب تیار
 کر لیجئے اور اوپر ورق چاندی چڑھا دیجئے۔
ترکیب استعمال: رات سوتے وقت ایک گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: پہلے دن ہی ہی سے احتلام رک جاتا ہے ذکاوت حس کے لئے چوٹی کا نسخہ ہے۔ آٹھ
 یا دس دن ہی کافی ہیں۔

959- حب رحمت

عنايت: جناب حکیم عبدالخالق صاحب شاہدرہ لاہور۔
ہوالشافی: زبسی عمدہ ایک تولہ، کوکنار ایک تولہ، میٹھا تیلیہ مدبر ایک تولہ، شیر برگد چھ تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو لے کر خوب باریک کر کے شیر برگد میں خوب کھل کر لیجئے
 جب گولی باندھنے کے لائق ہو جائے تو خوب نخودی بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی سہ پہر ہمراہ شیر گرم سے کھلا دیجئے۔ اساک
 کے لئے ایک گولی بوقت شب استعمال کیجئے۔
فائدہ: جریان احتلام، ذکاوت حس، سرعت انزال، رقت اور سرعت میں نہایت مفید دوا ہے
 مایوس مریضوں کے لئے پیام شفا ہے لازمی بنا کر استعمال کیجئے حیرت انگیز فوائد برآمد ہوں گے۔

عنايت: جناب حکیم محمد رفیق صاحب کلکتہ (ہند)۔

هو الشافى: شقائق مصری، موصلی سفید، موصلی سیاہ، تالمکھانہ ستاور، عققرقا، ثعلب مصری

ہر ایک ایک تولہ، کوزہ مصری سات تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح نو ماشہ سہ پہر ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم۔

فائدہ: احتلام کے لئے بہترین اثرات کی حامل دوا ہے سہل الحصول اور سستا علاج ہے۔

ذکات حس

ذکات حس کے معنی ہیں احساسات میں تیزی یہ اصطلاح خصوصاً جنسی تحریک کے لئے بولی جاتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جسم کے اندر جس قدر احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق اعصاب سے ہے۔

اسباب:

جنسی خیالات کو بار بار ذہن میں لانا، بے راہ روی کا شکار ہونا، اعصاب کے اندر تحریک پیدا ہونا، ذہن کے ایک خاص حصہ میں سوزش کے باعث خیالات میں انتشار پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جلق، کثرت مباشرت، اغلام میں مبتلا رہنا وغیرہ۔

علامات:

شوق مباشرت بہت زیادہ ہوتا ہے جب کہ قوت مباشرت بہت کم ہوتی ہے ہر وقت جنسی خیالات میں مست رہنا و طیرہ بن جاتا ہے مادہ منویہ بکثرت پیدا ہوتا ہے اعضائے زیر کزور ہو جاتے ہیں سستی و کاہلی زیادہ ہو جاتی ہے کام کاج سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہلکی قبض ہو جاتی ہے بعض اوقات اسہال شروع ہو جاتے ہیں نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات صرف خیالات میں ہی مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے عضو تناسل میں استرخاء پیدا ہو جاتا ہے سختی میں کمی آ جاتی ہے عضو تناسل کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے حق زوجیت پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

اصول علاج:

ذکات حس کو ختم کرنا، جریان کو ختم کرنا اور مقوی و محرک اغذیہ کا استعمال ہی مراد ہے۔

شہس لقمانی فارمولے
حت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔

961- اکسیر ذکات حس

عنايت: جناب حکیم رحمت علی صاحب احمد آباد (ہند)۔

هو الشافى: تخم خرزہ، تخم کاہو، مغز خیارین، مغز کدو، مغز کشیز، برادہ صندل سفید، طباشیر، گل نیلوفر ہر ایک ایک تولہ، نبات سفید تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: سات ماشہ تازہ پانی سے صبح و شام دیجئے۔

فائدہ: ذکات حس کو دور کر کے جریان کا خاتمہ کر دیتا ہے گرمی مثانہ اور حرقت البول میں مفید ہے۔

962- اکسیر ذکات حس

عنايت: جناب حکیم محمد مشتاق قادری صاحب جیکب آباد سندھ۔

هو الشافى: جنگ ہرڑ چار تولہ، آملہ چار تولہ، کشتہ فولاد دو تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں دواؤں کو خوب پورڈر کر لیجئے اور کشتہ ملا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح دو پہر شام ہمراہ آب تازہ یا دودھ پتی دیجئے۔

فائدہ: ذکات حس کو حالت اعتدال پر لاتا ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔

سرعت انزال

تعریف مرض:

مباشرت کے وقت طبعی مدت سے کم وقت میں مادہ منویہ کے اخراج کو سرعت انزال سے تعبیر کرتے ہیں یہ ایک ایسا عارضہ ہے جو فعل مباشرت کی تکمیل میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔

طبعی انزال:

دوران مباشرت انزال کی طبعی مدت عموماً دو تین منٹ سے پانچ تا دس منٹ ہو سکتی ہے لہذا تندرست آدمی کے لئے یہ مدت بہت ہی مناسب ہے اس سے زیادہ مدت کے طلب گار لذت اور سرور کے خواہش مند ہوتے ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ بعض افراد میں ایک منٹ یا

ذیادہ مدت ہوتی ہے لہذا یہ مدت بھی طبعی ہے جب کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ مدت غیر طبعی ہے۔

غیر طبعی انزال:

طبعی مدت سے پہلے منی کا اخراج غیر طبعی انزال کہلاتا ہے مثلاً دخول کے ساتھ ہی منی کا اخراج ہو جائے یا دخول سے پیشتر ہی انزال ہو جائے یا صرف مباشرت کے بغیر خوبصورت شکل دیکھ کر ہی انزال ہو جائے یہی صورتیں سرعت انزال میں شمار کی جاتی ہیں۔ نہایت ہی خطرناک ہیں۔ بعض اوقات طبعی مدت سے بہت زیادہ دیر بعد انزال ہو خواہ یہ دوا یا مرض یا انزال کی حرکات کے باعث ہو یہ بھی نہایت خطرناک صورت ہے کیونکہ اس سے اعضائے خصوصیہ ضعف، استرخاء اور پیدائش منی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں نیز عورت کے رحم میں درم خون اور دیگر امراض جنم لیتی ہیں۔

اسباب:

کثرت ملاپ یا جلق، حدت و حرارت منی، کمزوری اعضائے رئیسہ پیشاب کی سوزش، درم غدہ مذی، گردوں میں حرارت کی زیادتی یا درم گردہ سوزاک، خصیتین کی سوزش و گردوں میں سوزش وغیرہ۔

علامات:

مباشرت میں دخول سے فوراً بعد یا دخول سے پہلے باہر ہی یا پھر خیال مباشرت سے خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہی انزال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کامل انتشار بھی نہیں ہوتا اور طبعی انزال نہیں ملتی عورت کی تسکین پوری نہیں کر پاتا اور مرد زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہے جو کہ حرام ہے۔

علاج:

درج ذیل نسخہ جات میں سے حسب ضرورت استعمال کیجئے۔

963- اکسیر مقوی

عنايت: جناب رئیس الحکماء حکیم ناصر الدین احمد خان صاحب رئیس اعظم دہلی (ہند)۔
ہوالشافی: فلفل سیاہ، فلفل دراز، سم الفار سفید، افیون، سہاگہ ہر ایک ایک تولہ، قرنچہ دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کیوڑہ میں خوب کھرل کیجئے اور دانہ خشکاش ہر ایک

شام لقمانی فارمولے
تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی بعد غذا ملائی میں پیٹ کر کھائیے۔

فائدہ: بھوک خوب لگتی ہے مقوی باہ ہے اعلیٰ درجہ کی مسک ہے سرعت انزال میں نہایت مفید دوا ہے۔

964- امساکولین

عنايت: ممتاز الاطباء جناب حکیم محمد عاقل صاحب شریف منزل دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: پارہ مصفیٰ ایک تولہ، سم الفار سفید ایک تولہ، افیون ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے یہاں تک کہ چار یوم کھرل کریں کہ پارہ تابود ہو جائے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: آدھ چاول ہمراہ مسکہ گاؤ کھلائیں۔

فائدہ: امساک کے لئے نہایت کامیاب دوا ہے قوت باہ کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔

965- حب جیم

عنايت: جناب حکیم تکلیل خان صاحب محراب پور نواب شاہ باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: جائقل، جلوتری، افیون، مازو، گل سرخ، سپاری مصطکی، زعفران، تاگیسر، موجس، دانہ الاچنی، کلاں، طباشیر، اجوائن خراسانی، ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے اسپغول کے لعاب میں خوب دانہ موجس کے برابر بنا لیجئے اور خشک ہونے پر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: وقت خاص سے ایک گھنٹہ پہلے تین یا چار گولیاں ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: نہایت فائدہ مند دوا ہے جو امساک کی گھڑیوں کو جلا بخشتی ہے۔

نوٹ: بوقت ضرورت ایک گھنٹہ پہلے تین گولی شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

966- حب سرعتی

عنايت: جناب حکیم محمد ریاضت حسین چین پور شاہ آباد (ہند)۔

ہوالشافی: زعفران کبابہ، دارچینی، عقرقرحہ، ریگ، مائی، مشک، مایہ شتر اعرابی، عنبر اصلی، کشتہ فولاد سلاجیت برابر وزن، شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کیوڑہ میں خوب کھرل کیجئے اور نخودی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت دو گھنٹے پہلے ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: اعلیٰ درجہ کی مسک دوا ہے اس کا کوئی نسخہ ثانی نہیں۔

967- حب عشرت

عنايت: رئیس الاطباء جناب حکیم محمد حبیب اللہ صاحب گولڈ میڈلسٹ اجمیر شریف (ہند)۔
ہوالشافی: لوہان کوڈیہ تین ماشہ جدوار خطائی نو ماشہ جوزبوا پانچ ماشہ شکر فہم پانچ ماشہ الفار چھ ماشہ مومیائی کافی تین ماشہ مغز جوزہندی چھ ماشہ مغز پستہ چھ ماشہ زعفران تین ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں خوب کھل کیجئے اور پھر چھوہاروں کی گولیاں نکال کر ان میں بھر دیجئے اور آٹا لپیٹ کر بھوبھل میں دبا کر خوب بریاں کیجئے پھر نکال کر گزنی کوٹ کر خودی جوہ تیار کر لیجئے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ رات سوتے وقت ہمراہ شیر گاؤ شیریں کھلا دیجئے۔
فائدہ: مولد خون مقوی باہ محرک اعصاب، مستحی و مقوی اعضائے رئیسہ مسک لاجواب بہ پرہیز: مرغن غذائیں خوب استعمال کیجئے۔ (تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

968- حب سرعت

عنايت: جناب حکیم سید اعجاز حسین صاحب گواؤ ضلع نماڑ (ہند)۔
ہوالشافی: جائقل، جفت بلوط، خونچاں، ایون ہم وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کر کے خودی جوہ تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: وقت خاص سے دو گھنٹے پہلے ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال کے لئے لاجواب دوا ہے۔

969- حب امساکی

عنايت: جناب حکیم نور احمد قریشی صاحب بٹالہ گورداسپور (ہند)۔
ہوالشافی: شکر فہم، روئی، مرچ سیاہ، قلفل دراز، پھنکوی سفید برابر وزن، شہد بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھل کر کے شہد سے خودی جوہ تیار کر لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی بوقت عصر دودھ گھی نیم گرم سے کھلا دیجئے۔

فائدہ: جنسی کمزوری کو ختم کرتی ہے اور امساک پیدا کرتی ہے نہایت مفید اور کامیاب دوا ہے۔

970- کشتہ طلا پلڑ

عنايت: جناب حکیم امام الدین صاحب ڈچکوٹ فیصل آباد۔
ہوالشافی: (1) طلا خالص تین ماشہ تیزاب گندھک ایک تولہ۔
 (2) ایون مسک، اسکندناگوری ہر ایک تین تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے طلا کے باریک باریک پترے کر کے کاٹ لیجئے اور آتش شیشی میں ڈال کر اور تیزاب گندھک ڈال کر نیچے ہلکی ہلکی آنچ دیجئے جب تیزاب خشک ہو تو طلا سفید کشتہ برآمد ہوگا اگر پہلی مرتبہ کشتہ نہ ہو تو دوسری مرتبہ پھر تیزاب ڈال دیجئے اور ہلکی آنچ دیجئے کشتہ حاصل کر کے 2 نمبر ادویات کو خوب باریک کر کے اس میں مذکورہ کشتہ ملا کر جوہ قلفل سیاہ برابر بنا کر سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی علی الصبح نہار منہ ہمراہ مسک استعمال کیجئے۔
فائدہ: قوت باہ و امساک کے لئے مخصوص لاجواب دوا ہے جس کی مثال نہیں آزمائے ضرور۔

971- امسک

عنايت: ابوالحکمت جناب حکیم غلام محمد صاحب سید مٹھالا ہور۔
ہوالشافی: مصطکی رومی، قلفل گرد، عود ہلدی، زعفران، دارچینی، پوست ترنج ہر ایک دو تولہ، چند بیدستر چار ماشہ، ایون پچاس گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور قلفل سیاہ برابر جوہ تیار کر لیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک سے تین گولیاں ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: امساک کے لئے نہایت لاجواب دوا ہے۔ سرعت انزال کا خاتمہ کر دیتی ہے قوت شباب کو چار چاند لگا دیتی ہے۔
نوٹ: گھی محسوس کریں تو دودھ دیسی گھی ملا دیجئے۔

972- دوائے نشاط

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکیم سید محمد تقی صاحب کریم نگر (ہند)۔

ہوالشافی: اوٹنگن، ایون خالص، تخم فرنجشک، قرفل، جوزبوا، زعفران خالص ہر ایک تین گرام، چند بیدستر، مایہ شتر اعرابی، بزرانج، مشک خالص، ورق نقرہ ہر ایک دو گرام، ورق طلا ایک گرام، شیر برگد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر برگد میں خوب کھل کیجئے اور جوہ بننے پر دانہ موگ

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ عرق عنبر پانچ تولہ عرق ماہ الحسین یا باہ تولہ دیجئے۔

فائدہ: نشاط اور سرور کا نایاب مرکب ہے مقوی و محرک نسخہ ہے نہایت امساک پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے مایوس سے مایوس انسان کو خوش کرنے میں لاجواب ہے پہلی خوراک عین صبح ہونی چاہئے۔

973- امساک

عنايت: جناب حکیم ظہور الحسن صاحب نامہ (ہند)۔

ہوالشافی: پارہ مصفی سم الفار، افیون ہم وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آٹھ پہر خوب کھرل کیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: نصف چاول کھن میں یا ملائی میں ملا کر استعمال کیجئے۔

فائدہ: سرعت انزال اور تقویت باہ کے لئے مخصوص لاجواب دوا ہے اگر جماع کرتے کرتے تھک جائیں تو کوئی ترش چیز کھا لیجئے۔

974- حب باہ

عنايت: جناب حکیم سردار علی قادری بغدادی صاحب لال کڑتی بازار راولپنڈی۔

ہوالشافی: گندھک آملہ سار ایک ماشہ پارہ بیس ماشہ کھتہ سرخ دس ماشہ لوئنگ دس ماشہ دانہ الاچھی کلاں ڈیڑھ ماشہ زعفران ڈیڑھ ماشہ زردی بیضہ مرغ دو عدد شہد خالص ڈیڑھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کر لیجئے جب کہ گندھک و پارہ کی الگ کھلی تیار کر لیجئے پھر شہد ملا کر حب بقدر نخودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ صبح و شام دو وقت دیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ مسک مغلظ و مولد منی ہے تقویت باہ کے لئے خصوصیت سے فائدہ مند ہے۔

975- اکسیر باہ

عنايت: جناب حکیم سید گل احمد شاہ صاحب سید و شریف سوات۔

ہوالشافی: شکر ف ایک تولہ زردی بیضہ مرغ آٹھ عدد کستوری خالص ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے جب گولیاں بنانے کے لائق ہو جائے، نخودی خوب بنا کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: قوت باہ کے بڑھانے میں بہت مفید اور مجرب ہے اور سرعت انزال کا خاتمہ کرتی ہے حرارت عزیز کی قائم رکھتی ہے پرلے درجے کی مقوی باہ دوا ہے۔

976- اکسیر لازم

عنايت: جناب حکیم حافظ نور محمد صاحب متھا جائی میانوالی۔

ہوالشافی: جوہر ازرقی ایک ماشہ ریوند خطائی دو تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب گرینڈ کر کے شہد کی مدد سے دانہ موگ برابر خوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: موسم سرما میں ایک گولی رات سوتے وقت شیر گاؤ روغن زرد ملا استعمال کیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ و امساک کے لئے بے حد مفید دوا ہے۔

977- اکسیر اعلیٰ

عنايت: جناب حکیم ایس اے ماجد صاحب تھکی پور پٹنہ (ہند)۔

ہوالشافی: سم الفار سفید ایک تولہ مرغ جوان دیسی ایک عدد۔

ترکیب تیاری: تمام سم الفار مرغ کو کھلا دیجئے جب مرنے لگے تو ذبح کر دیجئے پھر سینہ کا گوشت خشک کر کے پورڈر بنا کر سنبھال لیجئے جب کہ دیگر گوشت دفن کر دیجئے۔

ترکیب استعمال: تین رتی پورڈر ایک پاؤ قیرمہ بکرا میں ملا کر خوب کھا لیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ اور امساک کے لئے اکسیر الاثر دوا ہے عمر رسیدہ اشخاص کو تقویت عطا کرتا ہے۔

نوٹ: کھی گاؤ خوب استعمال کیجئے۔

978- اکسیر باہ

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم سردار بخش صاحب ٹھٹھی لمی شاہ پور۔

ہوالشافی: عنبر ایک تولہ مشک خالص ایک تولہ سرکہ انگوری خالص ایک بوتل۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو سرکہ انگوری میں ڈال کر چالیس یوم تک دھوپ میں رکھیں بعدہ مقطر کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین چھ ماشہ رات سوتے وقت پی کر اوپر سے گرم دودھ نوش فرمائیے۔

فائدہ: قوت باہ کے لئے بھروسہ کی دوا ہے مشیروں اور وزیروں کے استعمال کی چیز ہے۔

نوٹ: دوا کے بعد پانی ہرگز استعمال نہ کیجئے۔

979- حب امسا کو

عنايت: جناب حکیم عبدالرحیم صاحب کوٹ دادن مظفر گڑھ۔

هو الشافی: لوبان کوڈیہ چھ ماشہ شکر ف روی چھ ماشہ شیر برگد از حاک توله افیون تین ماشہ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر برگد میں خوب کھل کیجئے یہاں تک کہ گولی بننے کے قابل ہو جائے نخودی گولیاں بنا کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ رات کو سوتے وقت کھالیا کیجئے۔
فائدہ: اساک کے لئے بہت مفید دوا ہے قوت باہ بڑھاتی ہے۔

980- حب مسک

عنايت: جناب حکیم قاضی فقیر محمد صاحب لیہ ضلع مظفر گڑھ۔

هو الشافی: شکر ف روی لوبان کوڈیہ کافور افیون خالص برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے حتی کہ خوب بنانے کے قابل ہو جائے ہر نخودی گولیاں بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال کا خاتمہ کر کے حقیقی شباب پیدا کرنا اس کا ادنی سا کرشمہ ہے۔

981- مسک لاجواب

عنايت: حکیم امر چند صاحب ٹولکھا زیرہ فیروز پور (ہند)۔

هو الشافی: شکر ف لوگ زعفران افیون ہنگ جلوتری برابر وزن آب پیاز بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پس کر آب پیاز میں تین یوم تک کھل کیجئے اور خوب نخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی سادہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے نہایت مفید دوا ہے۔

982- تریاق سرعت

عنايت: جناب حکیم منشی دیوید یال صاحب گنجاہ ضلع گجرات (ہند)۔

هو الشافی: مغز املی دو توله الاٹھی خورد دست بروزہ تخم زردک مدبر شیر بوہڑ ہر ایک ایک تولا کشتہ قلعی در بھنگ چھ ماشہ شہد بقدر مناسب۔

شمس القمانی فارمولے
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر شیر بوہڑ اور شہد میں خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: سینکڑوں مرتبہ کا آزمودہ و مجرب نسخہ ہے سرعت انزال کا خاتمہ کر دیتا ہے کبھی خطا نہیں ہوتی۔

983- ملذذ آفتاب

عنايت: جناب حکیم صدر الدین صاحب کچیاں شیخوپورہ۔

هو الشافی: عنبر چاررتی کستوری چاررتی عقرقر چھ ماشہ گل عقرقر چھ ماشہ گلو لوگ دارچینی ہر ایک ایک چھ ماشہ پنجابی کبوتر صحرائی دو ماشہ موم سفید ایک توله زہرہ گوش دو عدد شہد خالص تین تولا۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب گرینڈ کر لیجئے پھر زہرہ گوش اور شہد ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت نصف رتی نیچے اور اوپر لگا کر مشغول ہو جائیں۔
فائدہ: اعلیٰ درجہ کا لذت افزا ہے شدید شہوت آلی ہے جس عورت کے پاس یہ ملذذ لگا کر جائے ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائے سرور کے لمحات کو طوالت عطا کرتا ہے سرعت انزال کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

984- حب مسک عنبری

عنايت: حکیم عبداللطیف صاحب سیالکوٹ۔

هو الشافی: افیون زعفران مشک خالص عنبر اشہب ہر ایک ایک ماشہ عرق لیوں کاغذی بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق میں خوب کھل کیجئے اور دانہ موٹھ برابر گولیاں بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی ضرورت سے دو گھنٹے پہلے استعمال کیجئے۔

فائدہ: حسب خواہش اساک پیدا کرتی ہیں قوت کو مضبوط اور اس میں تحریک بھی پیدا کرتی ہیں مقوی و مسک اعلیٰ درجہ کی ہیں۔

985- امسا کولین

عنايت: جناب حکیم عبدالجید صاحب کریم پورہ سیالکوٹ۔

هو الشافی: کبابہ دارچینی عقرقر چھ ماشہ مائی خولجاں زعفران نہجوز ہوا ہر ایک چھ ماشہ افیون

تین ماشہ، ترنفل تین ماشہ، مشک خالص دو ماشہ، ورق نقرہ دو ماشہ، ورق طلا ایک ماشہ، ورق کرہ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق کریلا میں خوب کھرل کیجئے اور پھر خوب نمودی تیار کر لیجئے اور محفوظ فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولیاں ہمراہ عرق ماء اللحم دن میں دو مرتبہ صبح و شام دیکھئے۔
فائدہ: تقویت باہ اور اسماک کے بڑھانے میں خصوصیت سے مفید اور مجرب ہے۔

986- مسک بے نظیر

عنايت: جناب حکیم محمد ایوب خان صاحب سرائے میراں شاہ بنوں۔

هو الشافی: شکر ف رومی دو تولہ، آب پیاز پچاس گرام، چڑے دو عدد، روغن زرد آرد، زعفران پانچ ماشہ، ایون خالص چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: خشک ادویات کو آب پیاز میں خوب کھرل کیجئے پھر ایک چڑے کے پھلے میں ڈال کر سی دیجئے اور روغن زرد میں بریاں کیجئے پھر دوسرے چڑے میں یہی عمل کیجئے اور کوٹ چھان کر سنبھال کر رکھئے۔

نوٹ: پہلے چڑے کو آلائش وغیرہ سے پاک کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی صبح و شام ہمراہ مسک دیجئے۔

فائدہ: اسماک کی لاجواب دوا ہے لذت و قوت بے انتہا پیدا ہوتی ہے جوانی کو مستانی کرتی ہے سرعت انزال کے پڑنچرے اڑا دیتی ہے۔ (تخریج حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

987- اکسیر مقوی و مسک

عنايت: حکیم سید وجیہ الحسن صاحب گکرولی مظفر نگر (ہند)۔

هو الشافی: شکر ف رومی دو تولہ، جوزبوا، بزرانج، مائیں، ایون، عقرقرحا، حل مصطلی، ترنفل ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب سلق بلغ کیجئے پھر سنبھال کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: نصف ماشہ روزانہ ملائی میں رکھ کر کھلا دیجئے اوپر سے شیر گاؤنم پلا دیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ کے لئے خاص الخاص چیز ہے اور سخت اسماک لاتا ہے۔

988- زعفرانی پلڑ

عنايت: جناب حکیم سید محمد یوسف صاحب کولوٹولہ اسٹریٹ کلکتہ (ہند)۔

هو الشافی: چرس کشمیری چھ ماشہ، زعفران چھ ماشہ، دارچینی، ثعلب مصری، الاچھی خورد، مغز بادام، مغز پنبہ دانہ، ناریل، بہن سرخ، بہن سفید ہر ایک اڑھائی تولہ، جوزبوا ڈیڑھ تولہ، صندل سفید، تودری سرخ، تودری سفید ہر ایک دو تولہ، جندبید ستر پانچ تولہ، قند سفید، شہد خالص سہ چند۔

ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو خوب باریک کر کے شہد و قند سفید کا توام بنا کر دیگر ادویات ملا کر بطریقہ معروف معجون تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ رات سوتے وقت ہمراہ دودھ دیجئے۔

فائدہ: نہایت مقوی باہ و مغلظ منی دوا ہے اسماک کی گھڑیوں کو خوب طول دیتی ہے خوب انتشار پیدا کرتی ہے چند روزہ استعمال سے جوانی لوٹ آتی ہے نہایت بھروسہ کا نسخہ ہے۔ (تخریج جناب حکیم عبدالوحید عطاری)۔

989- حب افلاطون

عنايت: زبدة الحکماء جناب حکیم عبدالجبار خان صاحب محلہ خیر اللہ شاہ صاحب پہلی بھیت (ہند)۔

هو الشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، شکر ف ایک تولہ، ایون خالص ایک تولہ، زردی بیضہ مرغ اکیس عدد۔

ترکیب تیاری: روزانہ ایک عدد زردی انڈا ادویات میں خوب کھرل کرتے جائیں اس طرح اکیس دن تک کیجئے پھر خوب نمودی تیار فرمائیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ روغن زرد ملا دیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ مقوی باہ اور سرعت انزال کا تریاق دوا ہے جوانی بہاروں پر آ جاتی ہے نامرد بھی مرد کامل بن کر چار نکاح کرنے پر اسرار کرتے ہیں۔

نوٹ: مرغن غذائیں بکثرت کھائیے۔

990- حب طاغوتی

عنايت: جناب حکیم ہری سنگھ صاحب گلیانہ گجرات (ہند)۔

هو الشافی: پارہ ایک تولہ، سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد۔

ترکیب تیاری: دونوں کو تین پہر کھرل کیجئے پھر ایک چڑے کو ذبح کر کے آلائش سے پاک کر کے پیٹ میں دوا ڈال کر سلائی کر دیجئے اور سلائی پر لگا کر بھون کر سرخ کیجئے پھر ہڈیاں نکال کر دوا کو خوب باریک کر لیجئے اور شہد کی مدد سے خوب نمودی بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ درجہ کی مقوی ہے سرعت انزال کا خاتمہ کرتی ہے اعلیٰ پایا کانسزہ ہے۔

991- اکسیر بابا

عنايت: جناب حکیم مرزہ عبدالغنی صاحب ڈرکشازم ایسٹ گوداروری (ہند)۔

ہوالشافی: جاتفل کھتہ سفید لوگ، ایون، تخم خشخاش، گلنار برابر وزن، آب کریلا بقر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب کریلا میں دو دن خوب کھل کیجئے اور حسب خوردگی تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی پان میں رکھ کر چبائیے اور نزدیک چائیے۔

فائدہ: تقویت باہ اس قدر پیدا ہو کر عقل دنگ رہ جائے بے حد انتشار پیدا ہوتا ہے عورت نے ملے تو بے قراری ہو جاتی ہے اور سرعت انزال دم دبا کر نکل جاتا ہے۔

992- حب شیخ

عنايت: جناب حکیم ایم شیخ احمد صاحب سلیم (ہند)۔

ہوالشافی: نصیۃ العلب، مصطلگی رومی لاکھ دانہ ہر ایک برابر وزن، شیر بڑ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر بوہر میں کھل کیجئے اور بخودی جوب تیار کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ روزانہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: سرعت انزال کا خاتمہ کرنے میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔ اکتالیس یوم متواتر استعمال کریں۔

993- حب کمال

عنايت: جناب وید جاگی داس صاحب پٹیالہ (ہند)۔

ہوالشافی: چھوہارا ایک عدد دودھ آک ایک تولہ ایون ایک ماشہ پارہ مصغنی چھ ماشہ آرد ماش پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: پارہ اور ایون کو دودھ میں خوب کھل کر کے چھوہارے کی گھٹلی نکال کر اس میں بھر دیجئے اور اوپر سوت کا دھاگہ لپیٹ کر اوپر آرد ماش کو لیپ کر کے غلولہ بنا لیجئے پھر بھول تیز میں دے دیجئے جب غلولہ سرخ ہو جائے تو نکال کر چھوہارا نکال کر خوب کھل کیجئے اور دانہ موگ برابر جوب بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ روزانہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: بے نظیر دوا ہے جو مقوی و مسک ہے ایک مرتبہ کھانے سے ساری زندگی آرام سے گزر جاتی ہے نہایت بھروسہ کانسزہ ہے۔

994- ملذذ و مسک

عنايت: جناب حکیم حسن بھائی صاحب دھوراجی کالھیا واڑ (ہند)۔

ہوالشافی: سہاگہ خام بیٹ صحرائی کبوتر، کانوز چوبہ عود خالص ہر ایک ایک ماشہ عقرقرحا، خاکستر، موئے سرعورت ایک ماشہ، بمیر بونی بریاں در روغن گاؤ دو ماشہ، عطر گلاب تین بوند، شہد ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کر کے شہد اور عطر ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: قبل از جماع ایک رتی عضو تناسل پر ماش کر کے مشغول ہوں۔

فائدہ: اساک میں چوٹی کانسزہ جو بے حد مسک ہے جس عورت سے جماع کیا جائے ساری زندگی غلام بن جائے خوب دونوں کو لطف و سرور آئے۔

995- فریفتگی طلاء

عنايت: جناب حکیم فتح محمد منجگرائیں راجوری جوں و کشمیر۔

ہوالشافی: عقرقرحا، لوگ، مومیائی زفت، عطر حنا، عطر زمس، گلاب و خرس برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر عطریات ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک رتی عضو پر ماش کر کے مشغول ہوں۔

فائدہ: نہایت مقوی باہ اور مسک و ملذذ اور منزل ہے ملذذ اس قدر ہے کہ رحم خود بخود اس کی طرف آ جاتا ہے کئی عورتیں اس نسخہ کے استعمال سے حاملہ ہو گئیں ہیں نہایت مفید و مجرب ہے۔

996- حب مسک

عنايت: جناب حکیم محمد فضل الرحمن خان صاحب نالہ گڑھ انبالہ (ہند)۔

ہوالشافی: ایون چار رتی، زعفران اصلی ایک ماشہ، جوز بوا چھ رتی، قرنفل چھ رتی، جند بیدستر ایک ماشہ، تخم لکھی ایک ماشہ، اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی، عقرقرحا، سہاگہ ہر ایک ایک ماشہ، تخم دھتورہ تین دانہ، چھوہارا ایک عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور چھوہارے کی گھٹلی نکال کر اس میں بھر کر اوپر آٹا لپیٹ کر غلولہ تیار کیجئے پھر راکھ گرم میں غلولہ رکھ کر سرخ ہونے پر نکال کر سرد ہونے پر چھوہارا نکال کر باریک پورڈر بنا لیجئے اس کی چار خوراکیں بنا کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے ایک خوراک کھلا کر شیر گاؤ آدھ کلونش

فائدہ: کوئی سائڈ ایکٹ نہیں نہایت لاجواب دوا ہے اعلیٰ درجہ کی مسک اور مقوی دوا۔
ایک مرتبہ ضرور استعمال کیجئے۔

نوٹ: یہ مقدار ادویات ایک خرما کے لئے ہے اسی حساب سے زیادہ تیار کر سکتے ہیں۔

997- حب ارسطو

عنايت: جناب حکیم چوہدری مہاراج کرشن صاحب بھائیہ لالیاں جھنگ۔
ہو الشافی: زعفران خالص، سہاگہ چوکیا، بزرانج ہر ایک چھ ماشہ، آب پوست کوکنار ہر ادر محفوظ رکھئے۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب پوست کوکنار میں خوب سختی بلخ کیجئے اور نخودی حبوب تیار کر کے محفوظ فرمائیے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی مباشرت سے دو گھنٹے پہلے لے لیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔

998- سٹڈ

عنايت: جناب حکیم پنڈت بابورام صاحب روڈ کہ کلاں جالندھر (ہند)۔
ہو الشافی: عروسک تین ماشہ، خراطین تین ماشہ، خاکستر مومے عورت ایک ماشہ، عطر گلاب، رتی، عطر موتیا خالص دورتی۔

ترکیب تیاری: خشک ادویات کو خوب پیس کر عطریات ملا کر طلاء سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک رتی لگا کر مشغول ہو جائیے۔

فائدہ: لذت و امساک میں چار چاند لگا دینا اس کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے ایک مرتبہ آزمائے۔

999- حب جمالی

عنايت: جناب حکیم شمس الدین صاحب کوچہ محمد ری مل دہلی دروازہ لاہور۔
ہو الشافی: ازرائی مدبر، جدوار خطائی، مومیائی خالص، افیون، شکر ف ہر ایک ایک تولہ، زعفران بیر بہوٹی، جوزبوا، کافور ہر ایک چھ ماشہ، شیر برگد پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کر کے شیر برگد میں کھل کیجئے اور گولیاں بنانے کے قابل ہو جائیں تو نخودی حبوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی وقت مباشرت سے دو گھنٹہ پہلے ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال میں لاجواب دوا ہے جب تک ترشی نہ کھائے تو انزال نہ ہونہایت بہ

1000- حب اعظم

عنايت: جناب حکیم غلام قادر صاحب نو کنیش منج لکھنؤ (ہند)۔
ہو الشافی: قرنفل، گلدار، افیون، دارچینی، جلوتری، زعفران، جوزبوا، سمندر سوکھ، مصطکی رومی، بیر بہوٹی برابر وزن، آب برگ تینول بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے آب برگ تینول میں حبوب نخودی بنا لیجئے اور محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔
فائدہ: نہایت اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ دوا ہے سرعت انزال کا خاتمہ کرتی ہے۔

1001- حب احمر

عنايت: جناب حکیم زین العابدین اعوان صاحب پردکیانوالہ فیصل آباد۔
ہو الشافی: مغز تخم تمر ہندی ایک تولہ، سمندر سوکھ، پوست اسپنول، تالمکھانہ، تاج، طباشیر، ہر ایک چھ ماشہ، شیر برگد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شیر برگد میں نخودی حبوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین گولیاں صبح، دوپہر، شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
فائدہ: سرعت انزال، جریان، احتلام میں نہایت جید الاثر دوا ہے متعدد مرتبہ کی تجربہ شدہ دوا ہے۔

1002- روغن اعلیٰ

عنايت: حکیم عباد علی خان صاحب پٹی بجواڑہ ہوشیار پور (ہند)۔
ہو الشافی: شیر گاؤ ایک کلو، زعفران خالص ایک تولہ، سم الفار سفید ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں دواؤں کو خوب کھل کر کے دودھ میں حل کر کے ضامن لگائیے پھر مکھن حاصل کر کے گھی بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دو بوند شیر گاؤ میں ملا کر استعمال کیجئے۔
فائدہ: تقویت باہ کے لئے مجرب مسک اور ملذذ اعلیٰ درجہ کا ہے۔

1003- طلاء محبت

عنايت: جناب حکیم سید صفات احمد صاحب چونا منڈی لاہور۔

هو الشافی: مغز ازرانی ایک تولہ آب کو کنار پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: ازرانی کو آب کو کنار میں بھگو دیجئے جب نرم ہو جائے تو گھوٹ کر گولیاں بنا کر لیجئے اور سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک گھنٹہ پہلی پانی میں کھس کر پتلا سالیپ کر دیجئے۔

فائدہ: جب تک دھوئیں گے نہیں انزال نہیں ہوگا۔

1004- حب مسک

عنايت: جناب حکیم محمد خلیل صاحب نصیر پور نزد تخت ہزارہ ضلع شاہپور۔

هو الشافی: کافور زعفران انیون جوزبوا جوزمائل برابر وزن شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار پورڈر بنا لیجئے پھر شہد میں خوب خودی تیار کر لیجئے اور سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی مباشرت سے دو گھنٹے پہلے استعمال کیجئے۔

فائدہ: تجربہ شدہ دوا ہے جو سرعت انزال کا خاتمہ کر دیتی ہے۔

1005- حب خاص

عنايت: جناب حکیم لدھارام صاحب سنڈھا پانڈھ جھنگ۔

هو الشافی: تخم جوزمائل دو تولہ اجوائن خراسانی ایک تولہ تخم بھنگ دو تولہ کو کنار ایک آڑا

پانی ایک کلو مویر منقی کلاں آٹھ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک کلو پانی میں خوب جوش دیجئے جب پانی آدھ کلورہ جائے

تو نیچے اتار کر سرد کر لیجئے اور چھان کر اس میں مویر منقی کلاں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور تھکے

ہلاتے جائے تاکہ نیچے نہ لگے جب پانی خشک ہو جائے تو اتار کر منقی سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک منقی ہمراہ شیر گاؤ روغن بادام ملا سے ایک گھنٹہ مباشرت سے پلا

استعمال کیجئے۔

فائدہ: دوا استعمال کر کے قدرت کا تماشا دیکھئے اعلیٰ درجہ کا امساک پیدا ہوگا کھٹی چیز یا نمک کا

کر جان چھوڑانا پڑے گی بڑی ہی مفید دوا ہے۔

1006- لاشانی طلاء

عنايت: جناب حکیم محمد مظفر صاحب دولت منج بھلیہ گوالیار (ہند)۔

هو الشافی: پتہ خرگوش دو عدد پتہ مہو کا ایک عدد پتہ مرغ دو عدد قصب ریچھ سوہاں کردہ نو

اش عترت راجہ ماشہ عنبر اشہب دو ماشہ سہاگہ دو ماشہ سرکہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے سرکہ ملا کر پیس کر مرہم تیار کر لیجئے اور

سنبال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت ایک رتی عضو تاسل پر لپ کر دیجئے۔

فائدہ: امراؤ و رؤسا کے لئے نہایت مفید جید الاثر مسک و محرک لاجواب طلاء ہے۔ استعمال

کر کے قدرت خدا کا تماشا دیکھئے۔

1007- مسک قلندری

عنايت: جناب حکیم محمد اشفاق قادری صاحب محلہ سوداگراں باب المدینہ کراچی۔

هو الشافی: سیماب مصفی تین ماشہ گندھک آلمہ سار تین ماشہ انیون جوزمائل جلوتری

جوزبوا زعفران کباب چینی خشک ہر ایک ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے سیماب و گندھک کی الگ کجلی تیار

فرمایجئے ملا کر عرق گلاب میں خوب کھل کر کے شہد کی مدد سے خوب خودی تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام کھانے کے بعد ہمراہ شیر گاؤ سے کھالیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ و مسک اعلیٰ درجہ کی ہے سرعت انزال کا خاتمہ کرنا اس کا معمولی سا کام ہے۔

1008- روشن امساک

عنايت: جناب حکیم محمد واجد صاحب ڈی جی خان۔

هو الشافی: تخم کنوچہ تالکھانہ کوزہ مصری بھکوا ہر ایک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور خوب حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ شیریں بعد طعام دیجئے۔

فائدہ: گرم مزاج کے حامل حضرات کے لئے ایک نئی روشنی ہے مادہ منویہ کو گاڑھا کرنا

سرعت انزال کا خاتمہ کرنا پیشاب وغیرہ کی جلن ختم کرنا اس کا ادنیٰ سا کمال ہے۔ اکیس یوم

کلائیں۔

نوٹ: دیر تک کھلانے سے ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔

ہمس لقمائی فارمولے تمام ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور لعاب بیدانہ میں خوب

تذوی بنالیجئے۔
عنایت: جناب حکیم عبدالمنان ارشد صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
ہو الشافی: مستقل فائدہ کے لئے ایک گولی روزانہ ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور لعاب بیدانہ میں خوب

1012- دوائے سرعت انزال

عنایت: جناب حکیم عبدالمنان ارشد صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
ہو الشافی: موچس پانچ تولہ، عتقرقرا چھ ماشہ، شیر برگد دو تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو شیر برگد میں کھل کر کے نخودی جوہ بنا کر سنبھال کر
تذوی بنالیجئے۔
عنایت: جناب حکیم عبدالمنان ارشد صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
ہو الشافی: دو گولیاں صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔
ترکیب استعمال: نہایت مفید طبی وقت تک سرعت انزال کا خاتمہ۔
فائدہ: نہایت مفید طبی وقت تک سرعت انزال کا خاتمہ۔
نوٹ: نمکین چیز سے پرہیز کیجئے۔

1013- دوائے سنیا سی

عنایت: جناب سنیا سی خدا بخش صاحب جنگل مڑیالہ ملتان شریف۔
ہو الشافی: بو پھلی، سنکھا ہولی، موچس، کمرکس برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔
فائدہ: جنگلی بوٹیوں میں زبردست کمال پنہاں ہے سرعت انزال جیسی شرمندہ کرنے والی مرض
 کو قطع دور کر دیتی ہے طبی امساک پیدا کرتی ہے۔

1014- حب عیش عیش ✓

عنایت: جناب حکیم سلطان محمود اچکزئی کوئٹہ بلوچستان۔
ہو الشافی: جانفل، جلوتری، ختم جوز مائل، ملٹھی، پارہ معنی، عتقرقرا، لوگ، ایون، زعفران، جند
 بیدستر ہر ایک ایک تولہ، شہد بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پیس کر شہد کی مدد سے نخودی جوہ تیار
 فرمائیجئے۔
ترکیب استعمال: وقت خاص سے قبل ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

1009- حب جوش

عنایت: جناب حکیم محمد حمزہ خان صاحب کابل افغانستان۔
ہو الشافی: شکر ف ایک ماشہ، ختم قب نو ماشہ، کوکنار چھ ماشہ، ایون نو ماشہ، ختم ادھکن سات
 ماشہ، عتقرقرا چھ ماشہ، زعفران چھ ماشہ، مویز منقی ایک تولہ، جند بیدستر نو ماشہ، جوز بوا چھ ماشہ، شیر
 برگد بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک کھل کیجئے اور شیر برگد میں خوب دو ادویات
 بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام استعمال کیجئے۔
فائدہ: بے انتہا صالح خون پیدا کرتی ہے چہرے کو بارعب اور پرکشش بناتی ہے نہایت اعلیٰ
 درجہ کی مقوی باہ و مسک بے نظیر ہے۔

1010- دوائے کشش

عنایت: جناب طیبہ عائشہ پروین علی گڑھ (ہند)۔
ہو الشافی: ایون خام ایک تولہ، مغز بادام دس تولہ، شہد خالص پندرہ تولہ، کشتہ ازراق دو تولہ،
 روغن جوز مائل دو ماشہ، روغن قب چھ ماشہ، ورق طلا چار ماشہ، مشک خالص چار ماشہ، منبر اشہب
 چار ماشہ، مردارید ناسفتہ چار ماشہ، یا قوت رمانی چار ماشہ، زمرد سبز چار ماشہ، عرق بید مشک بقدر
 ضرورت۔
ترکیب تیاری: پہلے مغز بادام کو خوب باریک کر کے شہد میں ملا لیجئے بعدہ دیگر اشیاء کو عرق بید
 مشک میں زوردار ہاتھوں سے آٹھ گھنٹے تک کھل کر کے شامل فرمائیجئے اور نہایت نفیس ڈبلی میں
 محفوظ فرمائیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ بوقت رات مباشرت سے دو گھنٹے پہلے زیر حلق فرمائیجئے۔
فائدہ: جسم کے اندر بجلی کی سی مانند جوانی ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے عیش و عشرت کی گھڑیاں
 کو طویل کرتی ہے سرعت انزال کو جڑ سے نابود کر دیتی ہے تجربہ خود بتائے گا۔

1011- حب سمش

عنایت: جناب حکیم محمد راشد طفیل صاحب کوٹ لکھپت لاہور۔
ہو الشافی: جانفل، جادتری، ایون، مازو بے سوراخ، مصطلی رومی، ناکیسر، موچس، عتقرقرا،
 سپاری، دکنی، دانہ الاہچی، خورد، طباشیر، اجوائن، خراسانی، زعفران، ہر ایک ایک تولہ، ختم جوز مائل سیاہ، آنہ
 ماشہ، لعاب بیدانہ بقدر ضرورت۔
 www.pdfbooksfree.pk

علامات: عضو مخصوص کا ڈھیلا ہونا جس سے قوت مباشرت ناقص یا بالکل ختم ہو جاتی ہے کبھی معمولی سا تناؤ آتا ہے تو کبھی تناؤ بالکل نہیں آتا کبھی مباشرت کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی مریض سے کمزور پست ہمت ڈرپوک اور اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے نظر کمزور ہاتھ پاؤں سرد کر اور پنڈلیوں میں درد نبض ضعیف لیس بطنی ہوتی ہے نیند کی کمی ہاضمہ کی خرابی آنکھوں کے گرد حلقے اعصاب کے استرخاء کے باعث آلہ تناسل کی پشت کی دریدیں نمایاں ہو جاتی ہیں عضو میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں سے دوا تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1016- سفوف باہ

عنایت: جناب حکیم محمد زاہد صاحب بیرون ہاک گیٹ مدینہ الاولیا ملتان شریف۔
ہوالشافی: تالکھانہ بیج بند، تخم اونٹن، ایک ایک تولہ، ثعلب مصری، موصلی سفید، موصلی سیاہ، شاتل مصری ہر ایک دو تولہ، پھول مکھانہ آرد سنگھاڑا ہر ایک چار تولہ، کمر کس چھ تولہ، چینی سب کے برابر۔

تزیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھل کیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

تزیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔

فائدہ: منی بکثرت اور صالح پیدا کرتا ہے۔ بچپن کی غلط کاریوں کے باعث عضو تناسل کے سکڑاؤ کو دور کرتا ہے، جراثیم بکثرت پیدا کرتا ہے، طاقت کو براہیختہ کرتا ہے، پیشاب کی تالی کی جلن اور درد کا فور کرتا ہے، منی کی رقت اور حدت کو ختم کرتا ہے، سرعت انزال کا خاتمہ کرتا ہے، ضعف باہ کو نابود کرتا ہے۔ غرض نہایت مفید سفوف ہے، ضرور قدر کیجئے۔

1017- مقوی پھیرنی

عنایت: جناب حکیم فضل الہی صاحب امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: بہن سفید، ثعلب مصری، موصلی سفید ہر ایک پانچ تولہ، تخم ریحان تین تولہ، چینی بقدر ضرورت۔

تزیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر لیجئے جب کہ تخم ریحان مسلم ہی کس فرما لیجئے اور سنبھال لیجئے۔

فائدہ: متواتر ایک ہفتہ استعمال کرنے سے سرعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

1015- دلیرون

عنایت: جناب حکیم محمد عرفان قادری صاحب بیرون دلی دروازہ لاہور۔

ہوالشافی: عتر قرحاتین ماشہ، تخم ریحان دو تولہ، چینی دو تولہ۔

تزیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے سنبھال لیجئے۔

تزیب استعمال: تین ماشہ وقت خاص سے دو گھنٹے پہلے دودھ کے ساتھ کھا لیجئے۔

فائدہ: بظاہر اس کے اجزاء معمولی لگتے ہیں مگر حقیقت میں اللہ عزوجل نے اس میں الکیا قوت رکھ دی ہے کہ حیرت کم ہو جاتی ہے۔ طبعی قوت و امساک پیدا ہوتا ہے۔ نہایت مفید دوا ہے مگر شرط ہے آزمائیں اور دعائے مدینہ دیجئے۔

مردانہ کمزوری / ضعف باہ

(Sexual Debility)

ماہیت:

نامردی، ضعف باہ اور عنانت تینوں الفاظ میں وسیع معنی پنہاں ہیں یعنی معمولی کمزوری سے لے کر مادازاد نامردی تک کے تمام درجات اس میں شامل ہیں مگر اس میں تین صورتیں اہمیت کی حامل ہیں:

- (1) ایسی کمزوری کہ مباشرت و مواصلت اور جماع کی قابلیت ختم ہو جائے۔
- (2) مباشرت کا شوق یا خواہش کا مفقود ہونا یا کم ہو جانا۔
- (3) قوت تولید کا نقص یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہونا اس میں مباشرت کی قابلیت موجود ہوتی ہے مگر اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ ان تینوں صورتوں کو بھی ضعف باہ میں شمار کیا جاتا ہے۔

اسباب:

کثرت مباشرت، جلق، اغلام، کثرت احتلام، کثرت جریان منی، عضو تناسل کے ذلزلہ، نقائص، خصیہ کا درم، مادہ منویہ کی کمی، شدید جسمانی مشقت، موٹاپا، نشہ آور چیزوں کا کثرت استعمال، ذہنی و نفسیاتی اثرات، خصیوں کے سائز میں فرق آنا، مادہ منویہ کا رقیق ہونا، شوق مباشرت کا ختم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔

شام لقمائی فارمولے
فائدہ: قوت مردی پیدا کرنے کے لئے بے نظیر دوا ہے ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے۔

1021- اکسیر سنیا سی

عنايت: حکیم محمد اقبال صاحب پٹیالہ (ہند)۔
ہو الشافی: شکر ف رومی دو تولہ کشتہ بیضہ مرغ پچاس گرام شیر مدار تین کلو گرام۔
ترکیب تیاری: پہلے شکر ف کو ریشمی کپڑے میں باندھ کر شیر مدار تین کلو میں لٹکا کر نیچے ہلکی ہلکی آغ دیتے جب تمام دودھ جذب ہو جائے تو پھر ڈلی پر کشتہ بیضہ مرغ شیر مدار میں تر کر کے لپیٹ دیتے اور گل حکمت کر کے مضبوط کپڑوں کی کپڑے خشک ہونے پر چولہے پر چڑھا کر چار پیر تک خوب تیز آگ دیتے پھر درمیانی اور پھر تیز کر دیتے سرد ہونے پر کشتہ سفید برآمد ہوگا نہایت احتیاط سے سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول سے دو چاول تک مکھن یا شہد میں کھلائیں۔
فائدہ: نہایت مفید و لاجواب جنسی طاقت پیدا کرنے والا لاجواب نسخہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی سنیا سی لوگ اس نسخہ سے ہزاروں نامردوں کو مرد بنا چلے لوگ مارے مارے ڈھونڈتے ہیں مگر ملتے نہیں آپ بھی تجربہ ضرور کر کے اطلاع دیتے۔

1022- جوان آئیل

عنايت: جناب حکیم حضرت پیر سید شاہ محمد (ہند)۔
ہو الشافی: بیضہ بخ خانگی بقدر ضرورت (جس نے پہلی مرتبہ اٹھ دے دیئے ہوں)۔
ترکیب تیاری: ایک گڑھا جو تین فٹ چوڑا تین فٹ لمبا اور چھ فٹ گہرا کھودیں اس گڑھے میں تین فٹ گھوڑے کی لید ڈال کر اس میں اٹھ الگ الگ مدفن کر دیتے اوپر مٹی ڈال کر گڑھا بند کر دیتے چالیس یوم کے بعد ان اٹھوں کو حاصل کیجئے تو اٹھوں کے اندر سیاہ رنگ کا تیل ملے گا اگر کسی اٹھے میں تیل نہ ملے تو چند یوم اور رکھ کر تیل حاصل کیجئے پھر نئی اٹھے کے حساب سے روغن جاقفل اور روغن لونگ چار چار رتی ملا کر سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا قطرہ ایک پان میں لگا کر چبا لیجئے۔
فائدہ: سات دن کے استعمال سے مدت العمر کمزوری باہ کی شکایت نہیں کرے گا۔

پرہیز: بادی اور ترش اغذیہ سے پرہیز کیجئے۔

کورس: سات خوراکیں کافی ہیں البتہ دس یوم تو کھلائی دیتے۔

1023- حب باہ

عنايت: جناب حکیم مسیح الملک ثانی محمد جمیل خان صاحب رئیس اعظم دہلی (ہند)۔

شام لقمائی فارمولے
ترکیب استعمال: چھ ماشہ دوا کی کھیر بنا کر استعمال کیجئے۔
فائدہ: نہایت مفید مقوی باہ دوا ہے منی بکثرت اور صالح پیدا ہوتی ہے کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جاتی ہے مجرب و آزمودہ دوا ہے۔

1018- امرتی

عنايت: جناب حکیم حافظ محمد کلیم اللہ صاحب نیا بازار دہلی (ہند)۔
ہو الشافی: موصل سفید تین تولہ، ثعلب مصری تین تولہ، طہاشیر ایک تولہ، گوند کثیر ایک تولہ، سنگھاڑا دو تولہ، تالکھانہ دو تولہ، الاچھی خورد ایک تولہ، کوزہ مصری پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سنبھال کر محفوظ رکھئے۔
ترکیب استعمال: چھ ماشہ سے نو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیتے۔
فائدہ: منی کے جملہ نقائص کو دور کر کے صالح منی بکثرت پیدا کرتی ہے جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں ان کے لئے نہایت مفید و مجرب دوا ہے۔

1019- معجون زعفرانی

عنايت: جناب حکیم محمد ارشد صاحب کان پور (ہند)۔
ہو الشافی: جوزبوا، قرفل، الاچھی کلاں، سنبل الطیب، آملہ، دارچینی، عقرقرحہ ہر ایک ایک تولہ، زعفران ہر ایک تین ماشہ، عنبر اشہب دو ماشہ، ورق نقرہ بیس عدد، در طلاء بیس عدد، شہد خالص چند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس لیجئے زعفران عنبر اشہب اور ادراق کو الگ خوب کھل کیجئے شہد کی مدد سے معجون تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ ہمراہ شیر گاؤ روزانہ ایک وقت استعمال کیجئے۔
فائدہ: ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے نہایت مفید و مجرب دوا ہے۔ ایک ہفتہ کا استعمال کافی ہے۔

1020- حب باہ

عنايت: جناب حکیم محمد بشیر احمد صاحب کلکتہ (ہند)۔
ہو الشافی: لونگ، جاقفل، جلوتری، عقرقرحہ، کباب چینی، شکر ف رومی، کشتہ فولاد دارچینی، بہیر، بہوئی ہر ایک پانچ تولہ، شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد کی مدد سے خوب بخود تیار فرمایئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیتے۔
www.pdfbooksfree.pk

عنایت: جناب حکیم احمد علی صاحب طبیبہ کالج علی گڑھ (ہند)۔

ہوالشافی: سیماب چار ماشہ گندھک آملہ سار چار ماشہ ست سلاجیت ایک تولہ زعفران نو ماشہ ترنقل گلدار چار ماشہ پنیر مایہ شتر اعرابی ایک تولہ دارچینی چار ماشہ زردی بیضہ مغز ایک عدد۔
تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے گندھک و سیماب کو الگ کر کے بجلی تیار کر کے میں سب کو کھل کر لیجئے اور خودی خوب بنا کر سنجال لیجئے۔

استعمال: ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ استعمال کیجئے۔
فائدہ: قوت باہ خوب پیدا کرتی ہے مسک اور محرک اعلیٰ درجہ کا ہے۔
نوٹ: مرغن غذائیں اور مقوی غذا میں خوب استعمال کیجئے۔

1027- حب پسند

عنایت: جناب حکیم مرزہ محمد حنیف بیگ صاحب نیوری ملہالوی جہلم۔
ہوالشافی: جند بید ستر بیر بہوٹی سلاجیت ہر ایک چار ماشہ مشک خالص غبر اشہب کشتہ فولاد کشتہ شکر کشتہ چاندی ہر ایک دو ماشہ گولڈ کلورائیڈ ایک رتی ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ایک رتی ایکسٹریکٹ کوکا آدھ رتی پل فاسفورس آدھ رتی یوہم بین آدھ رتی آب ادراک بقدر ضرورت۔

تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھل کیجئے تین یوم تک خوب کھل کیجئے پھر روح کیوڑہ میں ایک دن کھل کیجئے پھر قدرے شہد ملا کر ایک ایک رتی برابر گولیاں بنا لیجئے اوپر ورق طلا چڑھا لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔
استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر کے مایوس ہونے والوں کے لئے نوید شباب و مسرت ہے حقیقی طاقت پیدا ہوتی ہے نہایت لاجواب دوا ہے کامل و اکمل نسخہ ہے جسم میں ناقابل برداشت قوت پیدا ہوتی ہے۔
نوٹ: غذائیں مرغن اور کھلی و دودھ خوب دیجئے۔

1028- کشتہ سم الفار

عنایت: جناب حکیم غلام جیلانی صاحب رئیس امرتسر (ہند)
ہوالشافی: سم الفار سفید تین تولہ آب کنوار گندل اور آب ادراک (الگ الگ) بقدر

ہوالشافی: سم الفار سفید ہڑتال ورقہ شکر ف روی برابر وزن رس لیموں بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو رس لیموں میں خوب کھل کیجئے اور چار دن تک کھل کیجئے اور دانہ موگ برابر خوب بنا کر سنجال لیجئے۔
استعمال: آدھا حصہ گولی کا صبح و شام ہمراہ شیر نیم گرم کھلائیے۔
فائدہ: تقویت باہ کے لئے لاجواب نسخہ ہے۔
نوٹ: دودھ کھی بکثرت استعمال کر دئیے۔

1024- حب شکرنی

عنایت: جناب حکیم محمد حسین صاحب جہلم۔
ہوالشافی: شکر تین ماشہ زعفران تین ماشہ کستوری ایک رتی اشتر کنیا سلیٹ نصف رتی۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور دانہ موگ برابر گولیاں تیار فرما لیجئے۔
استعمال: ایک گولی کھن یا ملائی میں رکھ کر روزانہ تناول فرما لیجئے۔
فائدہ: بے حد مسک اور مقوی باہ ہے۔
نوٹ: دودھ کھی بکثرت استعمال کیجئے۔

1025- کشتہ سونا خالص

عنایت: جناب حکیم عبدالقادر خان صاحب ریاست کپور تھلہ (ہند)۔
ہوالشافی: خالص تیزابی سونا ایک تولہ (برادہ کر لیجئے) عرق گلاب سہ آتش بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: خالص سونے کو نہ گھسنے والی کھل میں ڈال کر عرق گلاب میں متواتر تین دن کھل کر کے نکیہ بنا کر دس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سکورہ کو گل حکمت ضرور کیجئے اور اسی طرح تقریباً سات مرتبہ آئینہ دیجئے برادہ نہایت نفیس رنگ کا کشتہ ملائم برآمد ہوگا سنجال کر محفوظ رکھئے۔
استعمال: آدھ چاول سے ایک چاول روزانہ کھن یا ملائی میں رکھ کر تناول فرمائیے۔

فائدہ: حقیقی حرارت عزیزی پیدا کرتا ہے مقوی باہ و محرک ہے اعضاء رئیسہ کو طاقت عطا کرتا ہے امراض قلب میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔
نوٹ: اوپر سے دودھ کھی بکثرت استعمال کیجئے۔

ضرورت۔

ترکیب تیاری: سم الفار سفید کو ایک دن آب کھیکھیہ ار میں کھل کر لیجئے جب کہ دوسرے دن آب ادراک میں کھل کر لیجئے اور قمرس بنا کر خشک کر لیجئے دو پیارے برابر لے کر ان میں رکھ کر بطریقہ خاص جوہر اڑائیے پھر دونوں پیالوں کی دوا لے کر وزن کیجئے جتنی سم الفار کم ہوا تھی اور ملا کر بدستور ایک ایک یوم کامل الگ الگ پانیوں میں کھل کر لیجئے اور بطریقہ خاص جوہر اڑائیے اسی طرح جتنی سم الفار وزن میں کم ہوا تھی مزید ڈال کر ایسا ہی کیجئے حتی کہ پانچ مرتبہ ایسا کیجئے اور پھر تمام دوا کو سنبھال کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: آدھ چاول سے ایک چاول مکھن یا بلائی میں رکھ کر دیجئے۔

فائدہ: بوزھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بناتا ہے اندرونی طاقتوں کو اعضاؤں کو از سر نو درست اور بہتر کرتا ہے کہ بندے کو تعجب ہوتا ہے سیروں کی مقدار میں اتناج اور گھی و دودھ ہضم ہونے لگتا ہے چند دنوں میں مردانہ قوت عود کر آتی ہے ضعف اعصاب اور اعضاء رئیسہ مفقود ہو جاتا ہے ایک مرتبہ استعمال کر کے اللہ عزوجل کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیجئے یقیناً حیرت کو بھی حیرت ہوگی۔

1029- حب رنگون

عنايت: زبدة الحكماء جناب حکیم سید اسماعیل احسن صاحب رنگون برما۔

هو الشافی: قرنفل، مالکنٹی، اندر جو شیریں، کلونجی، مصطلی، بیش، قسط تلخ، بسباسہ، تخم جوز ماش، عقرقرا، خراطین، بیربھوٹی، جند بیدستر ہر ایک ایک تولہ دارچینی ریگ ماہی نو نو ماشہ بلا در چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مثل غبار کھل کر لیجئے اور نخودی حبوب تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: مسک و محرک و مقوی باہ شدید ہیں آزمائیے اور دعائیں دیجئے۔

1030- بامراد

عنايت: جناب حکیم ناصر الدین صاحب بستی سنواں فیروز پور (ہند)

هو الشافی: ہڑتال ورقہ، گندھک، آملہ سار، شگرف، سم الفار، بیش، ہلیلہ، بلیلہ، فلفل سیاہ، زنجبیل ہر ایک چھ ماشہ آب ادراک بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب ادراک میں خوب کھل کر لیجئے تقریباً چار یوم کامل کھل

ہیں لقمائی فارمولے اور سنبھال کر رکھئے۔

رکے جب نخودی بنا لیجئے روزانہ ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک گولی ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

1031- چاؤ بھاؤ

جناب حکیم تاج الدین صاحب کرولی پیراں جہلم۔

عنايت: جناب حکیم تاج الدین صاحب کرولی پیراں جہلم۔

هو الشافی: پیربھوٹی، پوست بنج کبیر سفید، لوگ، بسباسہ، ہر ایک تین تولہ زعفران ایک تولہ

درجی چار تولہ روغن سبجد ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے روغن کبجہ میں ڈال کر تین یوم تک منہ بند کر کے دھوپ میں رکھیں پھر ہلکی آٹھ پر پکائیے جب اجزاء جل جائیں تو فلٹر کر کے زعفران

نہایت باریک کھل کر کے ملا کر روح کیوڑہ شامل کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ دودھ ایک پاؤ میں شامل کر کے روزانہ رات سوتے وقت پی

لیجئے۔

فائدہ: نہایت مجرب و مفید دوا ہے قوت باہ بڑھاتی ہے چہرہ بارونق اور سرخ کرتی ہے اسماک

ملنی پیدا ہوتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ضعف دماغ و اعصاب کو دور کرتی ہے۔

(تخریج شدہ حکیم محمد عبدالوحید عطاری)

1032- اکسیر جمال

عنايت: جناب حکیم لالہ وزیر چند نندہ صاحب بسوہلی ضلع گورداسپور (ہند)

هو الشافی: لہسن چالیس تولہ روغن گاؤ چالیس تولہ، کوزہ مصری ایک کلو زعفران ایک تولہ جند

بیدستر ایک تولہ ورق نقرہ ایک دفتری، ورق طلا ایک دفتری۔

ترکیب تیاری: لہسن کو چھیل کر باریک کر کے روغن میں شامل کر کے تین دن کے لئے بند کر

دیجئے۔ پھر مصری کا قوام تیار کر کے زعفران جند بیدستر کو روح کیوڑہ میں بمعدہ ادراک کھل کر کے

زام میں شامل کیجئے اور ساتھ ہی روغن والا قوام بھی شامل کر کے بطریقہ معروف معجون بنا لیجئے۔

نوٹ: آگ ہلکی ہونی چاہئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ کھلائیے۔

فائدہ: نامردوں کو مرد بناتی ہے بے اولادوں کو اولاد عطا کرتی ہے مطب کا مایہ ناز نسخہ ہے

تھوڑی دمسک لاجواب ہے آپ ایک مرتبہ آزمائیں گے تو ہمیشہ کے لئے گن گائیں گے۔

1033- حب زعفرانی

عنايت: جناب حکیم فقیر محمد صاحب سنیا سی مٹھلک شاہ پور۔

هو الشافی: پتری فولاد دو تولہ زعفران ایک تولہ ازرائی مدبر دو تولہ، نفل سیاہ چھ ماشہ۔
سلاجیت ایک تولہ روغن سم الفار تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے بخودی خوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ ملائی میں لپیٹ کر کھا لیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ و مسک نہایت مفید دوا ہے۔

نوٹ: مرغن غذائیں اور دودھ گھی بکثرت کھائیے۔

1034- اکسیر اعلیٰ ترین

عنايت: جناب حکیم مشتاق حسن صاحب برکت منزل شاہ جہاں پور (ہند)

هو الشافی: پارہ مصفیٰ ایون سم الفار ہر ایک دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تینوں چیزوں کو نہایت باریک یہاں تک کھل کیجئے کہ پارہ نابود ہو جائے تقریباً سولہ یوم تک کھل کیجئے اگر آب ادراک میں کھل کریں تو نہایت بے مثال دوا تیار ہوگی سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: نصف چاول کھانے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ بالائی میں روک کر کھائیے۔

فائدہ: قوت باہ کے لئے نہایت سریع الاثر بے مثال دوا ہے ایک خوراک ہی اثر دکھائی ہے ایک ہفتہ سے زائد کھانے کی حاجت نہیں رہتی تجربہ شدہ عید المثل دوا ہے۔ آپ ایک مرتبہ فریو بنائیے۔

نوٹ: پیاس لگے تو دودھ گھی بکثرت استعمال کیجئے مرغن غذائیں لیجئے۔

1035- روغن مقوی

عنايت: جناب حکیم محمد صدیق صاحب لوہا منڈی سرہند شریف۔

هو الشافی: شکر ف ردی ایک تولہ زردی بیضہ مرغ دو عدد۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب کھل کر کے کڑا ہی میں پکائیے کچھ وقت کے بعد روغن الگ ہونا شروع ہو جائے گا شیشی میں سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک قطرہ ہمراہ شیر گاؤ میں ملا کر استعمال کیجئے۔

فائدہ: نہایت عجیب الاثر مجرب دوا ہے مقوی باہ ہے مسک ہے۔

1036- عرق ماء اللحم خاص

عنايت: جناب حکیم سید محمد ریاض الحسن خان جیلانی صاحب شاہ کونٹ شیخوپورہ۔

هو الشافی: گوشت جوان بکرا دس کلو سیب پانچ کلو سگترہ پانچ کلو ابریشم مقراض پانچ سو گرام گاؤ زبان ایک پاؤ، گل گاؤ زبان ایک پاؤ، عرق بید مشک ایک کلو شیر بکری پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: پہلے گوشت کی تختی پکائیے اور دیگر ادویات کو بھگو دیجئے پھر بشریقہ معروف عرق کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ تولہ سے سات تولہ صبح و شام لیجئے۔

فائدہ: کمزور اور ناتواں کے لئے انمول تحفہ ہے طبیعت میں فرحت و تازگی اور مردہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے ضعف باہ کو ختم کرتا ہے نہایت مفید اور اکسیر صفت ہے۔

1037- حب خاص

عنايت: جناب حکیم عبد الحکیم صاحب ودلوکی ضلع سیالکوٹ۔

هو الشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، کھتہ سفید تین تولہ، کستوری خالص ایک ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور دانہ موٹھ برابر خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی علی الصبح ہمراہ کھن یا ملائی استعمال کیجئے۔

فائدہ: قوت باہ کے لئے اکسیر صفات کی حامل ہیں۔

پریز: گرم ترش اور کثرت جماع سے پرہیز واجب ہے۔

1038- اکسیر باہ

عنايت: جناب حکیم شیخ غلام محمد نظامی صاحب مری روڈ راولپنڈی۔

هو الشافی: سم الفار ایون زعفران ورق نقرہ ورق طلاہ جدوار خطائی، کستوری، عنبر اشہب برابر وزن شیر بکری بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر بکری میں خوب کھل کر کے باجرہ کے برابر گولیاں بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی پانچ تولہ کھن میں لپیٹ کر تناول فرمائیے۔

فائدہ: قوت باہ نہایت زیادہ پیدا ہوتی ہے نہایت سریع الاثر لاجواب دوا ہے۔

نوٹ: دوا کھانے سے پہلے مرغن غذائیں دیکھی میں تریبہ تر ضرور کھائیے۔

1039- ضما و مقوی

عنايت: جناب حکیم شیخ ابوالقاسم صاحب حیدرآباد دکن (ہند)۔
ہوالشافی: خراطین خشک دو ماشہ، مغز کنجشک زخاگی ایک عدد۔
ترکیب تیاری: دونوں کو خوب باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: عضو مخصوص پر ضما د کر لیجئے اور خشک ہونے پر مباشرت کا فعل کیجئے۔
فائدہ: نہایت مفید الاثر دوا ہے تقویت پیدا ہوتی ہے۔

1040- حب عنبر مومیائی

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب محمد آنہ ضلع گجرات۔
ہوالشافی: مومیائی، مصطکی، مردارید ناسفتہ، طباشیر، قرنفل، پبہاسہ، جوزبوا، بہمن سفید، بہمن سرخ، دارچینی، شقائق مصری، جدوار ہر ایک چھ ماشہ، عنبر، مشک ہر ایک ایک ماشہ، روغن پستہ، بقدر ضرورت، ورق طلا، پانچ عدد، عرق بید مشک بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: مردارید و مشک و عنبر کو عرق بید مشک میں خوب کھریں لیجئے مومیائی کو روغن پستہ میں حل کیجئے اور دیگر ادویات کو نہایت باریک پورڈر بنا کر حب خودی تیار فرما لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ سے لیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے اعضاء رئیسہ کو تقویت دیتی ہے مباشرت کے بعد کی کمزوری کو زائل کرتی ہے قوت میں کمی نہیں ہونے دیتی مقوی باہ و مسک بینظیر ہے۔

1041- تقویت اعظم

عنايت: جناب حکیم ممتاز احمد صاحب جبل پور (کینٹ) (ہند)۔
ہوالشافی: عقیق عمدہ خالص، مرجان، یا قوت، مردارید، ورق طلا، ورق نقرہ ہر ایک ایک تولہ، عرق گلاب، آتش، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ ہر ایک آدھ کلو، آب کریلا پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عریقات میں پھر آب کریلا میں خوب کھریں کر کے شہد کی مدد سے رتی رتی کی جوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ بالائی استعمال کیجئے۔

فائدہ: تقویت اعصاب کے لئے نہایت لاجواب ہے دل و دماغ کو طاقت دہ کرتی ہے ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے تروتازگی پیدا کرتی ہے نہایت مفید الاثر لاجواب دوا ہے۔

1042- قوت باہ

عنايت: جناب حکیم حیات خان صاحب آٹھ نیر ضلع بتول (ہند)۔
ہوالشافی: لکڑی کیری (جو بیس سال پرانی کٹی ہوئی ہو)۔
ترکیب تیاری: اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کر بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کر کے محفوظ رکھ لیجئے۔
ترکیب استعمال: چار رتی صبح و شام کھن یا ملائی میں یا گلقد میں استعمال کیجئے۔
فائدہ: قوت باہ خوب پیدا کرتا ہے نہایت مسک اور اعلیٰ درجہ کی جید الاثر دوا ہے۔ سات یوم ہی استعمال کیجئے۔

1043- سم الفاری

عنايت: جناب حکیم سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب شذو خان محمد باب الاسلام سندھ۔
ہوالشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، نمک شیشہ آٹھ تولہ۔
ترکیب تیاری: دونوں کو آٹھ پہر تک خوب کھریں لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک چاول سے نصف رتی تک بتاشہ میں استعمال کیجئے۔
فائدہ: مقوی باہ ہے خوب لغوظ لاتا ہے دافع امراض معدہ ہے نہایت بھروسہ کی دوا ہے۔
نوٹ: بعدہ مرغن غذائیں اور دودھ کھی بکثرت لیجئے۔

1044- ثعلب پلر

عنايت: ابوالنظر جناب حکیم محمد اسد اللہ صدیقی صاحب تحصیل بازار لاہور۔
ہوالشافی: شیر میش پانچ کلو، موصلی سفید، موصلی سیاہ، تالکھانہ، ثعلب مصری ہر ایک چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: شیر میش کو ہلکی آنچ پر رکھئے یہاں تک ابالیں کہ آدھ حصہ رہ جائے پھر دیگر ادویات الگ پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: یہ تمام ادویات ایک وقت کھا کر اوپر سے آہستہ آہستہ سارا دودھ پی لیجئے۔
فائدہ: تیس یوم تک روزانہ ایسا کرنے سے کسی بھی قسم کی دوا کھانے کی حاجت نہیں رہتی اس سے بدن موٹا، طاقت در اور جنسی قوت عود کر آتی ہے نہایت مفید اور تجربہ شدہ نسخہ ہے۔
پرہیز: ہادی اور ترشی سے پرہیز کیجئے۔

1048- کامل واکمل

شام لقمائی فارمولے

1048

1045- روغن باہ

عنایت: جناب حکیم محمد علی صاحب ہند بنالہ گورداسپور (ہند)۔

ہوالشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، شکر ف ایک تولہ، بیخ اونٹ کنارہ دو تولہ، سفوف رتن نصف تولہ، شیر گاؤ پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دودھ میں خوب ابالیں پھر ضامن لگا کر کھن نکال کر کمی مائی اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ قطرے آدھا کلو دودھ میں ڈال کر پی لیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ کے لئے مخصوص ہے بدن کو بڑھاتا ہے بھوک خوب لگتی ہے دودھ کمی مائی ہوتا ہے چہرہ سرخ کرتا ہے اور نہایت مفید تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

نوٹ: دودھ کمی بکثرت استعمال کیجئے۔

1046- کشتہ شکر ف

عنایت: جناب حکیم حافظ مقبول احمد انصاری صاحب کسمڈی کلاں لکھنؤ (ہند)۔

ہوالشافی: شکر ف پانچ تولہ، آب لہسن پاؤ، لہسن آدھ پاؤ، بھنگ آدھ پاؤ۔

ترکیب تیاری: شکر ف کو آب لہسن میں خوب کھل کر کے ٹکیہ بنا کر لہسن و بھنگ کے تھوڑے میں دے کر پچیس کلو اوپلوں کی آگ دیجئے سفید کشتہ برآمد ہوگا سنبھال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو چاول ہمراہ کھن دیجئے۔

فائدہ: نامردی، ضعف باہ کے لئے نہایت جید الاثر دوا ہے۔

1047- تریاق مقوی باہ

عنایت: جناب حکیم محمد رمضان صاحب سیوان کنڈیاں۔

ہوالشافی: زعفران، دارچینی، جائفل، ایون، کستوری، عتر قرھا، شکر ف، قرنفل ہر ایک ایک ڈرا، مردارید دو تولہ، روغن سم الفار دو تولہ، شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور شہد کی مدد سے رتی رتی کی جوہر فرما کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ روغن ماہی دس قطرے نیم گرم شیر گاؤ سے دیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید اور محرک دوا ہے ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے اعصاب کو طاقتور بناتی ہے جوانی پیدا کرتی ہے خوب بھوک لگتی ہے چہرہ بارونق اور سرخ کرتی ہے چار نکاح کرانے کا چاہتا ہے۔

1048- کامل واکمل

شام لقمائی فارمولے

1048

عنایت: جناب حکیم محمد یعقوب خان صاحب قصور شہر۔

ہوالشافی: کشتہ طلا، کشتہ نقرہ، جوہر مہرہ ہر ایک تین ماشہ، کشتہ فولاد کشتہ بیضہ مرغ ہر ایک دو ماشہ، جوہر ازرائی چاررتی، جوہر سم الفار چاررتی، عرق گلاب سے آتش، عرق کیڑہ سے آتش ہر ایک ایک پاؤ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عریات میں خوب کھل کیجئے اور خشک ہونے پر سنبھال ل لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول سے دو چاول ہمراہ لیوب کبیر شیر گاؤ سے تناول فرمایجئے۔

فائدہ: دنیا طلب میں واحد نسخہ ہے جو نامردی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے نہایت لاجواب نسخہ ہے ضعف باہ کا حقیقی مخالف ہے ہزاروں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے الحمد للہ عزدوجل ساٹھ سالہ مریض نامرد مجلوق بھی از سر نو مرد ہو گیا ہے نہایت کامل واکمل نسخہ ہے۔

1049- دوائے جناب عالی

عنایت: جناب حکیم مخدوم صالح محمد صاحب چھٹی رہان شاہ پور۔

ہوالشافی: بیش دس تولہ، آب لیموں بقدر ضرورت، سم الفار سات تولہ، روغن بید انجیر پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: بیش کو آب لیموں میں صلاہ کیجئے پھر اسے سم الفار پر لپ کر دیجئے اوپر آرد ماش چڑھا دیجئے خشک ہونے پر غلولہ تیل میں ڈال کر نیچے ہلکی آگ مثل چراغ جلا کر جلا دیجئے آگ آٹھ پہر جلانی ہے غلولے کو الٹ پلٹ بھی کرتے رہئے۔ قائم ہو جائے تو بہتر درنہ دوبارہ کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دانہ خشکاش برابر روزانہ مرغن غذاؤں کے ساتھ کھلا دیجئے۔

فائدہ: یہ ایک نایاب تحفہ ہے خواہ کیسا ہی گیا گزرا مریض ہو دو ہفتہ میں اصلی حالت پر آ جائے گا جو اس نسخہ کو بنائے گا فوائد کا خود اندازہ کرے گا۔ صرف اکیس یوم استعمال کریں۔

1050- اکسیر مردم

عنایت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب گوجرانوالہ۔

ہوالشافی: چھکنی، زنجبیل خشک برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور نہایت احتیاط سے رکھئے۔

ترکیب تیاری: تمام دواؤں کو خوب باریک پیس کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: نو ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: مادہ منویہ کو کاڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے، مردانہ صفات پیدا کرتی ہے۔

1054- لعوق عقرقرحا

عنايت: جناب حکیم محمد اقبال حسین صاحب محلہ چاکو بکسوراں جے پور (ہند)۔

ہوالشافی: عقرقرحا ایک تولہ شہد تین تولہ۔

ترکیب تیاری: عقرقرحا کو نہایت باریک پیس کر شہد میں لعوق سا بنا لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ صبح تین انگل چاٹ لیجئے۔

فائدہ: خون صابح پیدا کرتا ہے رنگ سرخ کرتا ہے تقویت باہ کے لئے انمول چیز ہے۔

1055- اکسیر جوانی

عنايت: جناب حکیم سید ولایت علی شاہ صاحب میاں گوندل گجرات۔

ہوالشافی: سم الفار سفید ایک تولہ، گلیسرین خالص دستولہ، کشتہ فولاد شکرنی ایک تولہ، کشتہ

سہ دھاتہ دو تولہ، ورق نقرہ ایک تولہ، زعفران کشمیری ایک تولہ، کشتہ طلا چھ ماشہ، مشک تین چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پورڈر بنا لیجئے سم الفار کو گلیسرین میں ڈال کر کونکوں پر

رکھئے جب حل ہو جائے تو دیگر ادویات باریک شدہ ملا کر مضبوط کارک لگا دیجئے۔

نوٹ: سم الفار اور گلیسرین کو آگ پر جوش نہ آنے دیا جائے ورنہ سم الفار کا جوہر لطیف اڑ

جائے گا۔

ترکیب استعمال: ایک رتی بکھن میں دیجئے۔

فائدہ: اس کی تین خوراکیوں سے نامرد بھی مرد بن جاتا ہے قوت ہاضمہ مضبوط اور سیروں آگھی

دودھ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے اعلیٰ درجہ کا مولد و مضعی خون نسخہ ہے اعضائے رئیسہ کو قوت عطا

کرتا ہے۔

نوٹ: مرغن غذائیں دودھ آگھی بکثرت استعمال کروائیے۔

1056- جوانی مستانی

عنايت: حکیم شریف علی خان صاحب سیاگ کاگ بنگ کوک سیام (ہند)۔

ہوالشافی: شکر ف روئی، قد سیاہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو نہایت باریک پیس کر ایک ایک گرام کی جوب تیار کر لیجئے

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید اور گرم لاگت کا نسخہ ہے مگر ہیروں میں تولنے کے قابل ہے۔ ہر جوب تیار نامردی کے لئے اکسیر ہے۔ مادرزاد نامردی کے لئے نہایت اکسیر ہے۔ ایک ہفتہ میں مکمل طور پر

1051- روغن مجلوق

عنايت: جناب حکیم محمد صادق صاحب مترانوالی سیالکوٹ۔

ہوالشافی: قرنفل پانچ تولہ، جانفل پانچ تولہ، زعفران ایک تولہ، مشک نانہ تین ماشہ، سم انور

ایک تولہ، زردی بیضہ مرغ تین عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور جوب جنگلی ہیر برابر بنا کر بذر پورہ پانچ

جنتر روغن کشید کیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سچ صبح حلوہ میں لگا کر کھلائیں۔

فائدہ: ضعف باہ کا خاتمہ کرتی ہے سرعت انزال کو نابود کرتی ہے لغوظ خوب پیدا کرتا ہے۔

نوٹ: مرغن غذائیں دودھ آگھی بکثرت استعمال کیجئے۔

1052- معجون شباب آور

عنايت: جناب حکیم سید سعادت مندہاشمی صاحب گجرات۔

ہوالشافی: کستوری خالص، عنبر اشہب ہر ایک دو ماشہ۔ زنجبیل، دارچینی، قلمی شورو، شہد

مصری، شقائق مصری، جانفل، جلوتری، اندر جو شیریں، مصطکی روئی، زعفران، قنفل دراز، بوزیدان، ک

سرخ، بہن سفید، بہن سرخ، ہیلون، تخم گاجر، حب، لقلقل، ہر ایک پانچ ماشہ، برگ بھنگ چار تولہ،

شہد خالص تین چھٹاک۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیجئے، مشک و عنبر کو عرق کیوڑہ میں کھرا

کر لیجئے پھر دیگر ادویات شہد میں شامل فرما کر بطریقہ معجون بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ تک دن میں دو ہر تہہ ہمراہ شیر گاؤ کھلا دیجئے۔

فائدہ: مقوی باہ، سرور افروز، نامردی کیلئے نہایت مفید ہے شہوت کو خوب تندی دیتی ہے جو لاش

عورت سے مباشرت کرنے سے عاجز ہو اس کیلئے انمول تحفہ ہے۔

1053- سفوف صحت

عنايت: جناب حکیم جے رام داس صاحب ایچ ڈی ایم راجپوتی دروازہ پشاور۔

ہوالشافی: عقرقرحا، موصلی سفید برابر وزن، شکر سفید سب کے برابر۔

خالص تین ماشہ کافور بھیم سنی تین ماشہ مشک بالا چھ ماشہ خالص شہد دو گنا۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر شہد میں ملا کر غلہ میں چالیس یوم تک دفن کر دیجئے بعدہ نکال کر شیشیوں میں بند کر کے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ تک ہمراہ شیر گاؤ روزانہ صبح دیجئے۔

فائدہ: تقویت بدن کے لئے از حد مفید ہے قوت مردی کے لئے انمول تھمہ ہے۔

1060- کشتہ سم الفار

عنايت: جناب حکیم سید احمد شاہ صاحب بمحکمہ پور ضلع علی گڑھ (ہند)۔

ہو الشافی: سم الفار سفید ایک تولہ سم الفار زرد ایک تولہ عرق پیاز عرق اورک ہر ایک ایک پاؤں تھوم ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں سم الفار کو پہلے عرق پیاز پھر عرق اورک میں خوب کھل کیجئے پھر تکیہ بنا کر تھوم کے نندہ میں دے کر خفیف سی بھونچل میں آج دیجئے پھر نکال کر خوب کھل کر کے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول مکھن میں پیٹ کر کھا لیجئے اوپر سے پچاس گرام روغن زرد کھا لیجئے۔

فائدہ: نامرد کو مرد بنا دیتی ہے ضعیفوں کو عالم شباب دکھا دیتی ہے ناتوانوں کو میدان گھوڑ سوار میں لے آتی ہے ایسے آتی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی سرعت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر کے ہی دم لیتی ہے۔

1061- طلاء خوردین

عنايت: جناب حکیم محمد افضل صاحب بڑانہ جھنگ۔

ہو الشافی: ہیرا پنگ، جلوتری، ہر ایک ایک تولہ، نارچیل کہنہ تین تولہ، سم الفار سفید، شکر، انیون، جوز بوا، ہر ایک تین ماشہ، ازرائی مدبر چار رتی تلخ روہو پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے تلخ روہو میں کھل کیجئے پھر خوب بنا کر سایہ میں خشک کر کے بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین بوند سے پانچ بوند تک دودھ یا ملائی میں رکھ کر تناول فرما لیجئے یہ طلاء عضو مخصوص پر مالش بھی کیجئے۔

فائدہ: نہایت مقوی اور محرک دوا ہے قوت لفظ بے انتہا پیدا ہوتی ہے لائق تحسین دوا ہے۔

اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ پانچ تولہ روغن زرد کھلا دیجئے۔
فائدہ: اس قدر قوت پیدا ہوتی ہے کہ ضبط مشکل ہو جاتا ہے حیرانگی ہوتی ہے۔

1057- کبوتر والا

عنايت: جناب حکیم بہادر پند صاحب کھنہ لدھیانہ (ہند)

ہو الشافی: مردک سات عدد، سیما سات ماشہ، خراطین سات ماشہ

ترکیب تیاری: تینوں ادویات کو خوب باریک پیس کر سات عدد خوب بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی روزانہ صبح ایک کبوتر کو کھلا دیجئے اور شام کو ذبح کر کے روغن زرد میں بریاں کر کے ہلکے مصالح جات ڈال کر تناول فرما لیجئے۔

فائدہ: طاقت و قوت کے بڑھانے میں لاجواب ہے نامرد بھی مرد کامل ہو جاتا ہے استعمال سے کیجئے اور دعائے مدینہ دیجئے۔

نوٹ: اسی طرح روزانہ سات دنوں تک سات کبوتر کھا لیجئے۔

1058- کشتہ شکر

عنايت: جناب حکیم محمد منظور احمد صاحب ہیرانوالہ خوشاب۔

ہو الشافی: شکر، روئی دو تولہ، انیون خالص چھ ماشہ، بھلا دیس بیس تولہ، مالکنی دس تولہ۔

ترکیب تیاری: انیون کو زردی بیضہ مرغ میں کھل کر کے شکر پر پیٹ دیجئے پھر دیگر دونوں دواؤں کا نندہ بنا کر اس میں رکھ کر کڑا ہی کے نیچے ہلکی آج جلا دیجئے جب بھلا دیس کا نل نکل کر جل جائے تو سرد ہونے پر اتار کر شکر نکال لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو چاول صبح و شام ہمراہ مکھن دیجئے دودھ گھی بکثرت لیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ مقوی باہ اور مسکن بدن دوا ہے اساک بے حد پیدا ہوتا ہے چہرہ سرخ اور جوانی میں تیزی آجاتی ہے خون صالح پیدا ہوتا ہے غذا جزو بدن بنتی ہے نہایت مفید اثر دوا ہے۔

1059- معجون عشرت

عنايت: جناب حکیم رنگر سنگھ صاحب کوسلی رہتک (ہند)۔

ہو الشافی: فلفل سیاہ، مرچ سفید، اجوائن وال ہر ایک اڑھائی تولہ، انیون خام ایک تولہ، زعفران نو ماشہ، چھریلہ پانچ ماشہ، فرنیون پانچ ماشہ، جانفل ڈیرہ تولہ، جلوتری اڑھائی تولہ، مک

طلاء

حسب ضرورت طلاؤں میں سے تجویز فرما کر کام میں لائیے۔

1065- طلا مجلوق

عنايت: جناب حکیم اختر حسین انصاری صاحب پہاڑیخ دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: زعفران، بسباسہ، جوزبوا، خراطین، معنی، کھنکھ، کنیر سفید ہر ایک ایک تولہ، بیر بہوٹی، چھ ماشہ، سم الفار ایک ماشہ، قرفل تین ماشہ، زردی بیضہ مرغ، چار عدد پیاز زکسی ایک عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مثل پورڈر بنا لیجئے اور سرکہ کی مدد سے خوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: روزانہ سرکہ میں گھس کر لگائیے۔

فائدہ: مجلوق اور نامرد کے لئے نہایت مفید ہے طاقت از سر نو پیدا کرتا ہے لغوظ خوب بڑھاتا ہے۔ اکتالیس یوم تک استعمال کریں۔

1066- طلائر

عنايت: جناب حکیم ابوالفیض محمد عبدالجید خان صاحب حیدرآباد دکن۔

ہوالشافی: سم الفار سفید، تخم دھتورہ سیاہ، برادہ ازرائی، بیر بہوٹی، جانفل ہر ایک دو تولہ، لوگ، گونجھی سفید، عقرقرح، ہر ایک ایک تولہ، پنک ایک تولہ، پنک کنیر، مالکنسی ہر ایک نو ماشہ، زردی بیضہ مرغ دو عدد چربی ساٹھہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور خوب کنار دشتی بنا کر بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے۔

استعمال: قدرے روغن لیکر حشفہ اور سیون چھوڑ کر مالش کیجئے اوپر برگ ارغڑ باندھ لیجئے۔

فائدہ: مجلوق کے لئے نہایت مفید ہے صرف اکتالیس یوم تک استعمال کرنے سے تمام نقص دور ہو کر فریب و لبا اور ضعف ختم ہو جاتا ہے نہایت مفید طلاء ہے۔

احتیاطی تدابیر: اگر آبلہ پڑ جائے تو تینچی سے کتر دیجئے زرد رنگ کا پانی خارج ہوگا خشک کر کے روغن زرد لگائیے جب زخم اچھا ہو جائے تو پھر بدستور طلاء بطریقہ سابقہ لگا دیجئے اسی طرح ہر دفعہ کیجئے۔

1062- روئے قوت باہ

عنايت: فخر الحکماء جناب حکیم محمد یعقوب ہاشمی صاحب چوک کٹوہ سفید امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: بسباسہ، لوگ، الاچی خورڈ، بہن سفید، بہن سرخ، شقائق مصری، مخولجاں، زعفران، موچس، چرس ہر ایک چار ماشہ، ورق طلا، مشک، عنبر، ورق نقرہ ہر ایک چھ رتی، کوزہ مصری دو تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور شہد کی مدد سے خوب دورتی تیار فرما کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ناشتے کے بعد ہمراہ شیر گاؤ دیجئے دودھ گھی بکثرت دیجئے۔
فائدہ: قوت باہ اور ضعف باہ کے لئے نہایت جید الاثر مجرب دوا ہے۔

1063- اکسیر کبیر

عنايت: جناب حکیم ملک علی اکبر صاحب عطار بازار محضی ملا خاں لاہور۔

ہوالشافی: مصطلکی روئی، نارنیل، دریائی، زعفران کشمیری ہر ایک چار تولہ، نبات سفید شہد ہر ایک پانچ پندرہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کی حسب ضرورت معجون تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔

فائدہ: قوت باہ کے لئے نہایت مفید و مجرب ہے ارواح کو تقویت عطا کرتی ہے مادہ منویہ کو بکثرت پیدا کرتی ہے۔

1064- کشتہ فولاد

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب باغبانپورہ لاہور۔

ہوالشافی: برادہ فولاد بیس تولہ، شہر کھیگوار تین چھٹاک، سیماب اڑھائی تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر کھیگوار میں چار پہر خوب کھل کیجئے اور نکیہ بنا کر خشک ہونے پر ظرف گلی میں رکھ کر منہ بند کر کے نصف کلو جنکلی ادیوں کی آگ دیجئے اسی طرح اکاون مرتبہ آگ دیجئے اور سنبھال کر رکھئے نہایت نفیس کشتہ برآمد ہوگا۔

ترکیب استعمال: دو چاول سے ایک رتی مکھن میں دیجئے۔

فائدہ: مولد خن، متوی اعضائے ریسیہ و تاسل، مشتمی ہاضم، مسخی، نہایت مفید اور جید الاثر دوا ہے۔

1067- طلاء کمال

عنايت: جناب حکیم پیر مدنی صاحب تربلی جان مدراس (ہند)۔

ہوالشافی: سم الفار سفید چھ ماشہ بیر بہوئی ایک تولہ چربی شیر ایک تولہ مسکہ گاؤ پانچ تولہ شیر مدار دو تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو شیر مدار میں خوب کھل کر لیجئے پھر چربی شیر ملا کر کھل کر کے مسکہ میں ملا کر خوب یک جان کر لیجئے اور تیز دھوپ میں رکھ کر رکابی کو ذرا ترچھا کر کے رکھ دیجئے تیل الگ ہو جائے گا سنبھال کر شیشی میں رکھئے۔

ترکیب استعمال: رات سوتے وقت سیون اور حشفہ چھوڑ کر ماش کر کے برگ پان یا ارٹھ باندھ لیجئے۔

احتیاطی تدابیر: جب پھنسیاں پیدا ہو جائیں تو طلاء لگانا موقوف فرما کر مسکہ ایک سو مرتبہ دھویا ہوا لگائیے پھنسیاں درست ہونے پر پھر طلاء لگانا شروع کر دیجئے۔

فائدہ: سستی کمزوری کے لئے بے حدی مفید ہے تمام کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔

1068- طلاء جوگی

عنايت: جناب حکیم مفتی محمد ابراہیم صاحب جوڑہ چھتراں ضلع گورداسپور (ہند)۔

ہوالشافی: مرغ سیاہ جوان (جس نے جفتی نہ کی ہو) گدھے کا قارورہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: دونوں کو خوب اچھی طرح ملا کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: مرد کو لٹا کر قزیب پر لگا دیجئے اور خشک ہونے پر دوسرا لپ کر دیجئے پھر اوپر تیسرا لپ کر دیجئے۔

احتیاطی تدابیر: پہلی دفعہ لپ کرنے پر سوزش اور آس آ جائے گا پھر دوسرے پر کچھ بھی تکلیف نہ ہوگی حتیٰ کہ تیسرے لپ پر کچھ بھی احساس نہ ہوگا شہوت خوب غلبہ کرے گی مگر مباشرت نہیں کرنی ہے۔

فائدہ: دوسرے دن مشغول ہوں انشاء اللہ عزوجل یہ ہی لپ کافی ہے تمام نقائص رفع ہو جائیں گے۔

1069- طلاء احمدیہ

عنايت: حکیم عبدالملک صاحب بھورا بیٹی ڈھا کہ بنگال۔

ہوالشافی: جو تک مصفیٰ خراطین مصفیٰ بیر بہوئی ہر ایک چھ ماشہ روغن زیتون خالص تین تولہ مرکہ دو تولہ۔

شامس لقمانی فارمولے
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو روغن میں خوب جلا لیجئے پھر مرکہ دو تولہ شامل فرما کر سنبھال کر

استعمال: بوتل ہلا کر روزانہ رات سوتے وقت حشفہ و سیون چھوڑ کر عضو مخصوص پر پان یا ارٹھ باندھ دیجئے۔

ترکیب تیاری: اور برگ پان یا ارٹھ باندھ دیجئے۔
فائدہ: عضو مخصوص کی تمام کمزوریوں کو دور کرتا ہے ضعف باہ کو ختم کرتا ہے شہوت کو براہینتہ کرتا ہے۔

1070- طلاء خاص

عنايت: جناب حکیم محمد صفی اللہ خان صاحب پنوں۔

ہوالشافی: شکر ف ایک تولہ سم الفار ایک ماشہ بساہ تین ماشہ بیر بہوئی تین ماشہ مغز بجا لکڑی دس عدد مسکہ گاؤ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر لیجئے پھر مسکہ ڈال کر یک جان کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دورتی عضو مخصوص پر لگا کر اوپر برگ ارٹھ باندھ لیا کیجئے۔

احتیاطی تدابیر: صبح گرم پانی سے دھویں اگر دانے نکل آئیں تو مسکہ گاؤ لگائیے۔
فائدہ: مخلوقوں کے لئے از حد مفید ہے اور تجربہ شدہ ہے۔

1071- طلاء رحمت

عنايت: جناب حکیم محمد عبداللہ قادری نوشاہی امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: ریگ ماتھی لو بان کوڈیہ بیر بہوئی خراطین خشک مصفیٰ ہر ایک دو تولہ زردی بیضہ مرغ بارہ عدد روغن چنبیلی تین چھٹاک۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو روغن میں خوب کھل کر لیجئے تقریباً ایک ہفتہ کھل کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: رات سوتے وقت ماش کر کے اوپر برگ پان باندھ لیجئے۔

فائدہ: عضو مخصوص کے جملہ نقائص کے لئے بے حد مجرب اور بلا ضرر ہے۔

1072- طلاء مسیحا

عنايت: جناب حکیم محمد احسن سیکروی صاحب فیض باغ دہلی (ہند)۔

ہوالشافی: گندھک آملہ سار شکر ف سم الفار سفید ہڑتال درقی سیماب لو بان کوڈیہ سونا کمن مصطکی رومی منسل ہر ایک ایک تولہ زردی بیضہ مرغ بائیس عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر زردی بیضہ مرغ میں خوب کھل کر لیجئے

اور بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

454

ترکیب استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر رات سوتے وقت ماش کیجئے اور اوپر برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔**فائدہ:** مجلو قوں کے لئے بہت مفید ہے اور کئی سال سے میرے تجربہ میں ہے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔**نوید:** چھالے پیدا ہو جائیں تو مسکے لگائیے۔**1073- روغن سکندری****عنایت:** جناب حکیم دید حنفی شاہ دوموری لاہور۔**ہوالشافی:** میٹھا تیلیہ، گھوچی سفید، جما لگوٹہ، برادہ از راتی ہر ایک دو تولہ، ہڑتال درقی ایک تولہ، بنج کنیر سفید، اسکند ناگوری، بنج ہزل ہر ایک چار تولہ، چرونجی، ناخن گھوڑا ہر ایک دس تولہ، دودھ بھینس چھ کلو۔**ترکیب تیاری:** تمام ادویات کو دودھ میں ڈال کر ابالیں جب دودھ چار کلو رہ جائے تو ضامن لگائیے پھر مکھن نکال کر کھی بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔**ترکیب استعمال:** رات کے وقت دو یا تین بوند ماش کر کے برگ پان باندھ لیجئے۔
فائدہ: مجلو قوں کے لئے نہایت مفید ہے اس سے بڑھیا روغن ملنا ناممکن ہے۔**1074- طلاء کچی****عنایت:** جناب حکیم سندر سنگھ صاحب فرید کوٹ ضلع فیروز پور (ہند)۔**ہوالشافی:** از راتی مدیر، شکر، مغز جما لگوٹہ، مکھن برابر وزن۔**ترکیب تیاری:** تمام ادویات کو خوب باریک کر کے مکھن میں ملا کر خوب کھل کیجئے کہ مانند کریم بن جائے۔**ترکیب استعمال:** حشفہ اور سیون چھوڑ کر ایک رتی کی خوب ماش کیجئے اور برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔**فائدہ:** کمزوری، کچی، کوتاہی وغیرہ میں نہایت مفید الاثر دوا ہے۔**1075- طلاء عرفانی****عنایت:** جناب حکیم معین الدین صاحب چھتاری (ہند)۔**ہوالشافی:** زعفران خالص، پوست بنج مدار، عققرح، دارچینی، قرنفل برابر وزن۔**ترکیب تیاری:** تمام ادویات کو آب ستیاناسی میں خوب کھل کیجئے اور محفوظ رکھ لیجئے۔

455

شہاس لقمائی فارمولے

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت لعاب دہن ملا کر عضو پر ضاہ کیجئے۔
فائدہ: مقوی باہ ہے عضو تناسل کی کمزوری اور سستی دور کرتا ہے عضو کو مسمن اور دراز بھی کرتا ہے۔**1076- طلاء اکبر****عنایت:** جناب حکیم سید اکبر علی صاحب چونڈہ سیالکوٹ۔**ہوالشافی:** انیون چار ماش، جوز بوا پانچ ماش، دارچینی پانچ ماش، عققرح سات ماش، پیاز زکسی مہارہ ماش، پوست بنج خرپزہ بائیس ماش، خراطین مصفی پانچ ماش، جو تک خشک پانچ ماش، آب لہسن، آب اورک بقدر ضرورت۔**ترکیب تیاری:** تمام ادویات کو آب لہسن اور آب اورک میں خوب کھل کیجئے اور خوب دانہ خورد کے برابر بنا کر سنبھال لیجئے۔**ترکیب استعمال:** بوقت ضرورت ایک ایک حب لعاب میں کھس کر طلاء کیجئے۔
فائدہ: تقویت باہ کے لئے نہایت مفید ہے کچی کوتاہی لاغری سستی کو دور کرتا ہے نہایت مفید دوا ہے۔**1077- طلاء مجلوق****عنایت:** جناب حکیم ایس کے دیوان صاحب ناگپور شہر۔**ہوالشافی:** فرنیون چھ ماش، عققرح، قرنفل، دارچینی ہر ایک نو ماش، روغن زینق چار تولہ، شیر مدار ایک تولہ۔**ترکیب تیاری:** تمام ادویات کو خوب میدہ بنا کر روغن میں کھل کیجئے نیز شیر مدار بھی ڈال کر خوب کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔**ترکیب استعمال:** حشفہ اور سیون چھوڑ کر ماش کر کے برگ ارٹھ باندھ دیجئے۔**احتیاطی تدابیر:** پھوڑے پھنسیاں نکلنے پر دوا لگانا موقوف کر کے روغن چینی لگانا شروع کر دیجئے اور بعدہ درست ہونے پر دوا پھر لگانا شروع کر دیجئے۔**فائدہ:** نہایت مفید طلاء ہے سات روز میں عضو سخت اور طاقتور ہو جاتا ہے۔**1078- طلاء بٹالہ****عنایت:** جناب حکیم دیوی داس پنی صاحب بٹالہ گورداسپور (ہند)۔**ہوالشافی:** بیر بہونی، قرنفل، جائل، مالکنی، برادہ دندان لیل، جما لگوٹہ، مقبڑ، سرگرت تازہ، چربی فوک صحرائی، چربی ساٹھ، مستی شتر ہستی ہر ایک تین تولہ، پوست بنج کنیر سفید ایک تولہ، سروال

ہمس لقمائی فارمولے
ہو الشافعی: دلوں، مشک، خراطین، چند بیدستر، عقرقرح، بیر بہونی، ہر ایک ایک تولہ، پوست سخ
 تمبر، سفید دگل، سفید مالکینی، جانگل ہر ایک نو ماشہ، عنبر اشہب، مشک خالص ہر ایک دو ماشہ، عطر
 حباب، فلرنا، چربی ساڈہ، چربی ریکھ، ہر ایک چھ ماشہ۔

تیاری: تمام ادویات کو خوب ہر ایک مثل غبار کر لیجئے پھر دیگر ادویات ملا کر عطریات ملا
 کر خوب کھل کر کے سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر قدرے طلاء کیجئے اوپر برگ پان یا برگ ارٹھ
 بانڈہ دیجئے۔

فائدہ: عضو مخصوص کے جملہ امراض و عوارضات کو رفع کرتا ہے کبھی و استرخام و عدم لغوظ
 بہواری وغیرہ کیلئے اعلیٰ درجہ کا مقوی و تجربہ شدہ نسخہ ہے۔

1082- طلاء شباب

عنايت: جناب حکیم محمد عبدالرحمن صاحب کوئلہ مگیاں ڈی جی خان۔

ہو الشافعی: اسپندیک پاؤ، ہیراپنگ ایک تولہ، بیر بہونی پانچ تولہ، مغز جما لگو، مغز تخم بید انجیر،
 چربی شیر ز قرفل، جلوتری، چربی ساڈہ ہر ایک ایک تولہ۔

تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور سنبھال
 کر رکھئے۔

استعمال: روزانہ سات کو مالش کر کے اوپر برگ ارٹھ بانڈہ لیجئے۔
فائدہ: سستی و کاہلی دفع کرتا ہے عضو کو سخت بناتا ہے نہایت مفید و جید الاثر دوا ہے۔

1083- طلاء نو بہار

عنايت: جناب حکیم سید رفیق احمد صاحب جوہر پھاسو بلند شہر (ہند)۔

ہو الشافعی: قرفل چھ ماشہ، مغز بادام شیریں، مغز پستہ، چربی شیر، چربی غوک، برساتی کلاں،
 بیر بہونی، معطلی روی، خراطین مصفی، ناگیس ہر ایک ایک تولہ، عطر حنا چھ ماشہ۔

تیاری: تمام ادویات کو خوب ہر ایک مثل پورڈر بنا لیجئے اور عطر ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
استعمال: بوقت ضرورت عضو تناسل پر ہلکا سالیپ کر کے اوپر برگ ارٹھ یا برگ
 پان بانڈہ دیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید الاثر دوا ہے ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے تجربہ شدہ ہے۔ اکیس یوم
 تواتر استعمال کریں۔

دس تولہ سم الفار سیاہ چھ ماشہ، مقرب سیاہ دو تولہ۔
تیاری: تمام ادویات کو نہایت ہر ایک کھل کر کے بوب، بنگلی بیر برابر بنا کر بذریعہ
 تپال جنتر تیل کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر روزانہ مالش کیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کی تکلیف دور ہوگی پھیلاؤں، ڈالتا دانے نہیں بناتا نہایت مفید اور سریع الاثر دوا
 ہے۔ اکیس دن کافی ہے۔

1079- طلاء باہ

عنايت: جناب حکیم سید عبدالعزیز صاحب پائے پور منظر پور (ہند)۔

ہو الشافعی: مغز جما لگو، بارہ عدد سم الفار سفید چار ماشہ، عروسک ایک تولہ، شکر ایک تولہ،
 مسکہ گاؤ چھ ماشہ۔

تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور مکھن میں ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
استعمال: روزانہ رات سوتے وقت حشفہ اور سیون چھوڑ کر لگائیے اور اوپر برگ
 ارٹھ بانڈہ دیجئے۔

فائدہ: بادی اور دیر ہضم غذاؤں سے پرہیز کیجئے۔

1080- طلاء مجلوق

عنايت: جناب حکیم گردھاری صاحب بھاگو دال ضلع کجرات (ہند)۔

ہو الشافعی: بیر بہونی، خراطین، ازبلی، گندھک آملہ ساڑھت درخت کنیر سفید ہر ایک چار
 تولہ، جانگل، لوگ، دارچینی، عقرقرح، گھوچی سفید ہر ایک دو تولہ، جلوتری، زعفران، جما لگو، مغز تخم
 ارٹھ سم الفار سفید ہر ایک ایک تولہ، دودھ مدار بقدر ضرورت۔

تیاری: تمام ادویات کو خوب ہر ایک پیس کر شیر مدار میں کھل کر کے بخودی خوب
 بنا کر خشک کر لیجئے اور بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر طلاء کیجئے اور برگ پان بانڈہ لیجئے۔
فائدہ: سرد پانی سے بچائیے۔

نوٹ: یہ طلاء نامرد و ازکارفہ و مجلوق کے لئے آب حیات ہے ہر طرح کی کمزوری و سستی دور
 بناتا ہے نہایت جید الاثر لاثانی دوا ہے۔

1081- طلاء عشرت

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن قریشی صاحب اسلام پورہ فیصل آباد۔
 www.pdfbooksfree.pk

1084- طلاء رئیس

عنايت: جناب حکیم مولوی سرد احمد خان صاحب بلند شہر۔

ہوالشافی: پوست بچ کبیر سفید پانچ تولہ، کرشن آئیل ایک تولہ، روغن نارجیل دو تولہ، مراد گاؤ دو عدد، آب چمپہ آدھ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے آب میں ملا کر ہلکی آنچ پر رکھے جب پانی جل جائے تو کشید کر کے سنبھال کر رکھے۔

ترکیب استعمال: حشفہ و سیون چھوڑ کر روزانہ ماش کیجئے اور برگ ارٹھ باندھ دیجئے۔
فائدہ: مجلوق کے لئے آب حیات ہے ضعف باہ کا خاتمہ کرتا ہے نہایت مفید و جید الاثر دوا ہے۔ دس یوم تک کافی ہے۔

1085- طلاء نواز شریف

عنايت: جناب حکیم قاضی محمد احمد صاحب خاکی مانسہرہ ہزارہ۔

ہوالشافی: ایک بیٹکن اس کے اندر چالیس عدد قنقل دراز چھو دیجئے روغن کبجہ آدھ کلو کپڑے مٹھی ایک پاؤ، لہسن مٹھی سو گرام۔

ترکیب تیاری: پہلے بیٹکن کو چند دن پڑا رہنے دیجئے تاکہ زرد ہو جائے جو پانی خارج ہو رہا بھی سنبھال کر رکھے پھر اسے روغن کبجہ میں ڈال کر ہلکی آنچ دیجئے بعدہ خراطین بھی ڈال کر خوب جلا کر رکھ دیجئے بعدہ لہسن شامل کر کے خوب کھل کر دیجئے یک جان کریم بن جائے گی سنبھال کر رکھے۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات ایک ماشہ عضو پر ماش کر کے برگ ارٹھ باندھ دیجئے۔

فائدہ: مجلوق ازکارفتہ ست اور مایوس العلاج کے لئے آب حیات ہے کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے کبلی لاغری کوتاہی رفع کر کے تیزی و تندی پیدا کرتا ہے۔ نہایت بھروسہ کی دوا ہے۔ اکتالیس یوم متواتر استعمال کیجئے۔

1086- طلاء احمر

عنايت: جناب حکیم غلام حسین صاحب محلہ میاں قطب الدین راولپنڈی۔

ہوالشافی: شکر، ہڑتال، ورتی، الاراقی، سم الفار سفید، میٹھا، میلیہ، ہر ایک چھ ماشہ، مٹھا، ملا، ایک تولہ، ماشی ایک تولہ، عقرقرخا، خراطین، عروسک، پہلا مول، جلوتری، جانقل، قرقل، زمرہ، زرد ہر ایک ایک تولہ، زردی بیضہ مرغ آٹھ ٹھہر۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو نہایت باریک پس کر زردی بیضہ مرغ ملا کر بذریعہ تہال چڑ

روغن کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھے۔

ترکیب استعمال: تین قطرے روغن ماش کر کے اوپر برگ ارٹھ یا برگ پان باندھ لیجئے۔

فائدہ: اگر پھنسیاں نمودار ہوں تو مکھن لگائیے اور تین دن کے بعد پھر روغن ماش کیجئے۔
نوعت: مجلوق کیلئے اسیر ہے کبلی لاغری، کوتاہی وغیرہ کو ختم کر کے عضو طاقتور مضبوط، مسمن اور دراز کرتا ہے۔

1087- ایشی طلاء

عنايت: جناب حضرت علامہ حکیم امین الدین صاحب سابقہ داکٹر پرنسپل طبیہ کالج دہلی (ہند)۔
ہوالشافی: شکر، رومی دو تولہ، جما لگوٹہ دو تولہ، سم الفار سفید تین تولہ، موم خالص چار تولہ، مکہ گاؤ بارہ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پہلے نہایت باریک مثل پورڈر بنا لیجئے بعدہ دیگر ادویات ملا کر تقریباً آٹھ دن گرینڈ کیجئے اور سنبھال کر رکھے۔

فائدہ: استرخاء، ضعف اعصاب کو دور کرتا ہے۔ مجلوقوں کے لئے تحفہ انمول ہے۔

1088- طلاء احسن

عنايت: جناب حکیم سید غلام باری ہاشمی صاحب کلانور گورداسپور (ہند)۔

ہوالشافی: مصطکی رومی چھ ماشہ، بیر، بہوئی، جند بیدستر، مغز بادام تلخ، گھوچی سرخ، گھوچی سفید، سوٹھ ہر ایک تین ماشہ، روغن زیتون پانچ تولہ، روغن بلسان دو تولہ، پتہ مینڈک دو تولہ، عطر اگر تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو نہایت باریک مثل غبار بنا کر روغنیات اور دیگر ادویات ملا کر سنبھال کر رکھے۔

ترکیب استعمال: تھوڑی سی مقدار لے کر عضو پر ماش کیجئے اور برگ پان یا ارٹھ باندھ لیجئے۔

فائدہ: عضو تناسل کے خم کو دور کر دیتا ہے نہایت مفید الاثر لاثانی نسخہ ہے۔

1089- طلاء کامیاب

عنايت: جناب حکیم سراج الدین صاحب ہیرانوالہ جھنگ۔

ہوالشافی: سم الفار پانچ تولہ، سوڈا کاسٹک پانچ تولہ، شیر بڑا ایک کلو، پانی پانچ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ملا کر آگ پر رکھے جب پانی اُڑ جائے تو ٹھنڈا کر کے جمالیجئے اور سنبھال کر رکھے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ دوا اور ایک تولہ روغن چنبیلی ملا کر بطور طلاء استعمال کیجئے۔
فائدہ: عضو تناسل کی تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لئے نہایت ہی کامیاب دوا ہے۔ ایسے نسخے کبھی ہزاروں سال بعد ہاتھ آتے ہیں قدر کیجئے اور انعامات لیجئے۔

1090- طلاء دراز گوش

عنايت: جناب حکیم سید عطاء غوث صاحب بہاری پور بریلی شریف (ہند)۔

ہوالشافی: ہڑتال طبعی، سیماب مردہ سنگ، سم الفار ہر ایک ایک تولہ درد بول خراک کلز عرق کینٹی بارہ تولہ روغن گاؤ سات تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے چاروں ادویات کو خوب کھل کیجئے اور بعدہ دراز بول خراک کھل کیجئے پھر عرق ڈال کر مزید تین یوم کھل کیجئے بعدہ روغن گاؤ ملا کر کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک دن کے وقفے سے ایک دن رات سوتے وقت ایک رتی عضو پر ماش کیجئے اور برگ پان باندھ لیجئے۔

فائدہ: عضو تناسل کو دراز اور موٹا کرتا ہے سخت طاقتور بناتا ہے جیسے دراز گوش۔

1091- ضما و مجلوق

عنايت: جناب حکیم صفدر علی خان نور پور ترنتارن ضلع امرتسر (ہند)۔

ہوالشافی: شکر ف روئی، سیماب ہڑتال ورقیہ، کچھل ہر ایک ایک تولہ، سکھیا سفید چھ ماہ شیر مدار بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو شیر مدار میں چھ یوم کھل کیجئے پھر سنبھال کر محفوظ کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے ڈیڑھ رتی حشفہ اور سیون چھوڑ کر ضما کیجئے۔

فائدہ: نہایت مفید معمول مطب نسخہ ہے مجلوق کے لئے آب حیات ہے۔

نوٹ: تین دن کے اندر اندر چھالہ بن جائے تو سفید پانی نکال کر بعد میں مکھن لگائیے۔

1092- طلاء کڑا کا

عنايت: جناب حکیم محمد علی صاحب اندرون مالوہ سنٹر انڈیا (ہند)۔

ہوالشافی: جند بید ستر چار ماشہ، عقر قرحہ آٹھ ماشہ، فرنیون چھ ماشہ، مویز منقی چھ ماشہ، دارچینی

آٹھ ماشہ، لوگ دو دانہ، آب لہسن، آب اورک بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے دونوں آب میں خوب کھل کیجئے اور خودی جوہ تیار کر کے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ رات کو ایک گولی آب میں گھس کر حشفہ اور سیون بچا کر طلاء

بہت سے اور برگ ارٹھ باندھ دیجئے۔
فائدہ: عضو مخصوص کی جملہ خرابیوں کو ختم کر کے اعصاب کو طاقت عطا کرتا ہے خون کی آمد کو بڑھاتا ہے اور طاقت افزا طلاء ہے۔
پرہیز: سرد پانی سے پرہیز واجب ہے۔

1093- طلاء بے نظیر

عنايت: جناب حکیم سید معین الدین صاحب سکندر آباد یوٹین پلی نین (ہند)۔

ہوالشافی: مغز تخم پلاس، جائفل، مغز تخم ارٹھ، مالکنی، موئے سرانسان ہر ایک ایک تولہ، قطب لوبج ہر ایک چھ ماشہ، تخم جوز ماشل دو ماشہ، آب برگ ارٹھ سرخ بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب برگ ارٹھ میں خوب کھل کر کے بذریعہ تپال جنتر روغن کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تھوڑا سا طلاء عضو پر ضما کر کے برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔
فائدہ: دس یوم کے استعمال سے طاقت لوٹ کر آئے گی جملہ خرابیاں دور ہوں گی نہایت مفید و تجرب ہے۔

1094- طلاء نامرد

عنايت: جناب حکیم میر سعادت علی شاہ صاحب چوک سپاں حیدر آباد دکن (ہند)۔

ہوالشافی: مغز ارٹھ، رائی، حزل تازہ ہر ایک ایک تولہ، بیر بہوئی تین ماشہ، روغن دارچینی دو ماشہ، روغن چنبیلی دو ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کھل کر کے روغنیات ملا کر خوب کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: رانوں قضیب اور خصیہ پر خوب ماش کیجئے۔

فائدہ: تقویت باہ و مجلوق کے لئے نہایت مفید ہے عضو تناسل کو فربہ کرتا ہے قوت باہ بڑھاتا ہے۔

1095- طلاء طاقتور

عنايت: جناب حکیم اللہ داد صاحب جھنڈہ سونار پٹی (بنگال)۔

ہوالشافی: سم الفار سفید، سیماب، بیر بہوئی ہر ایک دو تولہ، زردی بیضہ مرغ بارہ عدد۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو چھ یوم تک خوب کھل کیجئے اور بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے۔

ترکیب استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر مالش کر کے اوپر برگ کے پان باندھ لیجئے۔
فائدہ: اعصاب کے اندر بجلی کی سی لہریں پیدا کرتا ہے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔
نوٹ: سرد پانی سے پرہیز کیجئے۔

1096- طلاء نایاب

عنایت: جناب حکیم آسانند صاحب پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان۔

حوالہ شافی: اسگنڈ ناگوری، انبہ ہلدی، ایفون ہر ایک آٹھ ماشہ پوسٹ بیج کبیر سفید آٹھ ماشہ است بول خر بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے ست بول خر میں کھرل کیجئے اور سات حصوں میں تقسیم کر کے سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ ایک حصہ ست بول خر میں ملا کر طلاء کیجئے۔

فائدہ: مجلوق کے جملہ عوارضات کو دور کر کے کامل مرد بنا دیتا ہے مجلوق خواہ دس بارہ سال کیوں نہ ہو نہایت مفید ہے۔

نوٹ: سات دن میں نہایت بے قراری ہو جائے گی اگر عورت قریب نہ ہو تو عرق لیموں پھینک کر اتر کر کے پیٹ دیں تاکہ سختی زائل ہو جائے۔

1097- طلاء باہ

عنایت: جناب حکیم احمد علی خان صاحب کاکوری ضلع لکھنؤ (ہند)۔

حوالہ شافی: گل کنبج تازہ ایک تولہ، سم الفار سفید ایک تولہ، شیر گاؤ ایک کلو۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو باریک کر کے دودھ میں ملا کر خوب ابالیں پھر ضامن لاکھی تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: رات کو عضو پر مالش کر کے برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔

فائدہ: قوت باہ پیدا کرتا ہے عضو تناسل کی تمام خرابیوں کو ختم کرتا ہے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

1098- طلاء عجیب

عنایت: جناب حکیم محمد عبدالجید خان صاحب ریاست جاوڑہ (ہند)۔

حوالہ شافی: بچھناک ایک تولہ، عقرقر چھ ماشہ، سندھور تین ماشہ، شیر مدار چار تولہ، روغن چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو ایک کڑاہی میں ڈال کر نیم کے ڈنڈے سے جس کے ہا

شامس لقمانی فارمولے

پان باندھ کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: حشفہ اور سیون چھوڑ کر مالش کر کے برگ ارٹھ یا برگ پان باندھ لیجئے۔

فائدہ: جو عینین وازکار رفتہ کے لئے نہایت جید الاثر اکسیر ہے۔ بارہ یوم استعمال کروائیں۔

نوٹ: اگر جوڑ پیدا ہو جائے تو روغن گاؤ یا روغن چنبیلی لگائیے۔

1099- طلاء جادو

عنایت: جناب حکیم عبدالرؤف ندوی صاحب بھاشاور۔

حوالہ شافی: بیٹھا تیلیہ، ازراقی، جما لگوٹہ، گھوچی سفید ہر ایک ساڑھے تین تولہ، استخوان مایہ سوختہ ایک تولہ، لاکھ سرخ ایک تولہ، خراطین مصفی سات عدد، بیر بہولی ایک تولہ، شیر چربی چار تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھرل کر کے خوب تیار کیجئے اور بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے۔

ترکیب استعمال: تین قطرے حشفہ اور سیون چھوڑ کر مالش کر کے برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔

فائدہ: عضو تناسل کی تمام خرابیوں کو رفع کر کے عضو کو طاقت ور بناتا ہے مردانہ صفات پیدا کرتا ہے۔ ایکس یوم تک استعمال کریں۔

1100- طلاء طوفانی

عنایت: زبدۃ الحکماء جناب حکیم ملک محمد شریف صاحب مسجد تحصیل والی فیصل آباد۔

حوالہ شافی: گندھک آملہ سار ایک تولہ، شکر ف ایک تولہ، سم الفار سفید نو ماشہ، بھون پھلی نو ماشہ، جما لگوٹہ دو تولہ، جانفل دو تولہ، لوبان کوڈیہ تین تولہ، ہڑتال درقہ ایک تولہ، نوشادر چھ ماشہ، تخم ارٹھ دو تولہ، قرفل دو تولہ، زعفران تین تولہ، جلوتری دو تولہ، بیر بہولی تین تولہ، خراطین خشک پانچ تولہ، پتہ ساٹھہ اکیس تولہ، پتہ شیر گداختہ دو تولہ، پتہ خرس دو تولہ، ریگ ماہی دو تولہ، مالکئی دو تولہ، دارچینی دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر خوب بخودی بنا کر بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تھوڑا سا روغن مالش کر کے اوپر برگ ارٹھ باندھ لیجئے۔

فائدہ: بے ضرر طلاء ہے جلق، سستی اور کمزوری کے لئے مفید ہے ہزاروں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔

لکھ نمبر 643 ملاحظہ فرمائیے۔
 لکھ نمبر 1059 ملاحظہ فرمائیے۔

1101- طلاء بیش بہا

عنايت: جناب حکیم ولد ارشیم بھٹی صاحب مہاشتر (ہند)۔

ہوالہ شافی: کارا اور آئیل ایک تولہ پٹھاناس آئیل تین ماشہ بیچ منٹ آئیل چھ ماشہ دارکھانہ تیل چھ ماشہ شکر ب روی تین ماشہ زعفران تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب اچھی طرح کھل کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: رات سوتے وقت عضو پر پندرہ قطرے حشفہ اور سینوں پہوڑ کر ماش کیجئے اور برگ ارٹھ ہاندھ لیجئے۔

فائدہ: پندرہ روز کے استعمال سے بے حس اعصاب اور کمزور لیسوں میں جان بڑھاتی ہے مہمان ہوا عضو تناسل تروتازہ ہو کر از سر نو کام کے قابل ہو جاتا ہے اور لو خیز لڑکے کی طرح لڑائی خواہش پر تندی دیتی دختی پیدا ہو کر لڑائی سر انجام دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

ملذ نسخہ جات

1102- ملذ عطار

عنايت: جناب حکیم محمد لطیف صاحب بی اے جھنگ۔

ہوالہ شافی: آب زہرہ مرغ سفید ایک عدد گل مولسری چند ایک عطر گلاب خالص اور کیوڑہ عطر حنا عطر عنبر ہر ایک چھ ماشہ خراطین مصفی تین ماشہ عطر اگر غرقی دو ماشہ موم شہد ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور عطریات کو ملا کر خوب یک جان کر کے محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت استعمال کیجئے۔

فائدہ: لطف و سرور کی پر کیف گھڑیوں میں خوب اضافہ ہوتا ہے فریق ثانی ہمیشہ کے لئے غلام بن جاتا ہے۔

1103- ملذ خاص

عنايت: جناب حکیم احسن التوحید صاحب آریہ ضلع پودینہ بہار (ہند)۔

ہوالہ شافی: کافور دیسی سہاگہ برابر وزن شہد خالص بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو خالص شہد میں اس قدر کھل کیجئے کہ بس پیدا ہو جائے۔

سنجال کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت استعمال کیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ درجہ کا ملذ ہے۔ عورت کو خوب سکون عطا کرتا ہے لطف کو بھی پکھڑیاں لگ جاتی ہیں۔

1104- ملذ ہاشمی ✓

عنايت: جناب حکیم جیلانی ہاشمی صاحب دیکس مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالہ شافی: سوٹھ عقرقرحا بیر بہولی ہر ایک ایک ماشہ خراطین مصفی دو ماشہ شہد خالص بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر شہد ملا کر سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: قدرے طلاء کر کے خشک ہونے پر مشغول مباشرت ہوں۔

فائدہ: نہایت لذت پیدا ہوتی ہے عورت پیچھے پیچھے آتی ہے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتی مجب چیز ہے۔

1105- ملذ اعلیٰ ✓

عنايت: جناب حکیم عبدالحمید صاحب کینجر مظفر گڑھ۔

ہوالہ شافی: مغز املی ایک تولہ مازو بے سوراخ ایک تولہ ہیرا پنگ چاررتی سہاگہ چاررتی عقرقرحا چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کیجئے اور مثل غبار بنا لیجئے اور سنجال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت پندرہ منٹ پہلے چٹکی پانی میں ملا کر عضو پر ضا د کیجئے اور خشک ہونے پر مباشرت کیجئے۔

فائدہ: نہایت اعلیٰ درجہ کا ملذ نسخہ ہے لذت کو چار چاند لگا دیتا ہے فریق ثانی ہمیشہ کے لئے گردیدہ ہو جاتا ہے۔

1106- ملذ عیش

عنايت: جناب حکیم محمد اسماعیل صاحب کڑیالہ گجرات۔

ہوالہ شافی: عنبر اشہب مشک خالص ہر ایک ڈیڑھ ماشہ عقرقرحا زعفران دارچینی سہاگہ کافور ہر ایک تین ماشہ بیر بہولی چھ ماشہ عطر گلاب عطر خس عطر موتیا عطر کیوڑہ خالص تازہ خس ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام خشک ادویات کو خوب کھل کر کے عطریات ملا کر سنجال کر رکھیں۔

معدہ کے امراض

معدہ غذا کی تالی کے نیچے پھیلا ہوا ایک مخروطی شکل کا عضو ہے جو اردو کے حرف "ل" کے مشابہ ہوتا ہے معدے میں دو سوراخ ہوتے ہیں ایک سوراخ بڑا جسے ثقب الخواد کہتے ہیں جو غذا کی تالی کے آخری حصے اور قاع المعدہ سے ملتا ہے۔ دوسرا سوراخ معدے کے زیریں جانب حصہ بواب پر بارہ انگلی آنت سے جڑا ہوتا ہے۔

نکل وقوع:

معدہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں بائیں جانب عمودی حالت میں ہوتا ہے یہ جباب جاز کے نیچے ہوتا ہے پیچھے شریان اعظم اور ریڑھ کی ہڈی کا ستون ہوتا ہے بائیں طرف پیچھے لہال ذرا نیچے اسی جانب بانقراس ہوتا ہے دونوں طرف گردے اور سامنے قولون مستعرض ملتا ہے۔

ساخت:

معدے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

- | | | |
|-----|------------|---------|
| (1) | قاع المعدہ | Fundus |
| (2) | جسم معدہ | Body |
| (3) | بواب معدہ | Pyloric |

معدے کے باہر صفاتی جھلی کا غلاف ہوتا ہے معدے کی ساخت میں چار طبق پائے

جاتے ہیں:

- (1) بیرونی طبق
- (2) عضلاتی طبق
- (3) بلغمی جھلی کی زیریں تہہ
- (4) غشائی طبق

معدہ کے اندر دو طرح کی رطوبات مترشح ہوتی ہیں:

- (1) تیزابی رطوبت
- (2) کھاری رطوبت

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت کام میں لائیے۔
فائدہ: نہایت عجیب لطف آمیز چیز ہے۔ نہایت بھروسہ کی چیز تجربہ شدہ ہے۔

1107- طلاء ملذز

عنایت: جناب حکیم محمد یعقوب علی صاب شیر کوٹ بجنور (ہند)

ہوالشافی: بیربہوئی، خراطین، چرس، اسکند ناگوری، جانفل، زعفران، عطر کیوڑہ، عطر گلاب، عطر حنا، عطر مولسری ہر ایک تین ماشہ، انیون نو ماشہ، مشک خالص ایک ماشہ، شہد خالص تین تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے عطریات شامل کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت چار رتی طلاء کیجئے۔

فائدہ: تمام ملذذ نسوں کا سر تاج ہے نہایت مفید اور ٹھیک ٹھاک لطف عطا کرتا ہے۔

ضعف اعضاء رئیسہ

ضعف اعضاء رئیسہ کے لئے درج ذیل نسخہ نمبر ملاحظہ فرمائیے:

- 1- نسخہ نمبر 630 ملاحظہ فرمائیے۔
- 2- نسخہ نمبر 790 ملاحظہ فرمائیے۔
- 3- نسخہ نمبر 909 ملاحظہ فرمائیے۔
- 4- نسخہ نمبر 1062 ملاحظہ فرمائیے۔



درد معدہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
درد معدہ	وجع المعده	کیسر بلیجا

تعریف مرض:

مقام معدہ پر شدید درد ہوتا ہے درد معدہ وجع المعده وجع البغداد درد شکم کارڈی ایلیجا وغیرہ اسی مرض کے مختلف نام ہیں۔

اسباب:

عموماً درد نازک اندام لڑکیوں کو بد ہضمی یا قبض کے باعث ہوا کرتا ہے کثرت چائے نوشی، تمباکو کا زیادہ استعمال وغیرہ سے بھی یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لکچ شکم زخم معدہ، السز اپنڈی سائٹس، سنگ گردہ و مثانہ و مرارہ درد دل وغیرہ کے باعث بھی ایسا ہو جاتا ہے۔

علامات:

پیٹ میں ریاح کی کثرت کے باعث پسلیوں کے نیچے کھچاؤ محسوس ہوگا پیٹ پھولا ہوا ہوگا قراقر اور سینے میں جلن بھی ہوگی اور اگر ساتھ عضلات میں تپتپ ہو تو شدید درد دورہ کرتا ہے۔ زخم معدہ کے باعث درد ہو تو معدہ کے مقام کو دبانے سے درد میں شدت پائی جائے گی بھوک کی حالت میں درد تیز ہوگا تیز مصالحو جات وغیرہ مرض میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پاخانے میں خون سیاہی مائل یا کبھی تے بھی آئے گی۔ دیگر امراض میں علامات مرض کے مطابق ہوں گی۔

علاج:

حقیقی سبب معلوم کر کے علاج معالجہ کیجئے یا حسب ضرورت نسخہ جات میں سے دوا تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1108- اکسیر معدہ

عنایت: جناب حکیم میر نور الہی صاحب یونانی فزیشن ہندوستانی خیراتی شفاخانہ لاہور۔
ہوالشافی: سوڈیم بائیکاب، زخمیل، ریوند خطائی ہر ایک برابر وزن۔

شامس لقمائی فارمولے
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کھرل کر کے سنبھال کر رکھئے۔
تذکیب استعمال: ایک ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: سوہ ہضم، لکچ معدہ درد معدہ میں نہایت ہی جید الاثر دوا ہے۔

1109- اکسیر شفاقی

عنایت: جناب حکیم سید عبدالقادر شاہ صاحب امین گاؤں ضلع لاڑکانہ باب الاسلام سندھ۔
ہوالشافی: پوست ہلیلہ زرد پوست بلیلہ پوست آملہ، قفل دراز، قفل سیاہ، زخمیل، سہا کہ خام، نوشادر، نمک سیاہ ہر ایک پچاس گرام حلتیت بریاں چھ ماشہ پوست بیخ مدار تازہ دس تولہ۔
تذکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک چس لیجئے اور حبوب نخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

تذکیب استعمال: دو سے تین گولی بعد طعام دن میں تین مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: سوہ ہضم، درد شکم، درد معدہ و قراقر ہیضہ میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔

ضعف سوئے ہضم

بد ہضمی / ڈس پیپسیا

تعریف مرض:

اس مرض میں معدے کے فعل ہضم میں فرق واقع ہو جاتا ہے مگر بناوٹ میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں ہوتی۔

اسباب:

کھانے پینے میں لاپرواہی غذا اچھی طرح نہ چبانے، عرصہ تک ایک ہی قسم کی غذا کا استعمال، کثرت مصالحو جات کا استعمال، جگر آنتوں یا بلبہ کی رطوبات کی خرابی، قبض، ناقص غذا کا استعمال، پیپ سین یا کیسٹرک جوس کی کمی و بیشی، صفا وغیرہ کی زیادتی، رنج و غم، خرابی خون، آلات ہضم کی قوتوں کی کمزوری، عصبی خرابی یا عضلاتی خرابی یا کنیکشنوز کی خرابی یا سوزش کے باعث عارضہ لاحق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

علامات:

معدے کے ہضم میں فرق آ جاتا ہے درد گرانی، بے چینی، ترش ڈکاریں، کبھی دست کبھی

گبش بدبودار ڈکار اہتیلیاں جلا تکرے جلا وغیرہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پرانی بدہضمی میں مقام معدہ پر ہلکا ہلکا درد شروع ہو جاتا ہے دم کٹی کٹے ڈکار آتے ہیں۔ پیشاب میں مادے بیٹھ جاتے ہیں۔ کستی کاٹلی طے پڑ جاتی ہے۔ شدید کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے چینی گھبراہٹ ہاتھوں اور پاؤں میں گھجلی شروع ہو جاتی ہے۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں دوا تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1110- ہاضمو

عنايت: جناب حکیم خدا بخش صاحب حسین پور آڑی والا مدینہ الاولیا ملتان شریف۔

ہوالشافی: کاسنی، السستین، پاپڑا، گل سرخ، تخم خربوزہ پانچ پانچ تولہ، تر پھلا دس تولہ، چرائیہ زرشک، گلو ہر ایک چار تولہ، افتیمون دو تولہ، گل گاؤ زہان تین تولہ، مصری ایک کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو چار کلو پانی میں بھگو دیجئے، صبح خوب بوائل کیجئے آدھا رہنے پر کوزہ مصری ایک کلو ملا کر شربت کا قوام بنائیے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دن میں تین مرتبہ ایک ایک تولہ ہمراہ پانی دیجئے۔

فائدہ: بدہضمی، ضعف معدہ کے لئے نہایت لاجواب دوا ہے یرقان کا خاتمہ کرتی ہے جگر کے افعال کو درست کرتی ہے۔

1111- تریاق معدہ

عنايت: جناب حکیم سید محمد اسرار اللہ صاحب جھمرہ فیصل آباد۔

ہوالشافی: گندھک آملہ سار، جوہر نوشادر، ہر ایک ایک تولہ، سرکہ انگوری، آب مولی پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو دونوں پانیوں میں خوب کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی ہمراہ کھن کھالیا کیجئے۔

فائدہ: معدہ کو طاقت عطا کرتی ہے غذا کو ہضم کرتی ہے امراض معدہ میں جید الاثر دوا ہے۔

1112- حب عزیز

عنايت: جناب حکیم عبدالعزیز بیل ہٹ ہریٹ سیون شریف لاڑکانہ باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: پوست بچ مدار، قنفل سیاہ، قنفل، انگور برابر وزن، عرق پودینہ بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر عرق کی مدد سے خوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو دو گوتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

شہاس لسانی فارمولے
خفقہ: ہیضہ کے لئے لاجواب اکسیر ہے لاشعق، بدہضمی، بلغمی کھاسی وغیرہ کے لئے تریاقی دوا کی حامل ہے۔

1113- ہاضمین

عنايت: جناب حکیم محمد علی آزاد صاحب مٹن مارکیٹ بنگلور شہر (ہند)۔

ہوالشافی: گل مدار چار تولہ، اجوائن دسکی چار تولہ، نمک لاہور، نمک سیاہ، نمک سانہر، ہر ایک ایک تولہ، قنفل سیاہ دو تولہ، آب لیموں بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پس کر آب لیموں میں بخودی خوب تیار فرما کر محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین گولیاں دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: معدہ کو طاقت عطا کرتا ہے ضعف، ہضم کو دور کرتا ہے ہیضہ میں نہایت مفید ہے۔

1114- اکسیر شکم

عنايت: جناب حکیم خواجہ محمد اسماعیل صاحب کوس اپالیم آرتی (ہند)۔

ہوالشافی: قنفل سیاہ، تائیس، تالیس پتر، سیندھا، نمک، سوپل، نمک، کھاری نمک، ہر ایک ایک تولہ، مولا، ہالچھڑ، دارچینی، قنفل دراز، گودہ اٹلی، زیرہ سفید، انار دانہ، ہر ایک دو تولہ، کشیز، اٹلی، کلاں، زنجبیل، دانہ الاچھی، کلاں، بیر ترش، اجموڈ، ناگر موٹھا، ہر ایک تین تولہ، کوزہ مصری، بادن تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مشل پورڈر بنا کر حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین سے چار ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ بعد طعام دیجئے۔

فائدہ: خوب بھوک بڑھاتا ہے قوت ہاضمہ نہایت مضبوط بناتا ہے نہایت ہی لاجواب نسخہ ہے ذرا کیجئے۔

1115- اکسیر صحت

عنايت: جناب حکیم محمد خان صاحب جبک آباد عطار آباد باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: نمک سانہر، نمک سوپل، ہر ایک ایک پاؤ، قنفل سفید سات تولہ، نوشادر، زنجبیل، قنفل سیاہ، پودینہ خشک، ہر ایک تین تولہ، تخم کرفس تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک مشل پورڈر بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دن میں تین مرتبہ دو دو ماشہ ہمراہ عرق سونف لیجئے۔

فائدہ: مقوی معدہ، ہاضمہ طعام، محلل ریاح، مولد خون اور صحت مند بننے کے لئے اکسیر ہے۔

1116- اکسیر فیض

عنايت: جناب حکیم حافظ فیض احمد صاحب رمانہ جھنگ۔

ہوالشافی: نمک اندرائن پانچ تولہ، سرکہ پندرہ تولہ، انار دانہ بریاں زرشک، کشیز معنی نیم بریاں ہر ایک سات تولہ۔

ترکیب تیاری: نمک کو تولے پر ڈال کر اوپر سے سرکہ ڈال کر جذب کرائیں اور پھر دیگر ادویات باریک کھل کر کے طلاہ کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دن میں تین مرتبہ بعد غذا تین تین ماشہ لیجئے ہمراہ آب تازہ۔
فائدہ: محلل ریاح، مقوی معدہ ہے خوب بھوک لگتی ہے ہضم خوب کرتا ہے مفید دوا ہے۔

1117- ہاضمین

عنايت: جناب حکیم عبدالرحمن صاحب سرہالہ کلاں ہوشیار پور (ہند)۔

ہوالشافی: نمک طعام، نمک سیاہ، نمک سوئچل، نمک سیندھا، نوشادر ٹھکری ہر ایک سات سات تولہ، اجوان، مرچ سیاہ، سوئٹھ، لونگ، زیرہ سیاہ، جاتفل، جلوتری ہر ایک دو تولہ، سرکہ انگوری بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو سرکہ انگوری میں بھگو کر خشک کر کے خوب باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں تین مرتبہ بعد طعام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: معدہ کو تقویت عطا کرتا ہے قوت ہاضمہ کو بڑھاتا ہے ریاح کو تحلیل کرتا ہے نہایت مفید و مجرب کمال نسخہ ہے۔

1118- کشتہ شگرف

عنايت: جناب حکیم غلام مصطفیٰ صاحب دیوالہ میانوالی۔

ہوالشافی: شگرف پچاس گرام، پیاز بڑا سا تاز پانچ عدد۔

ترکیب تیاری: شگرف کو پیاز کے سنٹر میں رکھ کر اوپر آٹا چڑھا دیجئے اور انگاروں پر رکھ کر بریاں کریں آٹا سرخ ہونے پر دوسرے پیاز میں رکھ کر ایسا ہی کیجئے حتیٰ کہ پانچوں پیازوں میں رکھ کر مدبر کیجئے پھر نکال کر سنبھال کر پیس کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول صبح و شام کھن میں لپیٹ کر تناول فرمایئے۔

فائدہ: موسم سرما کا لاجواب نسخہ ہے چہرے کو سرخ کرتا ہے خوب طاقت پیدا کرتا ہے نہایت اعلیٰ معنی ہاضمی نسخہ ہے ضعف اشتہا و طعام وغیرہ کے لئے نہایت اکسیر ال اثر دوا ہے۔

1119- حب ہاضم

جناب حکیم پنڈت دیوی داس صاحب واہگہ مرکز الاولیاء لاہور۔

ہوالشافی: نمک سیندھا، نمک شیشہ، نمک سوئچل، نمک سیاہ، نوشادر، سہاگہ سفید، سفید مرچ، پودینہ خشک ہر ایک چھ چھ تولہ، آب لیموں برابر مقدار۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب لیموں میں خوب بھگو کر خشک کر لیجئے اور خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو گولی بوقت ضرورت تازہ پانی سے لیجئے۔

فائدہ: کاسر ریاح و مقوی معدہ ہے نہایت اعلیٰ دوا ہے جو معدہ کی تمام امراض کا قلع قمع کرتی ہے۔

1120- اکسیر معدہ

عنايت: ابوالشفا جناب حکیم سید شاہ محمد صاحب چیت پوہ کلکتہ (ہند)۔

ہوالشافی: مصطلکی رومی، دانہ الاچھی خورد، طباشیر ہر ایک چھ ماشہ، مصری اٹھارہ ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: تین ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ لیجئے۔

فائدہ: تیزابیت دور کرتی ہے زائد رطوبات معدہ کو ختم کرتی ہے معدہ کو مضبوط اور خوب بھوک لگاتی ہے اکسیر دوا ہے۔

1121- اشتہائی

عنايت: جناب حکیم احمد میاں صاحب سورت شریف (ہند)۔

ہوالشافی: شگرف مدبر ایک تولہ، قلفل سیاہ چھ ماشہ، بیس سفید دو ماشہ، آب کندش بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب کندش میں خوب بارہ گھنٹے تک کھل کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک چاول مقدار صبح و شام سادہ پان میں لگا کر کھلائیئے۔

فائدہ: خوب بھوک لگاتا ہے نہایت قابل اطمینان دوا ہے جوڑوں کے دردوں کو ختم کرتا ہے جسم طاقت ور بناتا ہے سنگ سرخ کرتا ہے۔

نمبر 103 ملاحظہ فرمائیئے۔

نمبر 104 ملاحظہ فرمائیئے۔

1122- نورانی چورن

474

عنايت: جناب حکیم محمد انس نورانی صاحب پشاور۔

ہوالشافی: پوست بلیہ زرد نوشادر ولایتی ہر ایک اڑھائی تولہ، تخم الاچھی کلاں ایک تولہ، قنفل دراز، قنفل سیاہ، نمک سیاہ، نمک طعام، سوٹھ دارچینی، گبرو پودینہ اناردانہ ہر ایک دو تولہ ست پودینہ تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے ست پودینہ میں ملا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو سے تین ماشہ دن میں تین مرتبہ بعد طعام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: درد شکم ورم معدہ، ضعف جگر کو دور کرتا ہے ضعف معدہ کو ختم کر کے غذا کو جزو بدن بناتا ہے فتور ہضم کے باعث پیدا ہونے والی اکثر امراض کو ختم کرتا ہے۔

1123- تریاق معدہ

عنايت: جناب حکیم محمد راشد صاحب چک نمبر 228 دھاڑی۔

ہوالشافی: ہینگ، نوشادر، سہاگہ، کاکڑا سنگی، مرچ سیاہ، سوٹھ، قنفل دراز، نمک سانہر، نمک تلخی، نمک سوچل، نمک طعام، اجوائن دیسی، باؤ بڑنگ، پوست بلیہ زرد، پوست بلیہ، پوست آملہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب گھیگھوڑار میں خوب کھل کیجئے اور بخودی خوب تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: کھانے کے بعد صبح دوپہر شام ایک ایک گولی ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: سوہ ہضم، دافع ریح درد معدہ میں نہایت جید الاثر دوا ہے۔

طفرے

- * نمک سیاہ ایک ماشہ آب تازہ سے لیجئے سوہ ہضم میں نہایت مفید ہے۔
- * سوڈیم بائی کارب چھ رتی نیم گرم پانی سے لیجئے تریاق معدہ ہے۔
- * ست پودینہ چار چاول برابر چینی میں ملا کر دینا بھی حکم رکھتا ہے۔

ہچکی / فواق

(Hiccough)

ذریعہ مرض:

ایک ایسا مرض ہے جو معدہ و آنتوں کی خراش کے باعث پیدا ہوتا ہے جس طرح پیڑے کسی غیر چیز کو رفع کرنے کے لئے حرکت کرتے ہیں اسی حرکت کا نام کھانسی ہے بالکل بالکل لم معدہ کی حرکت کا نام ہچکی ہے۔ اس مرض میں کبھی لم معدہ تو کبھی پورا معدہ متاثر ہوتا ہے۔

سبب:

تیز معالج جات کا کثرت استعمال، صفراء کا زیادہ مقدار میں نم معدہ پر گرتا، بد ہضمی، جگر کے افعال میں تبدیلی یا ناقص افعال، ثقیل غذاؤں کا کثرت استعمال، کثرت ریاح، ہسٹریا بعض اصابی امراض، ورم معدہ وغیرہ۔

علامات:

پہلی عام اور ظاہری مرض ہے کبھی کبھی ہچکی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں پانی یا ساٹھ بار حرکت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے پینے اور کھانے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی دم چہن نہیں آتا۔

علاج:

سب ضرورت نسخہ جات میں سے دوا تجویز فرما کر علاج فرمائیے۔

1124- اکسیر ہچکی

عنايت: جناب حکیم خدا بخش صاحب چک نمبر 69 ضلع ساہیوال۔

ہوالشافی: پودینہ خشک، زنجبیل، الاچھی سفید، معطلی سب برابر وزن چینی بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں تین سے چار مرتبہ ہمراہ آب تازہ لیجئے۔

فائدہ: خواہ کتنی ہی پرانی اور سخت ہچکی لگی ہوئی ہو صرف چند خوراکیوں سے شفا ہوگی انشاء اللہ

ازدہل۔

1125- تریاق ہچکی

عنايت: جناب حکیم چوہدری ہرنبس راج صاحب ہریانہ ہوشیار پور (ہند)

ہوالشافی: اصلی السوس مقشر ایک تولہ مصری چھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: دونوں ادویات کو خوب ہار یک پیس لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: مایوسی کی حد تک پہنچے ہوئے مریضوں کو شفا بخش کر اپنا لوہا منواتی ہے نہایت مفید اور تجربہ شدہ دوا ہے۔

1126- دوائے ہچکی

عنايت: جناب حکیم محمد حذیفہ عطاری صاحب مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالشافی: ریش ناریل (بقدر ضرورت) نبات سفید برابر وزن۔

ترکیب تیاری: ریش ناریل کو جلا کر راکھ بنا کر سنبھال کر رکھئے اور نبات سفید برابر وزن ملا کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: ہچکی کے لئے ایک لاجواب اور بے نظیر نسخہ پیش خدمت ہے یہ نسخہ چوٹی کے نسخہ جات سے بھی بازی لے گیا ہے ایک تاریخی نسخہ ہے تجربہ میں کثیر فوائد کا حامل ثابت ہو چکا ہے۔

طغره

* ست پودینہ چند قطرے ہچکی کو نابود کر دیتے ہیں۔

قے / متلی / اُبکائی

(Vomiting)

تعریف مرض:

اس مرض میں غیر ہضم شدہ غذا بذریعہ قے خارج ہو جاتی ہے یا معدہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے تکلیف دے اشیاء کو فوراً احساس کر کے اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر معدہ قوی ہو تو فوراً اس تکلیف دہ چیز کو نکال دیتا ہے اگر قدرے کمزور ہو تو یا تکلیف دہ چیز کی اذیت کم ہو تو خفیف حرکت کرتا ہے اس حرکت میں تکلیف دہ چیز خارج نہیں ہوتی اسکا نام ابکائی ہے

1128- شربت شافی

عنايت: جناب حکمی محمد داؤد اختر صاحب باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: عرق سونف چوبیس اونس، نارنگ ایسڈ چوبیس رتی، چینی پندرہ تولہ، تیزاب کدھک دلاہتی چوبیس بوند، عدہ رنگ ایک ماشہ۔

شامس لقمائی فارمولے
دراگر معدہ نہایت کمزور ہو تو صرف متلی ہی ہوتی ہے۔

اسباب: سرد اور مرطوب اشیاء کا کثرت استعمال، کثرت بلغم کے باعث معدہ کمزور ہوتا، کثرت ملا کے باعث معدہ میں سوزش کا پیدا ہو کر متلی دتے آتا، غذائی خرابی، زہریلی اشیاء کا استعمال، زہر لوشی ایلون و سنگلیا کا استعمال، بعض اوقات شدید بخار غلیظ ہوا میں سانس لینے یا بس زہل ایوانی جہاز میں سفر کرنے سے بھی یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔

علامات: ہضم کی خرابی سبب ہو تو معدہ میں لُغ اور ریاح کی زیادتی، صغرا کی کثرت سے ہو تو منہ اور آنکھ کڑوا ہوگا قے میں زرد رنگ کا مواد ہوگا غذائی بے اعتدالی ہو تو پہلے جی متلاتا ہے پھر قے وغیرہ آتی ہے اگر معدہ کی سوزش کے باعث ہو تو کھانے کے فوراً بعد درد شروع ہو جاتا ہوگا اور ہار قے آتی ہوگی۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1127- حب شکم

عنايت: جناب حکیم شاہد ایوب صاحب بندر روڈ مرکز الاولیاء لاہور۔

ہوالشافی: ہیرا ہینگ چار تولہ، سہا کہ شگفتہ چار تولہ، سوٹھ چھ تولہ، مرج سیاہ نو تولہ، قفل دراز نو تولہ، آب کھیکھو اور بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کیجئے اور آب کھیکھو اور میں نخودی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ یا نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: بد ہضمی، قراقر معدہ، لُغ معدہ، ترش ڈکاریں، جی متلاتا اور قے کے لئے اکسیر صفت ہے۔ کم خرچ ہالائشین دوا ہے۔

اسباب: ہضم غذاؤں کا کثرت استعمال، غم و غصہ، رنج و فکر، کھانے کے فوراً بعد سو جانا، زیادہ پینے پانی کا کثرت استعمال، باغی رطوبات کی کثرت، سیر کی عادت چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔

علامات: دونوں طرف پسلیوں کے نیچے کھچاؤٹ محسوس کرنا، قراقر کی آوازیں آنا، کبھی درد بھی محسوس کرنا، کبھی ڈکاریں اور بھوک کی کمی، سینہ پر جلن کا احساس، دل کی دھڑکن زیادہ محسوس کرنا، تڑپ بھول جانا، کبھی کبھی چکر آنا، گھبراہٹ بے چینی محسوس کرنا، مرض کی شدت کے باعث قبض اور اسیر کا اظہار ہونا وغیرہ وغیرہ۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1131- کاسر ریاہ

عنایت: جناب حکیم محمد سلیمان قادری صاحب جھنگ۔
ہوالشافی: نمک سیاہ، نمک سیندھا، نمک طعام، نمک سوئج، ہلیہ سیاہ، آملہ، سونٹھ، قنفل سیاہ، قنفل دراز، اجوائن، شیطرج، لوگن، دارچینی، الاچی کلاں، عود ہندی، معطلی روئی، جلوتری، جانفل، ایک برابر وزن لیموں کا رس بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر آب لیموں میں بخودی گولیاں تیار کر دیجئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین گولیاں دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: معدے کو طاقت عطا کر کے ہاضمہ کی قوت بڑھاتی ہے، ریاہ کو ختم کرتی ہے، ہیضہ کو دفع کرتی ہے، دماغ کو طاقت بخشتی ہے، سددوں کو کھولتی ہے، اعضائی سستی و کمالی دور کرنے میں اجزب ہے۔

1132- سفوف شفا

عنایت: جناب حکیم عبدالغفور صاحب سورج پور بلند شہر (ہند)۔
ہوالشافی: قنفل سیاہ، نوشادر، ہرہنگی، ہر ایک ایک تولہ، تخم دھتورہ، چھ ماشہ، کشتہ فولاد تین

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے سنبھال کر رکھئے۔

شام لقمائی فارمولے
ترکیب تیاری: مرق کے اندر پہلے شربت تیار کر لیجئے، بعدہ شربت میں تیزاب گندھک ملا کر سنبھال کر رکھ لیجئے۔

ترکیب استعمال: جوان کے لئے نصف اولس بچوں کے لئے بقدر مناسب مرد دیجئے۔
فائدہ: ہیضہ، تے، دست، ہڈی، ضعف، معدہ، لنگ، معدہ، بخار کی شدت کے باعث علق اور منہ کا خشک ہونا، بار بار پیاس لگنا، اکلاؤں کی زیادتی، اچھارہ، نم معدہ کا درد وغیرہ میں لاجواب ہے۔

1129- اکسیر قے

عنایت: جناب حکیم محمد عظیم خان صاحب پٹیالہ (ہند)۔
ہوالشافی: کوزہ مصری، ایک تولہ، نمک سیندھا، تین ماشہ، نارٹرک ایسڈ ایک ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے سنبھال کر رکھ لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک چمک منہ میں رکھ کر چوبیس دن میں تین مرتبہ۔
فائدہ: حاملہ عورتوں کی تے کے لئے خصوصیت سے مفید دوا ہے۔

1130- دافع قے

عنایت: جناب حکیم نور محمد صاحب بندیاں لودھیانہ (ہند)۔
ہوالشافی: پرانا ٹاٹ بقدر حاجت۔
ترکیب تیاری: پرانے ٹاٹ کو جلا کر راکھ بنا لیجئے اور برتن میں ڈال کر برتن کو پانی سے بھر دیجئے۔

ترکیب استعمال: زلال لے کر پیتے رہئے۔
فائدہ: مٹی، تے، ابکائی وغیرہ کو فوراً تسکین دے دیتی ہے، نہایت مفید دوا ہے۔

نفخ شکم / اچھارہ

(Flatulence)

تعریف مرض:

اس بیماری میں معدہ و امعاء میں گیس بھر جاتی ہے کبھی اچھارہ اور بدبودار ریاہ خارج ہوتی ہے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ استعمال کیجئے۔
فائدہ: معدہ کے جملہ امراض کے لئے نہایت ہی کامل و اکمل نسخہ ہے۔

1133- اکسیر معدہ

عنایت: جناب حکیم چندر لال صاحب درماں بھاگل کوارٹر شملہ (ہند)
ہوالشافی: اناردانہ ترش ایک تولہ زنجبیل، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، سماق دانہ، پوست بلیلہ، زرا، پوست بلیلہ، نمک ہر ایک چار ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھل کر کے سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: چار ماشہ بعد طعام دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ لیجئے۔
فائدہ: جملہ امراض معدہ کیلئے نہایت مفید الاثر دوا ہے۔

کرم شکم

1134- اکسیر کرم

عنایت: جناب حکیم سید محمد لقمان قادری صاحب آستانہ اجیر شریف (ہند)
ہوالشافی: شیر نارنگیل دس تولہ، چینی اڑھائی تولہ، فلفل سیاہ ایک تولہ، فلفل دراز ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے شربت بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: روزانہ بوقت صبح پیا کیجئے۔
فائدہ: تمام کرم نکل جائیں گے۔ تین یوم استعمال کریں۔

دروم معدہ

1135- تریاق وجع الفواد

عنایت: جناب حکیم فیاض احمد صدیقی صاحب پانی پت کرنال (ہند)
ہوالشافی: شیر شتر ڈیڑھ کلو، نمک لاہوری آٹھ تولہ، زعفران چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: شیر شتر کو ہانڈی میں ڈال کر نمک ڈال کر زعفران ملا کر خوب پکائیے جب گاڑھا ہو جائے تو اتار کر صرف کونکوں پر پکائیے حلوا ہونے پر سایہ میں خشک کیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ دن میں تین مرتبہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: وجع الفواد میں یہ نسخہ ایک معجزہ ہے سینکڑوں مریضوں پر آزمایا گیا ہے کبھی تیرہ خطا نہیں کیا اگر دورہ پڑتا ہو تو ایسے وقت میں بھی جادو اثر نسخہ ہے فوراً مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔

ہیضہ

(Cholera)

تعریف مرض:

ہیضہ ایک مہلک اور متعدی مرض ہے جو نہایت باریک نبتی کرم سے پیدا ہوتا ہے جن کو کالا امیبائی کہتے ہیں۔

اسباب:

ہیضہ کے درج ذیل تین اسباب اہمیت کے حامل ہیں:

(1) فساد آب و ہوا

(2) غذائی فساد

(3) غذائی استعمال میں خرابی

عموماً ہیضہ کی بیماری پھیل جاتی ہے لو کا لگنا، میلا پھیلا رہنا، گندا پانی پینا، بے اعتدال کھانا پینا، ہیضہ کے دنوں میں جلاب آور ادویات کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ اسباب عام ہیں۔

علامات:

طب یونانی میں ہیضہ کی علامات تین درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلا درجہ:

پہلے درجے میں تھوے و دست بکثرت آتے ہیں جو پہلے گاڑھے پھر پتلے پھچھ کی طرح ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں خشک ہو جاتا ہے مریض گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔

دوسرا درجہ:

دوسرے درجے میں تھوے اور دست کم ہو جاتے ہیں آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں نبض کمزور لب اور مسوڑھے نیلگوں ہو جاتے ہیں جسم ٹھنڈا اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے مریض شدت حال سے تڑپ اٹھتا ہے ادھر پانی پیتا ہے تو ادھر تھوے کے ذریعے نکال دیتا ہے بعض اوقات نیند

غالبہ! اتی ہے۔

تیسرا درجہ:

آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں پیاس بدستور قائم رہتی ہے نبض انگہ انگہ کر چلتی ہے ہزار نیم مردہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے سخت گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے درجہ حرارت بالکل نیچے آجاتا ہے اگر مریض پر توجہ نہ دی جائے تو عام طور پر تین گھنٹے میں مریض راہ عدم اختیار کر لیتا ہے اس حالت میں اگر درجہ حرارت بحال ہونے لگے تو اکثر اوقات بخار تک پہنچ جاتا ہے نبض کی حرکات درست ہونے لگتی ہیں آنکھوں میں تازگی چہرہ پر رونق ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ صحت بحال ہونے لگتی ہے۔

علاج:

حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1136- حب شکم

عنايت: جناب حکیم سید محمد رضا حسین صاحب سنبھال مراد آباد (ہند)۔
هو الشافى: ہمالکونہ مدبر، تخم ارٹھ، پوست ہلیہ زرد ہر ایک سات ماشہ جو کھار سہا کہ بریاں پہ پھٹی، قفل سیاہ ایک ایک تولہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب ہار یک کر کے قفل سیاہ برابر خوب بنا کر سنبھال لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی ہمراہ عرق سونف دن میں دو مرتبہ دیجئے۔
فائدہ: قبض درد شکم ہیضہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔

1137- حب امرت

عنايت: جناب حکیم کوہران پنڈت دیشراج شاستری صاحب سرگودھا۔
هو الشافى: ہیراپنگ، مرق سیاہ الیون ہر ایک ایک تولہ عرق لیموں بقدر ضرورت۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق لیموں میں چار پہر کھل کیجئے اور دانہ موگ برابر گولیاں بنا لیجئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی ہر تین گھنٹے بعد ہمراہ عرق سونف دیجئے۔
فائدہ: ہیضہ کے لئے جید الاثر دوا ہے سرعت انزال کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔

1138- اکسیر ہیضہ

عنايت: جناب حکیم گل محمد قریشی صاحب قدیم بازار میاںوالی۔

ہو الشافى: لوہنگ، تخم مرچ سرخ، موم زرد ہر ایک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلی دونوں ادویات کو خوب پورڈر بنا کر موم کو گرم کر کے اس میں ملا کر نخودی خوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ دن میں پانچ سے چھ مرتبہ ایک ایک گولی ہمراہ عرق بادیان سے دیجئے۔

نوٹ: اگر گھبراہٹ محسوس کریں تو پانی میں بٹھا دیجئے اور سر میں پانی ڈالئے جب سردی لگنے لگے تو پانی سے نکال دیجئے۔

فائدہ: جب ہیضہ کے باعث تشنج واقع ہو یا حرارت جسم بند ہو جائے تو جید الاثر دوا ہے۔

1139- دافع ہیضہ

عنايت: جناب حکیم حافظ غلام حیدر صاحب سیتاپور اودھ (ہند)۔

هو الشافى: ایون چھ ماشہ کافور دو تولہ، ہیراپنگ ایک تولہ، تخم مرچ چار تولہ آب اورک بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب اورک میں خوب کھل کیجئے اور نخودی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ہر تین گھنٹے بعد ایک ایک گولی ہمراہ عرق بید مشک دیجئے۔

فائدہ: صرف دو خوراک ہی کافی ہیں تجربہ شدہ ہے ہیضہ کو ختم کرتی ہے قدرتی حرارت بحال رکھتی ہے۔

1140- تریاق ہیضہ

عنايت: جناب حکیم الہی بخش صاحب حجرہ شام مقیم ساہیوال۔

هو الشافى: ہلدی دو تولہ، چونہ ایک تولہ عرق پیاز خالص بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو کھل کر کے آب پیاز میں خوب نخودی برابر گولیاں تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو سے تین گولی آب پیاز خالص میں تین تولہ کے ہمراہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

فائدہ: پہلی خوراک ہی سے فائدہ ہوگا ہیضہ کے لئے جید الاثر دوا ہے۔

نوٹ: بعض اوقات مرض کی شدت کے باعث ہر گھنٹہ بعد بھی ایک گولی دی جاسکتی ہے۔

1141- اکسیر شیخ

484

عنايت: جناب حکیم شیخ محمد حسین صاحب پیرکوٹھ خیر پور میرس باب الاسلام سندھ۔

هو الشافى: سہا کہ سیاہ زعفران مرکی برابر وزن عرق گلاب قائل بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب میں خوب کھل کیجئے اور بخودی گولیاں بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ چار مرتبہ ہر آہ عرق بادیاں ایک ایک گولی دیجئے۔

فائدہ: ہیضہ کے لئے نہایت مفید الاثر دوا ہے ہیضہ کے تمام درجات میں مفید ہے۔

نوٹ: ہیضہ کے دنوں میں حفظ باقدم ایک گولی روزانہ بھی دے سکتے ہیں۔

1142- حب ہیضہ

عنايت: جناب حکیم کنڈن لعل صاحب شکار پور باب الاسلام سندھ۔

هو الشافى: حلیت ایک ماشہ گندھک آملہ سار قلمی شورہ چونا بجی کھاز ہر ایک دورٹی کافور 1/4 رتی آب لیموں بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب لیموں میں خوب کھل کیجئے اور بخودی جوہ بنا کر حفاظت سے رکھئے۔

ترکیب استعمال: ہر تین گھنٹے بعد ایک گولی عرق سونف دیجئے۔

فائدہ: متعدد مرتبہ کی تجربہ شدہ ہے ہیضہ کی لامانی دوا ہے جو ہر درجہ میں تریاتی صفات کی حامل ہے۔

1143- اکسیر پیاز

عنايت: جناب حکیم حزقی لعل صاحب سلہنہ فیروز پور (ہند)۔

هو الشافى: پیٹ پیاز رانگا نارنیل دریائی برابر وزن عرق گلاب بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب عرق گلاب میں کھل کر کے بخودی جوہ تیار فرما کر سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی ہر ایک گھنٹے بعد ہمراہ عرق بادیاں دیجئے۔

فائدہ: ہزاروں مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے کبھی خطا نہیں گیا۔ ہیضہ کو ختم کرتا ہے۔

1144- مشکل ٹائم

عنايت: جناب حکیم محمد عمر بن عبدالعزیز صاحب راولپنڈی۔

هو الشافى: کافور ست اجوائن ست پودینہ برابر وزن۔

ترکیب تیاری: روغن سونف روغن الاچھی ست لیموں پیچمنٹ آکل عرق گلاب ہر ایک ایک تولہ زعفران پانچ تولہ۔

ترکیب استعمال: نمبر 1 ادویات کو ایک بوتل میں ڈال کر ذرا دھوپ میں رکھئے روغن میں جائے سنبھال لیجئے اور اس پر نمبر 1 لکھ دیجئے۔

ترکیب استعمال: نمبر 2 ادویات کو ایک بوتل میں ڈال دیجئے زعفران عرق گلاب میں کھل کر کے اسی میں شامل فرما کر نمبر 2 کی چٹ لگا دیجئے۔

ترکیب استعمال: چینی پر نمبر 1 کے دو قطرے نمبر 2 چار قطرے ڈال کر روزانہ تین خوراک دیجئے۔

فائدہ: یہ ہیضہ کا وہ تریاتی نسخہ ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کی ایک خوراک سے اللہ عزوجل کی رحمت آن گئے لگا لیتی ہے خواہ ہیضہ وبائی ہو یا عارضی ہر حالت میں جادو اثر دوا ہے اس کا تیار رہنا ہر مطب کے لئے ضروری ہے۔

طفرے

* لوگ تین ماشہ کو دو کلو پانی میں خوب اہال لیجئے وقفہ وقفہ سے پانچ پانچ تولہ پلاتے رہئے دست قے پیاس بند ہو کر ہیضہ ختم ہوگا۔

* ثابت لیموں کو پانی میں گھول کر پلانا دست و قے کو بند کرنے میں بے مثل دوا ہے۔

* ہیضہ میں تشنج ہو جائے تو روغن جانفل کی بدن پر مالش کیجئے اکسیر ہے۔

مقعد کے امراض

بواسیر

اگرزئی نام	طبی نام	اُردو نام
پانلز	بواسیر مقعد	بواسیر

تعریف مرض:

مقعد کے مقام پر خارش اور مسے ہو جانے کو بواسیر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس کی درج ذیل دو اقسام معروف ہیں:

اقسام بواسیر:

بواسیر کی دو بڑی اقسام ہیں:

- (1) بادی بواسیر
- (2) خونی بواسیر

بادی بواسیر

تعریف مرض:

مقعد کے مقام پر مسے پیدا ہو جاتے ہیں ہلکا درد اور خارش ہوتی ہے مگر خون خارج نہیں ہوتا اسے بادی بواسیر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

اسباب:

سرد مقام پر زیادہ رہنا، اکثر بیٹھ کر کام کاج کرنا، سرد اشیاء کا کثرت استعمال، عضلات کے اندر تحریک پیدا ہونا، قبض اور گیس کا پیدا ہونا، ثقل اور دیر ہضم غذا میں زیادہ کھانا، وقت بے وقت کھانا، سوداوی خلط پیدا ہو کر آنتوں کو متاثر کرنا وغیرہ وغیرہ اسباب میں شامل ہیں نیز کثرت جماع، خارش مقعد، جنسی خیالات میں اکثر گرم رہنا، کھٹی اشیاء کا کثرت استعمال وغیرہ اسباب میں شامل ہے۔

علامات: مقعد کے مقام پر خارش اور درد محسوس ہوتا ہے مردانہ قوت قدرے کمزور ہو جاتی ہے کبھی کبھی جلن بھی محسوس ہوتی ہے سوہ ہضم کی شکایت ہو جاتی ہے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے سینہ اور معدہ میں ہلکی جلن محسوس ہوتی ہے نیند کا اکثر غلبہ رہتا ہے بدن ست ہو جاتا ہے سو کر اٹھنے پر بدن بھاری لگتا ہے چہرے کا رنگ زردی مائل مریض کی بھوک کم ہو جاتی ہے بسا اوقات بے خوابی، درد سر یا کنپٹیوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے کبھی تھکی یا درد توخ کا احساس بھی ہوتا ہے۔

علاج: حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1145- بی نل

عنایت: جناب حکیم ایشر سنگھ صاحب بیدی شکار پور باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: ترچھلا، گوگل، ہلدی، موم سفید برابر وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب اچھی طرح پورڈر بنا کر موم کو پچھلا کر ملا کر ایک جان کر لیجئے اور خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح دوپہر شام ہمراہ دہلی گھی ملا دودھ دیجئے۔ بادی بواسیر کے لئے کالی مرچ کے پورڈر سے ملا کر دن میں تین مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیجئے۔

فائدہ: خونی و بادی بواسیر کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیتی ہے صرف چند دنوں میں اپنا جادو اثر چلا کر مریض جانب صحت رواں دواں ہو جاتا ہے۔

برہیز: دیر ہضم ثقل اور گرم اشیاء سے پرہیز واجب ہے خصوصاً دال موگ نہ کھائیے۔

1146- معجون بواسیر

عنایت: جناب حکیم محمد صبح صادق صاحب لڈ پوالہ شاہ پور۔

ہوالشافی: آرد تخم بکائن آدھ کلو روغن زرد پاؤ، شہد دو چند۔

ترکیب تیاری: پہلے آرد تخم بکائن کو روغن زرد میں بریاں کیجئے اور پھر شہد ملا کر بطریقہ معروف معجون تیار کیجئے۔

ترکیب استعمال: چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیجئے۔

فائدہ: بواسیر خونی یا بادی دونوں میں نہایت مفید ہے خاندانی مجرب الجرب نسخہ ہے۔

ہوالشافی: پوست ریشہ، جوکھار، تخم نیم، ریوند چینی ہر ایک ایک تولہ، آب مولیٰ ایک پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آب مولیٰ میں خوب کھل کیجئے اور خوب بخودی بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیجئے۔
فائدہ: بواسیر خونی و بادی میں سو فیصد مجرب و کامیاب دوا ہے۔
نوٹ: دودھ کمی زیادہ استعمال کیجئے۔

1154- اکسیر بوا سیر

عنايت: جناب حکیم گل احمد ہوتی صاحب مردان ضلع پشاور۔
ہوالشافی: پوست ریشہ سوختہ سفید تخم ستیاناسی ہر ایک ایک تولہ، کشتہ فولاد چھ ماشہ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو مثل غبار بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ مکھن و بالائی دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کی بواسیر کو دور کرنے میں اکسیر صفت دوا ہے صرف پندرہ یوم سے اس نامراد مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔
پرہیز: بادی اشیاء اور گرم اشیاء سے پرہیز واجب ہے۔

1155- بم بم بوا سیر

عنايت: جناب وید پنڈت سنت امرنگھ صاحب واگھ کلاں لودھیانہ (ہند)۔
ہوالشافی: گندھک آملہ سار مصفی، رسونت مصفی، مغز ریشٹھا، جوکھار، مغز نیم، مغز کائن، کشتہ سونا مکھی سب برابر وزن آب گروندہ برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے آب گروندہ میں خوب کھل کیجئے اور بخودی گولیاں بنا کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی سے دو گولی صبح و شام ہمراہ مکھن دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کی بواسیر کے لئے اکسیر ہے چالیس اور ایک اکتالیس یوم کے استعمال سے بواسیر نظر نہیں آتی ایک مرتبہ ضرور تجربہ کیجئے۔

1156- روغن بوا سیر

عنايت: جناب حکیم تراب حسین صاحب بلندشی (ہند)۔
ہوالشافی: نوشادر، قلمی شورہ، مقل زرد ہر ایک پچاس گرام، صدف پچیس گرام۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو آتش بوتل میں ڈالکر بذریعہ تپال جنتر روغن کشید کیجئے اور

ترکیب استعمال: ایک ایک قطرہ صبح و شام ہمراہ مکھن میں رکھ کر دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کی بواسیر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کسی نسخہ میں اتنی طاقت نہیں دیکھی جتنی مانند بجلی کی قوت اس دوا میں ہے امراض معدہ کو ختم کر کے نہایت مضبوط بناتا ہے معدہ دگر اور آنتوں کو خوب قوت بخشتا ہے نہایت مفید اور جید الاثر کامیاب دوا ہے۔

1157- کشتہ سنگجراح

عنايت: جناب حکیم ابوالہشیر محمد ابراہیم صاحب کماں ضلع ساہیوال۔
ہوالشافی: سنگجراح دو تولہ، عرق جل نیم آٹھ تولہ، جل نیم کا نغدہ آدھا کلو، آب مولیٰ آٹھ تولہ۔
ترکیب تیاری: سنگجراح کو عرق جل نیم میں کھل کر کے مکھی بنا کر نغدہ میں دے کر چھ کلو بجلی ادیوں میں پھونک دیجئے سرد ہونے پر نکال کر آب ترب آٹھ تولہ میں کھل کر کے پھر کوزہ گلی میں بند کر کے دس کلو ادیوں کی آگ دیجئے سرد ہونے پر پیس کر سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو سے چار زنی ہمراہ مکھن و بالائی دیجئے۔
فائدہ: بواسیر ہر قسم کو ختم کرنے میں اکسیر ہے۔

1158- حب بوا سیر

عنايت: جناب حکیم سید محمد اکبر حسین صاحب موچیانوالہ ضلع گجرات۔
ہوالشافی: مغز نیم، مغز بکائن، تخم گندنا، گوگل، رسونت، مویز منقی برابر وزن۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے مویز منقی کے ذریعے خوب بخودی تیار کر کے سنبھال کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: دو گولی صبح دو گولی شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: بواسیر خونی و بادی کے لئے نہایت مفید الاثر کامیاب دوا ہے۔

1159- حب کرشمہ

عنايت: جناب حکیم محمد سراج الحق صاحب بمبئی (ہند)۔
ہوالشافی: مغز نیم، مغز بکائن، رسونت مصفی ہر ایک ایک تولہ، چاکسو، گوگل، کھتہ سفید، خاکستر، پوست ریشہ ہر ایک چھ ماشہ، آب مولیٰ پاؤ۔
ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک پیس کر آب مولیٰ میں کھل کیجئے اور بخودی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

پس تقانی فارمولے کے قابل ہو جائے تو حبوب نخودی باندھ لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
تربیب استعمال: تین گولی صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ دیجئے۔
فائدہ: ہادی بواسیر کے لئے یہی ایک نسخہ ہی کافی ہے ہر طرح کی شکایت کو دفع کر دیتا ہے۔

بواسیر خونی

تعریف مرض: اندرونی یا بیرونی جانب سے ظاہر ہو کر پاخانے کے بعد یا پہلے خون آتا ہے۔

اسباب: مفردی اور سوداوی اخلاط میں احراق کے باعث یا گرم و خشک غذاؤں کا کثرت استعمال بواسیر کے اسباب میں شامل ہے۔ دیر ہضم غذاؤں کا کھانا، گوشت پوست بکثرت استعمال کرنا، مصالح دار غذاؤں کا کثرت استعمال، آنتوں کی قوت دافع کی کمزوری، جلاب آور ادویات کا کثرت استعمال وغیرہ اسباب میں شامل ہے۔

علامات: اکثر گیس اور قبض ہو جاتی ہے بسا اوقات تین تین دن تک حاجت نہیں ہوتی زور لگانا پڑتا ہے ہلکا سیاحی مائل سرخ خون پاخانے سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے کبھی تھوڑا تھوڑا پاخانہ دن میں تین چار مرتبہ آتا ہے اور ہر مرتبہ خون بھی آتا ہے کبھی زیادہ تو کبھی خون کم آتا ہے مریض کمزوری اور سستی کا ملبی محسوس کرتا ہے۔ بیرونی مسوں میں درد ہوتا ہے جب مرض ترقی کر جاتا ہے تو مسوں کا حجم بڑھ جاتا ہے اور خروج المقعد کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے بسا اوقات خون کے کثرت اخراج کے باعث مریض بے ہوش ہو جاتا ہے رنگ اکثر زرد ہو جاتا ہے نبض کبھی سست اور کبھی سریع ہو جاتی ہے۔

علاج:

حسب ضرورت نسخہ جات میں سے تجویز فرما کر علاج کیجئے۔

1163- دوائے خونی بواسیر

عنایت: جناب حکیم عبدالرشید خان صاحب بہاولپور۔
ہوالشافی: برگ نیم تازہ ایک کلو پانی پانچ کلو رسونت دس تولہ کشتہ گاؤدنی دو تولہ۔
تربیب تیاری: برگ نیم کو پانی میں خوب جوش دیجئے جب پانی آدھا کلورہ جائے تو رسونت

شام تقانی فارمولے
تربیب استعمال: ایک گولی صبح و شام ہمراہ کھن دیجئے۔
فائدہ: صرف پندرہ دن کے استعمال سے بواسیر کے تمام عوارض ختم ہو جاتے ہیں سے گر جائے
 ہیں نہایت مفید ہے۔

1160- ٹرائس نل

عنایت: جناب حکیم محمد اشرف شاکر صاحب مرکز الاولیاء لاہور۔
ہوالشافی: نوشادر ایک تولہ سہا کہ ایک تولہ کشتہ جست ایک تولہ سم الفار ایک ماش۔
تربیب تیاری: تمام ادویات کو کسی لوہے کی ڈبیہ میں بند کر کے ایسی جگہ دفن کیجئے کہ ہر وقت اوپر آگ روشن رہے تین دن بعد نکال کر دیکھیں تو روغن ملے گا سنبھال کر رکھئے۔
تربیب استعمال: ایک قطرہ دوا لے کر چار قطرہ روغن پستہ میں ملا کر مسہ ہائے بواسیر پر لپ کر دیجئے۔
فائدہ: چند دنوں کے استعمال سے مسہ غائب ہو جائیں گے اور جو زخم ہو جائیں تو پیاز کو دس کئی میں جلا کر لگاتے رہئے بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔

1161- تریاق بواسیر

عنایت: جناب حکیم محمد شبیر قادری صاحب اجیر شریف (ہند)۔
ہوالشافی: حظل سولہ عدد پانی سولہ کلمہ گرام پوست ہلیلہ زرد نمک سیاہ ہلدی ہر ایک دو تولہ مصطلکی رومی دو تولہ جوہر نوشادر تین تولہ آب کھیکھو اور بقدر مناسب۔
تربیب تیاری: پہلے حظل کو پانی میں خوب ابالیں حتیٰ کہ ایک کلورہ جائے تو مل چھان کر دیگر ادویات باریک شدہ اس میں ملا کر آب کھیکھو اور کی مدد سے حبوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔
تربیب استعمال: دو گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ دیجئے۔
فائدہ: انشاء اللہ عذوجل پندرہ یوم کے استعمال سے بواسیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔
پرہیز: تمام گرم اور خشک غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔

1162- دافع بواسیر

عنایت: جناب حکیم محمد دلاور صاحب کوٹلو پشاور۔
ہوالشافی: کوکل معنی پانچ تولہ مرچ سیاہ پانچ تولہ سوٹھ اڑھائی تولہ آنولہ اڑھائی تولہ تہرہ دس عدد تازہ۔
تربیب تیاری: تہرہ کا رس نکال کر تمام ادویات کو باریک کر کے اس میں شامل کر کے پکائے

ڈال کر خوب پکائیے جب کالا ہو جائے تو کشتہ کاؤڈنی دو تولہ ملا کر خوب ٹھوڈی تیار کر لیا کر رکھو رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی سبوں اسپتول کے ساتھ امراء شربت انہار دن میں تین مرتبہ دیتئے۔

فائدہ: خاص الحاس معمول لستہ ہے بو اسیر خونی کا خانہ کر دیتا ہے نہایت ہی مفید اثر رکھتا ہے۔

1164- حب بو اسیر خونی

عنايت: جناب حکیم اختر حسین صدیقی صاحب اتم آباد (ہند)۔

هو الشافی: بیخ انہار پانچ تولہ الاہچی خورد پانچ ماشہ ملہاشیر دو ماشہ کافور دو ماشہ دارچین ایک تولہ گوند کیکر ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے ٹھوڈی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی دن میں تین مرتبہ امراء روغن زرد پانچ تولہ دیتئے۔

فائدہ: بو اسیر خونی کیلئے اسی فیصد مجرب دوا ہے اطمینان سے استعمال کیجئے۔

1165- بو اسیری کشتہ

عنايت: جناب حکیم عبداللطیف صاحب طبیب خاص راج گڑھ (ہند)۔

هو الشافی: سونا کھی پانچ تولہ برگ حنا تازہ ایک کلورسونت بیس تولہ۔

ترکیب تیاری: سونا کھی کو برگ حنا کے نقدہ میں دے کر پانچ کلوا پلوں کی آگ دیتئے اور ہونے پر سرخ رنگ کا کشتہ برآمد ہوگا اس میں بیس تولہ رسونت ملا کر خوب ٹھوڈی تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی صبح دوپہر شام امراء آب تازہ دیتئے۔

فائدہ: بو اسیر خونی کو ختم کرنے میں بے حد مفید دوا ہے نہایت سستی اور آسان ہے۔

1166- حب خاص

عنايت: جناب حکیم ٹھاکر روپ لعل صاحب منجن آباد بہاولپور۔

هو الشافی: گندھک آملہ سار مغز نیم مغز بکائن رسونت چاکسو ہر ایک پانچ تولہ کشتہ نوار ایک تولہ آب مولی آدھ کلو۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے آب مولی میں کھل کیجئے اور ٹھوڈی

اسی قرمانی فارمولے: دو گولی دن میں تین مرتبہ امراء آب تازہ دیتئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی سبوں اسپتول کے ساتھ امراء شربت انہار دن میں تین مرتبہ دیتئے۔

فائدہ: خاص الحاس معمول لستہ ہے بو اسیر خونی کا خانہ کر دیتا ہے نہایت ہی مفید اثر رکھتا ہے۔

1167- حب مالک

عنايت: جناب حکیم جوگند پال صاحب روچ پٹلع اہالہ (ہند)۔

هو الشافی: تخم مولی تخم کونج اسکند ناکوری رسونت کھد پانچ سزا پھال لہال ہر ایک ایک تولہ ملہاشیر پانچ تولہ مغز بکائن پانچ تولہ شہد بقدر ضرورت۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد کی مدد سے ٹھوڈی خوب تیار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی دن میں تین مرتبہ امراء دودھ دیتئے۔

فائدہ: بو اسیر خونی و ہادی میں اکسیر ہے۔

ترکیب تیاری: ہادی لعل اور گرم و خشک غذاؤں سے پرہیز واجب ہے۔

1168- معجون واحد

عنايت: جناب حکیم سید عبدالواحد صاحب پسرور ضلع سیالکوٹ۔

هو الشافی: ہلیہ سات ماشہ ہادیان سات ماشہ آملہ کشمیر ہر ایک دو تولہ لعل ایک تولہ شہد خالص سہ ہند۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے شہد میں ملا کر معجون تیار کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: پانچ ماشہ دن میں تین مرتبہ امراء شیر نیم گرم دیتئے۔

فائدہ: بو اسیر کو نابود کرنے میں نہایت مفید دوا ہے۔

1169- دوائے پائلز

عنايت: جناب حکیم سید وکیل احمد صاحب حیدر آباد دکن (ہند)۔

هو الشافی: آب مولی آب شیشم آب نیم برابر وزن رسونت برابر رب۔

ترکیب تیاری: تمام پانیوں کو آگ پر رکھ کر رب تیار کر لیجئے اور برابر وزن رسونت ڈال کر ٹھوڈی خوب بنا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: دو گولی صبح و شام امراء آب تازہ استعمال کیجئے۔

فائدہ: بو اسیر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے نہایت جید اثر تیر بہدف لستہ ہے۔

1170- دوائے یواسیر

عنايت: دس اولادہ جناب حکیم کنگل چند صاحب دیلاتا کنگل اکھ۔
ہوالہ ضابطہ: آرد لسانی دس مقل لسان مغز غم مغز کائنات دس وزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب پاریک کر کے پانی کی مدد سے ٹھونڈی سمب تو رکھ کر سنبھل کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو حسب دن میں تین وقت مرہہ شیر گاؤنم گرم پئے۔
فائدہ: جملہ اقسام یواسیر میں اثر دہرہ و مفید ہے۔

1171- اکسیر یواسیر

عنايت: جناب حکیم چندی ل صاحب مرہند شریف (ہند)۔

ہوالہ ضابطہ: مغز کنگل پانچ تولہ شہد خالص مرہ چمب۔

ترکیب تیاری: مغز کو پاریک کر کے شہد میں ملا کر چھوٹا تیار فرما کر ہوتا ہوا سے ٹھونڈ کر رکھئے۔
ترکیب استعمال: پانچ ملا دن میں تین مرتبہ مرہہ شیر گاؤنم گرم پئے۔

فائدہ: اثناء لڑائی چاندلوں کے امداد سے مرہما کر دایود ہو جانے کے یواسیر کا توجہ ہو جانے کا تجربہ انجرب ہے۔

1172- حب یواسیر

عنايت: جناب حکیم رحمت اللہ صاحب بھوپال کونٹ کونٹ اسپتال (ہند)۔

ہوالہ ضابطہ: کیو مقل مغز ہوتی ہماہ وزن آب بھکترا بقدر مناسب۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب کھرل کر کے آب بھکترا کی مدد سے ٹھونڈی سمب تو رکھ کر لیجئے اور ٹھونڈ کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ مرہہ شیر گاؤنم پئے۔

فائدہ: یواسیری خون بند کرنے کے لئے نہایت جید اثر خصوصاً دوائے متحدہ مرتبہ نمونہ کیا گیا۔

بھکترا / نواسیر

(Fistula)

تعریف مرض:

ہوسہ کی جگہ نواسیر ہے بعد ہوسہ سے مراد پانچہ رخم ہے جو بھرتے میں نہیں آتا اندری اندر چھڑا اندر پانچہ تک ہو جاتا ہے یعنی یہ رخم جھڑ میں سے ہوتا ہے۔

اسباب:

عرق دھار تک پتھیل میں جلا رہتا مٹھی چھڑوں کا اکثر استعمال کسی تیر ماہ سے کا عوام حکیم پر مسلسل کون انہی متعلقات کی غم پر آنہوں کے آئینہ حصر میں عام طبع پر رخم پڑ جاتے ہیں اور دست علاج نہ ہونے پہن ہوسہ میں تبدیل ہو کر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اقسام کے لیا تو اس کی تین اقسام ہیں۔

- 1) آر پار ہوسہ
- 2) صرف باہر تک ہی ہو امد تک نہ کیا ہو۔
- 3) امد کی جانب منہ ہو اور باہر نہ ہو۔
- 4) دوسری قسم کا ہوسہ سب سے خطرناک ترین ہوتا ہے۔

علامات:

ہوسہ میں سلائی ڈال کر اور دوسری طرف متحرک میں اٹکی ڈال کر دیکھیں اگر سلائی اٹکی کو مطہم ہوتی ہو تو آ رہا ہے ورنہ نہیں۔ اگر ہوسہ ایک طرف کھتا ہے تو ڈاکٹری اصطلاح میں مانع نہیں کہتے ہیں۔

علامات:

شدید درد ہوتا ہے پانی بہتا ہے اگر اس کا اثر آئینوں تک ہو تو پانچانہ بلا اور خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آر پار ہو تو پانچانہ اسی راستے سے بھی آ جاتا ہے دن بہ دن مرض بڑھتا ہے۔

علاج:

درد ذیل مجربات میں سے منتخب فرما کر علاج کریں۔

1173- تریاق فچولا

498

عنايت: رفیق الاطباء رئیس الحکماء جناب حکیم علامہ محمد فاروق عطاری باب المدینہ کراہیا۔
ہوالشافی: زاج انیس، سبجراجت ہر ایک پانچ تولہ، سندھور چھ ماشہ، سپیدی دو عدد، مازو دو عدد،
عقرقرہ چھ ماشہ، جائل دو ماشہ، تخم بھن برابروزن۔

ترکیب تیاری: پہلے راج کو باریک کر کے ایک تہہ لگا دیجئے پھر اوپر سنگ جراثحت کی تہہ لگا
دیجئے اور سپاری باریک کر کے ڈال دیجئے نیچے آگ روشن کیجئے جب جب راج لپٹنے میں پھول
جائے تو باقی ماندہ ادویات ملا کر خوب باریک کھریں کیجئے اور تمام ادویات کے برابر تخم بھن یوں
باریک کر کے ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ مکھن یا ملائی دیجئے۔

فائدہ: انشاء اللہ عزوجل بیس دنوں کے اندر اندر کہنہ سے کہنہ ناسور بھی بھر جائے گا نہایت مفید
جرب نسخہ ہے قدر کیجئے اور دعائے مدینہ سے نوازئیے۔

1174- روغن انمول

عنايت: جناب حکیم فیصل خان (مرحوم) صاحب گڑھاٹھل سنگھ وہاڑی۔

ہوالشافی: کانور ایک تولہ، کاربالک ایسڈ دو تولہ۔

ترکیب تیاری: دونوں کو ملا کر ذرا دھوپ میں رکھیں البتہ شیشی کا بیج میں ڈال کر منہ مضبوط بند
کر کے دھوپ میں رکھئے روغن بن جائے گا سنبھال لیجئے۔

ترکیب استعمال: پہلے نیم کے جوشاندے سے زخم اچھی طرح دھویجئے بعدہ ایک فیل
روغن میں تر کر کے ناسور میں رکھ دیجئے۔

فائدہ: چند یوم کے استعمال سے انشاء اللہ عزوجل زخم مندمل ہو جائے گا ناسور نابود ہو جائے گا۔

1175- مرہم بھگندر

عنايت: جناب حکیم محمد سعید انور صاحب مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔

ہوالشافی: مردار سنگ، ہلدی، گنار، دم الاخوان، پھلکوی سفید، سرمہ سیاہ، بارہ سنگھا سوختہ، مرہم
سفید ہر ایک ایک تولہ، روغن زیتون دس تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس کر روغن زیتون کو آگ پر گرم کر کے موم کو اس
میں پگھلا کر باقی ادویات شامل کر کے خوب گھوٹیں یہاں تک کہ مرہم بن جائے سنبھال کر محفوظ
رکھیں۔

کیب استعمال: مقام ماؤف کو نیم کے جوشاندہ سے دھو کر مرہم کو دیزلین کی مانند لگا دیا

499

فائدہ: بھگندر کو نہایت ہی مفید ہے چند دنوں میں کلی شفا مل جاتی ہے۔

1176- اکسیر نو اسیر

عنايت: جناب حکیم کلیم اللہ حیرت صاحب برہان پوری پی (ہند)

ہوالشافی: رال سفید دو تولہ، سفیدہ کاشغری چار ماشہ، موم سفید چار تولہ، روغن کنجد پانچ تولہ
کیلا چھ ماشہ، سندھور چار ماشہ، مردار سنگ چھ ماشہ، سرکہ پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: روغن کنجد کو گرم کر کے اس میں موم کو پگھلائیے اور ساتھ ہی رال ڈال کر
ملائیے پھر دیگر ادویات کو خوب باریک کر کے ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر ہلکی آبیج دے کر اتار لیجئے
اور تھوڑا تھوڑا سرکہ ملا کر خوب گھوٹئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: پہلے ناسور کو برگ نیم کے جوشاندے سے دھو دیجئے پھر یہ مرہم
لگائیے۔

فائدہ: ہر قسم کے ناسور کے لئے خواہ کتنی ہی جگہ پر ہو نہایت مفید ہے۔

1177- روغن بھگندر

عنايت: جناب حکیم محمد لطیف صاحب نوشہرہ شاہ پور۔

ہوالشافی: گندھک آملہ سار، سیماب ہر ایک ایک تولہ، قلمی شورہ تین ماشہ، کولہ پتھر چمکدار دو
تولہ، روغن تارپین خالص، روغن سرشرف ہر ایک پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: پہلے تمام ادویات کو مثل غبار بنا لیجئے پھر روغنیاں میں ملا کر سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک بتی بنا کر اسے روغنیاں سے لتھڑ کر ناسور میں رکھئے۔

فائدہ: ہر قسم کے ناسور میں نہایت ہی مفید الاثر دوا ہے آہستہ آہستہ زخم بھر جاتا ہے۔

1178- اکسیری مرہم

عنايت: جناب حکیم رحمت اللہ صاحب ٹنڈو جان محمد قہر پار کر باب الاسلام سندھ۔

ہوالشافی: بارود دیسی ایک تولہ، روغن کنجد دو تولہ۔

ترکیب تیاری: روغن کو کڑا ہی میں ڈال کر گرم کیجئے انہیں بارود ملا کر خوب حل کیجئے جب مرہم
کی مانند ہو جائے سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک کپڑے کی بتی بنا کر مرہم لگا کر اسے ناسور میں رکھئے۔

فائدہ: بد گوشت کا قلع قمع ہو کر زخم مندمل ہو جاتا ہے ناسور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

1179- مرہم آسان

عنايت: جناب حکیم محمد ابراہیم صاحب بکہ جالندھر (ہند)۔

ہوالشافی: مردہ سنگ، بھککوی شگفتہ، سہاگہ، تیلیہ، شگفتہ، رسکپور ہر ایک دو تولہ، کانور تین تولہ، شگرف تین تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر کے مثل غبار بنا لیجئے مکھن چند مرتبہ کا دھویا ہوا میں ملا کر مرہم بنا لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ نیم کے پتوں کے جو شانہ سے زخم دھو کر مرہم لگایا کیجئے۔

فائدہ: ناسور کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ہے متعدد مرتبہ کا آزمودہ ہے۔

1180- مرہم عیسیٰ

عنايت: جناب حکیم محمد عیسیٰ صاحب گورہٹہ پٹنہ (ہند)۔

ہوالشافی: روغن گاؤ خالص ایک پاؤ، موم خالص ایک پاؤ، مردہ سنگ دو تولہ، طوطیا سبز آٹھ ماشہ۔

ترکیب تیاری: پہلے روغن کو پگھلایئے اور موم بھی داخل کیجئے پھر دیگر ادویات ڈال کر آمگ سے اتار لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ بقدر ضرورت پتلا پتلا لپ کر دیجئے۔

فائدہ: بھکند زڈیل ہر قسم کے ناسور زخم وغیرہ کے لئے نہایت ہی مفید دوا ہے۔



متفرق نسخہ جات

زہر افیون کے لئے

افیون کے زہر کو ختم کرنے والے نسخہ جات درج ذیل ہیں:

1181- تریاق افیون

عنايت: جناب حکیم میر ثامن علی خان صاحب نیساں حیدر آباد دکن (ہند)۔

ہوالشافی: ہلدی چھ ماشہ، پانی نیم گرم ایک گلاس۔

ترکیب تیاری: ہلدی کو باریک پیس کر پانی میں اچھی طرح حل کر لیجئے۔

ترکیب استعمال: پندرہ پندرہ منٹ بعد تین تین گھونٹ میں تقسیم کر کے سارا گلاس پلا دیجئے۔

فائدہ: معدہ میں پہنچنے ہی زہر افیون کو دور کر دیتی ہے فوراً آرام آجاتا ہے سکون مل جاتا ہے۔

مارگزیدہ کے لئے

1182- خدائی تیر

عنايت: جناب حکیم وڈاکٹر کانٹی رام صاحب حویلی موہنگر گڑھ مہاراجہ جنگ۔

ہوالشافی: چمچ سٹیل ولایتی اعلیٰ درجہ۔

ترکیب تیاری: اسے اصلی حالت میں محفوظ رکھئے۔

ترکیب استعمال: پھیپہ پر لگا کر زخم کو تر کر دیجئے نیز دس بوند ہمراہ پانی دن میں دو مرتبہ پلاتے رہئے۔

فائدہ: پاؤ لے اور غیر بولے کتے کے کانٹے میں نہایت جید الاثر دوا ہے نہایت آسان اور مفید ہے جلدی تیار ہو جاتی ہے جادو اثر اثرات کی حامل ہے۔

1183- جانباز

عنايت: جناب حکيم محمد عبدالسلام صاحب اسلام نگر بدایوں (ہند)۔

هو الشافي: بیضہ طاؤس ایک عدد قفل سیاہ ایک تولہ۔

ترکیب تیاری: بیضہ کا ایک سرتوڑ کر اس میں قفل سیاہ بھر دیجئے اور ٹونا حصہ جوڑ کر اوپر موم لگائیے اور ایک سال کے لئے محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے پھر سال بعد سارے کو خوب باریک مثل غبار کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: ایک رتی دو اناک کے ذریعے نقوح کیجئے۔

فائدہ: تمام زہر خارج ہو جائے گا اور مارگزیدہ بفضل خدا تندرست ہو جائے گا۔

1184- اکسیر جادو

عنايت: جناب حکيم محمد اقبال صاحب گگو منڈی بورے والا دہاڑی۔

هو الشافي: نوشادر ٹھکری پانچ تولہ چونا دو کلو۔

ترکیب تیاری: نوشادر کو چونا کے درمیان رکھ کر بیس کلو لکڑی کی آگ دیجئے سرد ہونے پر نوشادر نکال کر رات کو شبنم میں چینی کی پیالی میں رکھئے روغن بن جائے گا سنبھال لیجئے اسکا رنگ زرد ہوگا۔

ترکیب استعمال: کسی بھی چیز کے کاٹے پر لگا دیجئے سانپ کے کاٹے پر پھینے لگا کر ہر پندرہ منٹ بعد روئی سے لگائیے۔

فائدہ: سانپ کا کاٹا ایک گھنٹہ میں صحت یاب ہو جائے گا ہر قسم کے زہر دار جانور بھڑ بچھو باؤلہ کتا وغیرہ کے کاٹے کے لئے جادو اثر دوا ہے۔

زخموں کے لئے

1185- مرہم شفا

عنايت: زبدۃ الحکماء جناب حکيم اللہ بخش صاحب قلعہ گوجر سنگھ مرکز الاولیاء لاہور۔

هو الشافي: سندھور تین ماشہ سہاگہ چوکیہ تین ماشہ موم دلایتی ایک تولہ مازو سبز دو عدد روغن کنجد اڑھائی تولہ۔

ترکیب تیاری: روغن کنجد کو خوب گرم کر کے مازو ڈال دیجئے سرخ ہونے پر تیل کے اندر ہی پیس دیجئے اور دیگر ادویات ڈال کر مرہم ڈبیہ میں بند کر دیجئے۔

ترکیب استعمال: مرہم نیم گرم کپڑے پر لگا کر زخموں پر پٹا باندھ دیجئے۔
فائدہ: ہر قسم کے زخم مثلاً کلبھاڑی، ٹوکا، گنڈاسا، سکواز، خنجر، چاقو کے لئے لاجواب دوا ہے آزمائیے اور دعائے مدینہ سے نوازیئے۔

1186- دوائے رحمت

عنايت: جناب حکيم مہتہ بندر ابن صاحب پنڈ وادن خان جہلم۔

هو الشافي: کھتہ سفید کافور خالص، مازو سبز، مہکڑی گلگتہ برابروزن۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو خوب باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: روزانہ برگ نیم سے زخموں کو دھو کر سنوف چمڑک لیجئے۔

فائدہ: قروح خبیثہ کو مندل کرنے میں واقعی بے حد مجرب دوا ہے۔

1187- مرہم عطاری

عنايت: جناب حکيم محمد ندیم عطاری صاحب سردار آباد (فیصل آباد)۔

هو الشافي: مہکڑی سفید چھ ماشہ کھتہ سفید دو ماشہ رال سفید دو تولہ نیلا تھوٹا چھ ماشہ روغن کنجد دو تولہ آب خالص دو تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک کر کے روغن اور پانی میں ڈال کر خوب گھونٹئے تاکہ مرہم بن جائے اور سنبھال کر رکھئے۔

ترکیب استعمال: بوقت ضرورت کپڑے پر لگا کر زخموں پر لگائیے۔

فائدہ: ہر قسم کے زخموں کے لئے میزائل بہدف مرہم ہے۔

بڑے (15 سال سے بڑے) مکمل ایک خوراک لیجئے
بچوں کو ان کی عمر کے مطابق دوا کی خوراک دیجئے..... مثلاً:

1/8 حصہ	=	ایک سال تک بڑوں کی خوراک کا
1/6 حصہ	=	دو سال تک بڑوں کی خوراک کا
1/4 حصہ	=	4 سال تک بڑوں کی خوراک کا
1/3 حصہ	=	6 سال تک بڑوں کی خوراک کا
1/2 حصہ	=	9 سال تک بڑوں کی خوراک کا
3/4 حصہ	=	12 سال تک بڑوں کی خوراک کا

مساوی اوزان کی ترکیب

حصہ اول

ایک چاول	=	15 ملی گرام
1 رتی	=	125 ملی گرام
2 رتی	=	250 ملی گرام
1 ماشہ یا 8 رتی	=	1 گرام
1 تولہ	=	12 گرام
2 تولہ	=	25 گرام

حصہ دوم

1 تولہ (دو چائے کے چمچ)	=	12 ملی لیٹر
2 تولہ (دو بڑے چمچ)	=	25 ملی لیٹر
5 تولہ (چائے کا آدھا کپ)	=	60 ملی لیٹر
15 تولہ (چائے کا 1½ کپ)	=	180 ملی لیٹر
20 تولہ (چائے کے دو کپ)	=	250 ملی لیٹر
40 تولہ (چائے کے چار کپ)	=	550 ملی لیٹر
80 تولہ (چائے کے آٹھ کپ)	=	1000 ملی لیٹر


علاج بالغذا کے منظوم مدنی پھول

جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے
 اگر تجھ کو لگے جاڑوں میں سردی
 جو ہو محسوس معدے میں گرانی
 اگر خون کم بنے بلغم زیادہ
 جو بدہضمی میں تو چاہے افاقہ
 جو پیش ہے تو بیچ اس طرح کس لے
 جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا
 جگر میں ہو اگر گرمی وہی کھا
 تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے
 جو طاقت میں کمی ہوتی ہے محسوس
 زیادہ گر دماغی ہے تیرا کام
 اگر ہو دل کی کمزوری کا احساس
 جو دکھتا ہے گلا نزلے کے مارے
 اگر ہے درد سے دانتوں کے بے کل
 شفا چاہئے اگر کھانسی سے جلدی
 جو کانوں میں اگر تکلیف ہووے
 جو ٹائیفائیڈ سے چاہے رہائی
 ذیابیطس اگر تجھ کو جو مارے
 جو چشمی، نقشبندی، قادری ہے
 تو آ جا سنتوں کے اجتماع میں

وہاں تک چاہئے پھتا دوا سے
 تو استعمال کر انڈے کی زردی
 تو چکھ لے سونف یا ادراک کا پانی
 تو کھا گا جڑ چنے شلغم زیادہ
 تو کر لے ایک یا دو وقت قازہ
 ملا کر دودھ میں لیموں کا رس لے
 اگر ضعف جگر ہے کھا پیچا
 اگر آنتوں میں خشکی ہے تو کھی کھا
 تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے
 تو پھر ملتانی مصری کی ڈلی چوس
 تو کھایا کر ملا کر شہد بادام
 مرہ آملہ کھا اور اناس
 تو کر نمکین پانی سے غراڑے
 تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل
 تو پی لے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی
 تو سرسوں تیل پھا ہے سے نمچڑے
 بدل پانی کے گنا چوس بھائی
 تو جامن تازہ کھا اور لے نظارے
 تو خنقی، شافعی اور ماکی ہے
 ہو نفع دین و دنیا کی متاع میں

تو ہو تیرے دل پہ غم کی یلغار
 دل فکر دنیا سے پریشاں
 کوئی آ جائے تجھ پر
 تو ہر دم پڑھا کر
 و اصحاب نبی سے

تو مدنی چانکوں میں کر سفر یار
 تو کر یاد خدا سے دل کو شادیاں
 تو دل سے یا رسول اللہ ﷺ کہا کر
 سبھی امراض کی اس سے دوا کر
 دل آباد کر مت ڈر کسی سے



فہرست امراض و نسخے

نسخے (حروف تہجی کی ترتیب سے)

نمبر شمار	نسخے	آتشکی درد
117	(117)	آتشکی
118	(118)	آتشکی
119	(119)	آتشکی
120	(120)	آتشکی کے امراض
121	(121)	آواز کا بیٹھ جانا
122	(122)	آبہ مطب
123	(123)	امراض چشم
124	(124)	انفرا
125	(125)	اچھارس
126	(126)	احتباس حیف
127	(127)	احتلامی
128	(128)	احتلام
129	(129)	احتساق الرحم / بشریا / یاؤ گولا
130	(130)	اخلاط کی حالتیں
131	(131)	ازراقی پلر (101)
132	(132)	استقاء
133	(133)	اسرار استقاء
134	(134)	اسرارنی
135	(135)	استقاء حمل / انفرا
136	(136)	اسہال (دست)
137	(137)	اسہالی پورڈر
138	(138)	اسہالی
139	(139)	اسہالی
140	(140)	اسہالی

یورک ایسڈ کا پانی سے علاج

ایک دن رات میں 40 گلاس پانی پی لیجئے۔ بے شک پانی گلے تک آ جائے اور پیٹ خوب بھر جائے، گھبرائیں نہیں پانی جلد ہی پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گا اور ان شاء اللہ عزوجل ایک ہی دن میں فائدہ ہو جائے گا۔

مثلاً یورک ایسڈ کی ٹارل ریخ 3 تا 7 ہو اور آپ کا بڑھ کر 8 تک پہنچ جائے تو پوسٹ ایک دن رات میں 40 گلاس پانی پینے سے ان شاء اللہ عزوجل 7 ہو جائے گا۔ مزید ایک یا دو دن تک نہیں گے تو یومیہ "1" کے حساب سے ان شاء اللہ عزوجل کمی آتی جائے گی۔

زیادہ پانی پینے سے عارضی طور پر پیشاب زیادہ آئے گا۔ اس سے معدے، آنتوں اور گردے، مثانے وغیرہ کی خوب صفائی ہو جائے گی اور ان شاء اللہ عزوجل ضمناً کئی قاسمہ مادے خارج ہو جائیں گے۔

پانی کے علاج والے دن کھانا وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں مگر یہ طبی اصول یاد رکھئے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بدن پھولتا (یعنی موٹاپا) آتا ہے لہذا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہئے۔

124	(280)	اکسیر الذهب	-51
270	(629)	اکسیر النساء	-52
316	(724)	اکسیر ام الصبیان	-53
69	(143)	اکسیر ام الصبیان	-54
71	(150)	اکسیر اوتاد	-55
202	(463)	اکسیر بابا	-56
424	(991)	اکسیر باہ	-57
441	(1038)	اکسیر باہ	-58
256	(597)	اکسیر باہ	-59
418	(975)	اکسیر باہ	-60
419	(978)	اکسیر باہ	-61
142	(317)	اکسیر بخار	-62
142	(318)	اکسیر بخار	-63
147	(335)	اکسیر بخار	-64
153	(351)	اکسیر بخار	-65
200	(458)	اکسیر برص	-66
232	(539)	اکسیر بلغمی دمہ	-67
488	(1147)	اکسیر بو اسیر	-68
490	(1154)	اکسیر بو اسیر	-69
496	(1171)	اکسیر بو اسیر	-70
22	(25)	اکسیر بیاض	-71
194	(442)	اکسیر بے خطا	-72
346	(789)	اکسیر پتھرین	-73
343	(778)	اکسیر پتھری	-74
325	(750)	اکسیر پر سوت	-75
200	(456)	اکسیر مہلبہری	-76
200	(457)	اکسیر مہلبہری	-77

473	(1121)
285	(665)
266	(622)
388	(889)
53	(103)
323	(746)
409	(952)
215	(500)
311	(711)
319	(732)
321	(738)
276	(640)
99	(219)
95	(208)
42	(69)
66	(132)
72	(156)
89	(194)
120	(269)
154	(353)
162	(371)
440	(1034)
54	(104)
300	(691)
325	(749)
419	(977)
406	(947)

اشتبہائی	-24
اطریفل دماغون	-25
اطریفل ملین	-26
اعصابی	-27
افزائش قوت باہ	-28
اکسیر اٹھرا	-29
اکسیر احتلام	-30
اکسیر اختلاج	-31
اکسیر احتیاق	-32
اکسیر استحاضہ	-33
اکسیر استحاضہ	-34
اکسیر استرخاء	-35
اکسیر استقاء	-36
اکسیر استقاء	-37
اکسیر اسہال	-38
اکسیر اطفال	-39
اکسیر اطفال	-40
اکسیر اعظم	-41
اکسیر اعظم	-42
اکسیر اعظم	-43
اکسیر اعظم	-44
اکسیر اعلیٰ ترین	-45
اکسیر اعلیٰ	-46
اکسیر اعلیٰ	-47
اکسیر اعلیٰ	-48
اکسیر اعلیٰ	-49
اکسیر اصل	-50

اکسیر پیاز	-78
اکسیر پنس	-79
اکسیر تپ عرق	-80
اکسیر تپ	-81
اکسیر تھنک	-82
اکسیر تلم	-83
اکسیر فطی	-84
اکسیر جادو	-85
اکسیر جالا و پھولا	-86
اکسیر جان	-87
اکسیر جذام	-88
اکسیر جریان	-89
اکسیر جریان	-90
اکسیر جریان	-91
اکسیر جریان	-92
اکسیر جریان	-93
اکسیر جریان	-94
اکسیر جگر	-95
اکسیر جمال	-96
اکسیر جوانی	-97
اکسیر چشم	-98
اکسیر چشم	-99
اکسیر چھارو	-100
اکسیر حابس الدم	-101
اکسیر جس البول	-102
اکسیر حمل	-103
اکسیر حئی	-104

(774)	14
(775)	14
(776)	14
(777)	14
(778)	14
(779)	14
(780)	14
(781)	14
(782)	14
(783)	14
(784)	14
(785)	14
(786)	14
(787)	14
(788)	14
(789)	14
(790)	14
(791)	14
(792)	14
(793)	14
(794)	14
(795)	14
(796)	14
(797)	14
(798)	14
(799)	14
(800)	14
(801)	14
(802)	14
(803)	14
(804)	14
(805)	14
(806)	14
(807)	14
(808)	14
(809)	14
(810)	14
(811)	14
(812)	14
(813)	14
(814)	14
(815)	14
(816)	14
(817)	14
(818)	14
(819)	14
(820)	14
(821)	14
(822)	14
(823)	14
(824)	14
(825)	14
(826)	14
(827)	14
(828)	14
(829)	14
(830)	14
(831)	14
(832)	14
(833)	14
(834)	14
(835)	14
(836)	14
(837)	14
(838)	14
(839)	14
(840)	14
(841)	14
(842)	14
(843)	14
(844)	14
(845)	14
(846)	14
(847)	14
(848)	14
(849)	14
(850)	14
(851)	14
(852)	14
(853)	14
(854)	14
(855)	14
(856)	14
(857)	14
(858)	14
(859)	14
(860)	14
(861)	14
(862)	14
(863)	14
(864)	14
(865)	14
(866)	14
(867)	14
(868)	14
(869)	14
(870)	14
(871)	14
(872)	14
(873)	14
(874)	14
(875)	14
(876)	14
(877)	14
(878)	14
(879)	14
(880)	14
(881)	14
(882)	14
(883)	14
(884)	14
(885)	14
(886)	14
(887)	14
(888)	14
(889)	14
(890)	14
(891)	14
(892)	14
(893)	14
(894)	14
(895)	14
(896)	14
(897)	14
(898)	14
(899)	14
(900)	14
(901)	14
(902)	14
(903)	14
(904)	14
(905)	14
(906)	14
(907)	14
(908)	14
(909)	14
(910)	14
(911)	14
(912)	14
(913)	14
(914)	14
(915)	14
(916)	14
(917)	14
(918)	14
(919)	14
(920)	14
(921)	14
(922)	14
(923)	14
(924)	14
(925)	14
(926)	14
(927)	14
(928)	14
(929)	14
(930)	14
(931)	14
(932)	14
(933)	14
(934)	14
(935)	14
(936)	14
(937)	14
(938)	14
(939)	14
(940)	14
(941)	14
(942)	14
(943)	14
(944)	14
(945)	14
(946)	14
(947)	14
(948)	14
(949)	14
(950)	14
(951)	14
(952)	14
(953)	14
(954)	14
(955)	14
(956)	14
(957)	14
(958)	14
(959)	14
(960)	14
(961)	14
(962)	14
(963)	14
(964)	14
(965)	14
(966)	14
(967)	14
(968)	14
(969)	14
(970)	14
(971)	14
(972)	14
(973)	14
(974)	14
(975)	14
(976)	14
(977)	14
(978)	14
(979)	14
(980)	14
(981)	14
(982)	14
(983)	14
(984)	14
(985)	14
(986)	14
(987)	14
(988)	14
(989)	14
(990)	14
(991)	14
(992)	14
(993)	14
(994)	14
(995)	14
(996)	14
(997)	14
(998)	14
(999)	14
(1000)	14

اکسیر پیاز	-78
اکسیر پنس	-79
اکسیر تپ عرق	-80
اکسیر تپ	-81
اکسیر تھنک	-82
اکسیر تلم	-83
اکسیر فطی	-84
اکسیر جادو	-85
اکسیر جالا و پھولا	-86
اکسیر جان	-87
اکسیر جذام	-88
اکسیر جریان	-89
اکسیر جریان	-90
اکسیر جریان	-91
اکسیر جریان	-92
اکسیر جریان	-93
اکسیر جریان	-94
اکسیر جگر	-95
اکسیر جمال	-96
اکسیر جوانی	-97
اکسیر چشم	-98
اکسیر چشم	-99
اکسیر چھارو	-100
اکسیر حابس الدم	-101
اکسیر جس البول	-102
اکسیر حمل	-103
اکسیر حئی	-104

365	(833)	اکسیر سوزاک	-159
365	(835)	اکسیر سوزاک	-160
307	(704)	اکسیر سیلان الرحم	-161
308	(706)	اکسیر سیلانی	-162
469	(1109)	اکسیر شفائی	-163
236	(549)	اکسیر شفاء	-164
279	(648)	اکسیر شکم	-165
471	(1114)	اکسیر شوگر	-166
353	(800)	اکسیر شوگر	-167
354	(803)	اکسیر شہیقہ	-168
240	(560)	اکسیر شیخ	-169
484	(1141)	اکسیر صحت	-170
471	(1115)	اکسیر ضیق النفس	-171
225	(520)	اکسیر طاعون	-172
179	(410)	اکسیر طحال	-173
288	(666)	اکسیر طحال	-174
289	(670)	اکسیر طحال	-175
291	(677)	اکسیر طمشی	-176
322	(741)	اکسیر طمٹ	-177
320	(734)	اکسیر عمر طمٹ	-178
315	(719)	اکسیر عمر طمٹ	-179
302	(693)	اکسیر عمر ولادت	-180
275	(639)	اکسیر فاج	-181
278	(647)	اکسیر فاج	-182
472	(1116)	اکسیر فیض	-183
143	(322)	اکسیر فیور	-184
222	(515)	اکسیر قلاع	-185

207	(476)	اکسیر دندان	-132
209	(485)	اکسیر دندان	-133
75	(166)	اکسیر ڈبہ اطفال	-134
69	(145)	اکسیر ڈبہ	-135
70	(148)	اکسیر ڈبہ	-136
74	(160)	اکسیر ڈبہ	-137
124	(279)	اکسیر ذات الجنب	-138
245	(573)	اکسیر ذات الجنب	-139
413	(961)	اکسیر زکات حس	-140
413	(962)	اکسیر زکات حس	-141
355	(807)	اکسیر زیابیطس	-142
155	(355)	اکسیر رحمت	-143
343	(779)	اکسیر ریگ	-144
237	(550)	اکسیر سعال	-145
237	(553)	اکسیر سعال	-146
371	(851)	اکسیر سلسل البول	-147
250	(585)	اکسیر سل	-148
121	(274)	اکسیر سندر	-149
48	(86)	اکسیر سنگہنی	-150
343	(780)	اکسیر سنگ	-151
344	(783)	اکسیر سنگ	-152
345	(786)	اکسیر سنگ	-153
435	(1021)	اکسیر سنیا سی	-154
100	(220)	اکسیر سواقینہ	-155
358	(812)	اکسیر سوزاک	-156
360	(817)	اکسیر سوزاک	-157
361	(821)	اکسیر سوزاک	-158

27	(36)	اکسیری روغن	-267
226	(522)	اکسیری روغن	-268
499	(1178)	اکسیری مرہم	-269
210	(486)	اکسیری منجن	-270
125	—	امراض پشت کے نسخے	-271
267	(623)	امرت دھارہ	-272
331	(759)	امرت گوش	-273
434	(1018)	امرتی	-274
415	(964)	امساکولین	-275
421	(985)	امساکولین	-276
418	(973)	امساکی	-277
417	(971)	امسک	-278
295	(684)	امنگ	-279
459	(1087)	ایشی طلاء	-280
486	—	بادی بواسیر	-281
80	(176)	بال گرتا بند	-282
79	—	بالوں کے امراض	-283
438	(1030)	بامراد	-284
292	—	بانجھ پن	-285
324	—	بجور رحم	-286
65	—	بچوں کے امراض	-287
142	(316)	بخارون	-288
141	(314)	بخارین	-289
469	—	بد ہضمی / ڈس پینیا	-290
41	(64)	برائے اسہال دموی	-291
49	(89)	برائے پیچش	-292
266	(621)	برائے درد سر	-293

281	(652)	اکسیر نزلہ	-240
283	(658)	اکسیر نزلہ	-241
284	(661)	اکسیر نزلہ	-242
27	(37)	اکسیر نزلہ الماء	-243
262	(610)	اکسیر نیان	-244
323	(745)	اکسیر نفاس	-245
243	(567)	اکسیر نمونیا	-246
244	(571)	اکسیر نمونیا	-247
499	(1176)	اکسیر نوایر	-248
376	(858)	اکسیر نوزد	-249
475	(1124)	اکسیر ہنگی	-250
310	(709)	اکسیر ہسٹریا	-251
482	(1138)	اکسیر ہیضہ	-252
95	(207)	اکسیر یرقان	-253
101	(221)	اکسیر یرقان	-254
189	(427)	اکسیر آتشک	-255
190	(430)	اکسیر آتشک	-256
191	(434)	اکسیر آتشک	-257
193	(439)	اکسیر آتشک	-258
20	(16)	اکسیر جالا و پھولا	-259
266	(620)	اکسیر صداع	-260
108	(239)	اکسیر بام	-261
124	(281)	اکسیر تریاق درد	-262
62	(128)	اکسیر جلاب	-263
130	(292)	اکسیر دوا	-264
49	(91)	اکسیر دوا	-265
90	(198)	اکسیر روغن	-266

107	(234)	پورڈرا سیرن	-321
178	(407)	پھنسی، پھوڑا، برن، بائل، ایب، س	-322
176	—	پھولا گھو	-323
24	(30)	پھولا نل	-324
22	(22)	پھولا نل	-325
330	—	پھولا نل	-326
60	—	پھولا نل کے کیرے	-327
45	—	پھولا نل	-328
267	(624)	پین بام	-329
338	(769)	پین گاؤن	-330
115	(257)	پین آف	-331
205	(470)	پین آف	-332
378	—	پینس	-333
159	—	پپ دق	-334
229	(532)	تخفہ احمد شاہی	-335
308	(705)	تخفہ نایاب	-336
302	(694)	تخفہ	-337
312	(714)	تریاق اختناق الرحم	-338
97	(213)	تریاق استقاء طبعی	-339
97	(214)	تریاق استقاء لحمی	-340
96	(209)	تریاق استقاء	-341
298	(687)	تریاق اسقاط	-342
208	(482)	تریاق انسان	-343
66	(134)	تریاق اطفال	-344
69	(142)	تریاق اطفال	-345
160	(367)	تریاق اعلیٰ	-346
			-347

102	(225)	
86	(189)	
44	(75)	
198	—	
260	(607)	
376	(860)	
490	(1155)	
145	(327)	
207	(477)	
493	—	
494	(1165)	
486	—	
372	—	
497	—	
489	(1150)	
487	(1145)	
488	(1149)	
22	(24)	
218	(505)	
205	(468)	
344	(782)	
19	(12)	
325	—	
102	(223)	
319	(730)	
85	—	
82	—	

-294	برائے یرقان اصفر
-295	برسنگ آکل
-296	برشعشا
-297	برص
-298	برین دیل
-299	بلڈ کیٹر
-300	بم بم بوا سیر
-301	بنسلو جن پلز
-302	بنوں ٹوتھ پورڈر
-303	بوا سیر خونی
-304	بوا سیری کشتہ
-305	بوا سیر
-306	بول الدم / خونی پیشاب
-307	بھکندر / نوا سیر
-308	بی گان
-309	بی نل
-310	بی آف
-311	بیاض چشم
-312	پاسبان شربت
-313	پائیورین
-314	پتھری توڑ
-315	پچکاری چشم
-316	پرسوت
-317	پروپو
-318	پڑیائے جادو
-319	پستانوں کا ڈھیلا ہونا
-320	پستانوں کے امراض

61	(123)	تریاق دیدان	-372
420	(982)	تریاق سرعت	-373
250	(583)	تریاق سل	-374
42	(67)	تریاق شکرہنی	-375
51	(97)	تریاق شکرہنی	-376
167	(382)	تریاق سوداوی	-377
359	(814)	تریاق سوزاک	-380
359	(815)	تریاق سوزاک	-381
365	(834)	تریاق سوزاک	-382
269	(627)	تریاق شقیقہ	-383
356	(810)	تریاق شوگر	-384
264	(614)	تریاق صداع	-385
227	(524)	تریاق ضیق النفس	-386
290	(674)	تریاق طحال	-387
291	(676)	تریاق طحال	-388
279	(650)	تریاق فاج	-389
498	(1173)	تریاق فسچولا	-390
92	(202)	تریاق کبد	-391
320	(733)	تریاق کثرت حیض	-392
32	(50)	تریاق ککرا	-393
31	(45)	تریاق ککرہ	-394
231	(536)	تریاق کھانسی	-395
284	(662)	تریاق کیرا	-396
347	(790)	تریاق گردہ پھری	-397
340	(776)	تریاق گردہ	-398
207	(475)	تریاق گوشت خورہ	-399
306	(700)	تریاق لیکوریا	-400

501	(1181)	تریاق اللسان	-418
113	(251)	تریاق اللسان	-419
242	(566)	تریاق الدم	-420
49	(92)	تریاق الدم	-421
24	(29)	تریاق الدم	-422
126	(286)	تریاق الہبات	-423
256	(595)	تریاق ہاد	-424
139	(308)	تریاق بخار	-425
150	(343)	تریاق بخار	-426
201	(460)	تریاق برس	-427
489	(1151)	تریاق ہوا سیر	-428
492	(1161)	تریاق ہوا سیر	-429
346	(787)	تریاق پھری	-430
20	(17)	تریاق چولا	-431
20	(18)	تریاق چالا	-432
183	(419)	تریاق چزام	-433
383	(873)	تریاق جریبان	-434
390	(894)	تریاق جریبان	-435
403	(937)	تریاق جریبان	-436
104	(229)	تریاق چندسہ	-437
74	(162)	تریاق چھارہ	-438
174	(398)	تریاق نازشہ	-439
181	(413)	تریاق نھاز پر	-440
339	(772)	تریاق دید گردہ	-441
121	(273)	تریاق دید	-442
71	(152)	تریاق دقہ الاطفال	-443
164	(377)	تریاق دقہ	-444

299	(690)	حب استقرار حمل	-483
38	(55)	حب اسہال بند	-484
41	(65)	حب اسہال	-485
340	(775)	حب اطمینان	-486
427	(1000)	حب اعظم	-487
48	(87)	حب اعلیٰ	-488
258	(602)	حب افزائش عقل	-489
423	(989)	حب افلاطون	-490
281	(653)	حب اکبر	-491
185	(424)	حب اکسیری	-492
399	(925)	حب الخصاص	-493
482	(1137)	حب امرت	-494
57	(115)	حب امرت	-495
420	(979)	حب امساکو	-496
416	(969)	حب امساکی	-497
114	(254)	حب اوجاع	-498
125	(283)	حب اوجاع	-499
76	(169)	حب أم الصبیان	-500
434	(1020)	حب باہ	-501
435	(1023)	حب باہ	-502
418	(974)	حب باہ	-503
157	(360)	حب بخارون	-504
139	(307)	حب بخار	-505
108	(238)	حب بخاور	-506
199	(454)	حب برص	-507
199	(455)	حب برص	-508
163	(376)	حب بلادر	-509

56	(110)	جوارش مراقیہ	-456
435	(1022)	جوان آئیل	-457
447	(1056)	جوانی مستانی	-458
106	—	جوڑوں کے امراض	-459
314	(718)	جوشاندہ حیف کشا	-460
228	(527)	جوشاندہ دمہ	-461
234	(546)	جوشاندہ دمہ	-462
344	(781)	جوشاندہ قلت	-463
273	(636)	جوشاندہ مرگی	-464
327	(753)	جوشاندہ مسقط	-465
189	(429)	جوہر قادری	-466
340	(777)	جوہر لقمائی	-467
191	(433)	جوہر آشک	-468
170	(390)	جوہر اعظم	-469
68	(139)	چائلڈ کیئر	-470
439	(1031)	چاؤ بھاؤ	-471
184	—	چنبیل	-472
378	—	چند نسخہ جات	-473
173	—	چھپاکی	-474
411	(958)	حب احتلام	-475
427	(1001)	حب احمر	-476
144	(323)	حب احمر	-477
426	(997)	حب ارسطو	-478
119	(268)	حب ازرائی	-479
254	(588)	حب ازرائی	-480
322	(742)	حب استخاضہ	-481
96	(210)	حب استقاء	-482

428	(1005)	حب خاص	-537
441	(1037)	حب خاص	-538
494	(1166)	حب خاص	-539
227	(525)	حب خاندانی	-540
55	(107)	حب خراسانی پلوز	-541
154	(354)	حب خفقان	-542
215	(498)	حب دائمی قبض	-543
57	(113)	حب دائمی نزلہ	-544
282	(655)	حب درد	-545
112	(248)	حب درد	-546
116	(260)	حب دق الاطفال	-547
70	(147)	حب دق	-548
161	(368)	حب دماغون	-549
283	(587)	حب دمہ	-550
225	(519)	حب دمہ	-551
227	(526)	حب دمہ	-552
231	(538)	حب دمہ	-553
68	(140)	حب ڈبہ	-554
71	(151)	حب ڈبہ	-555
246	(575)	حب ذات الریہ	-556
389	(891)	حب رحمت	-557
411	(959)	حب رحمت	-558
438	(1029)	حب رنگون	-559
282	(654)	حب ریش	-560
440	(1033)	حب زعفرانی	-561
399	(926)	حب زندگی	-562
362	(826)	حب سازو	-563

494	(1164)	حب بو اسیر خونی	-510
488	(1148)	حب بو اسیر	-511
489	(1153)	حب بو اسیر	-512
491	(1158)	حب بو اسیر	-513
496	(1172)	حب بو اسیر	-514
437	(1027)	حب پند	-515
74	(161)	حب پیش	-516
45	(76)	حب پیش	-517
46	(78)	حب پیش	-518
50	(94)	حب پیش	-519
139	(309)	حب تپ جدید	-520
144	(324)	حب تپ	-521
145	(326)	حب تپ	-522
156	(359)	حب تپ	-523
138	(304)	حب جانبر	-524
62	(126)	حب جدید	-525
399	(927)	حب جریاٹو	-526
401	(932)	حب جریان	-527
426	(999)	حب جمالی	-528
213	(492)	حب جواہر	-529
430	(1009)	حب جوش	-530
219	(510)	حب جوگی	-531
415	(965)	حب جیم	-532
37	(54)	حب حابس	-533
42	(68)	حب حابس	-534
137	(301)	حب حمی	-535
320	(736)	حب حیضی	-536

353	(801)	حب شوکران	-591
355	(808)	حب شوگر	-592
110	(242)	حب شہنشاہی	-593
424	(992)	حب شیخ	-594
78	(174)	حب صانی	-595
146	(332)	حب مفراوی تپ	-596
228	(528)	حب ضیق انفس	-597
179	(409)	حب طاعون	-598
423	(990)	حب طاغونی	-599
289	(669)	حب طحال	-600
470	(1112)	حب عزیز	-601
364	(830)	حب عزیز	-602
431	(1014)	حب عش عش	-603
416	(967)	حب عشرت	-604
442	(1040)	حب عنبر مومیائی	-605
383	(872)	حب عنبر خاص	-606
407	(949)	حب عنبرین	-607
153	(352)	حب عافث	-608
276	(641)	حب فالح	-609
39	(58)	حب فیروز	-610
114	(255)	حب کافوری	-611
437	(1026)	حب کامل	-612
256	(596)	حب کامیاب	-613
491	(1159)	حب کرشمہ	-614
233	(542)	حب کرشمہ	-615
61	(122)	حب کرم کش	-616
424	(993)	حب کمال	-617

247	(578)	حب کھراڑ	-564
77	(173)	حب سرخبادہ	-565
117	(262)	حب سرخ	-566
279	(649)	حب سرخ	-567
415	(966)	حب سرعتی	-568
416	(968)	حب سرعت	-569
237	(551)	حب سرفہ	-570
118	(265)	حب سرنجاں	-571
236	(548)	حب سعال	-572
237	(552)	حب سعال	-573
430	(1011)	حب سمش	-574
362	(825)	حب سوزو	-575
151	(346)	حب سونوخس	-576
125	(282)	حب سہانجنہ	-577
307	(702)	حب سین	-578
59	(119)	حب شانی	-579
133	(296)	حب شانی	-580
370	(848)	حب شالی	-581
381	(867)	حب شباب	-582
396	(914)	حب شفائی	-583
149	(340)	حب شفاء	-584
236	(547)	حب شفاء	-585
39	(59)	حب شفیق	-586
477	(1127)	حب شکم	-587
482	(1136)	حب شکم	-588
436	(1024)	حب شکرنی	-589
192	(437)	حب شکر ف	-590

407	(950)	حب میان	-618
156	(358)	حب نایاب	-619
152	(349)	حب نجات	-620
283	(657)	حب نزلہ	-621
115	(258)	حب وجع الفاصل	-622
93	(205)	حب درم	-623
473	(1119)	حب ہاضم	-624
311	(712)	حب اشتریا	-625
484	(1142)	حب ہیضہ	-626
111	(246)	حب یحییٰ	-627
115	(256)	حب آتشک	-628
195	(444)	حب آتشک	-629
197	(451)	حب آتشک	-630
107	(236)	حب آرام	-631
195	(445)	حب آرام	-632
183	(420)	حب آریسکی	-633
288	(668)	حب آرن	-634
325	—	حرقۃ البول نسواں	-635
374	—	حرقۃ البول	-636
127	—	حلق کے امراض	-637
136	—	حمیات اخلاط و یوم	-638
135	—	حمیات	-639
97	(215)	حیات رس	-640
324	—	خارش رحم	-641
173	—	خارش	-642
409	(953)	خاصی	-643
501	(1182)	خدائی تیر	-644

407	(948)	حب کندن	-618
335	(761)	حب گروہ	-619
110	(243)	حب منشیا	-620
55	(108)	حب لایانی	-621
238	(556)	حب لازم	-622
70	(149)	حب لعل طفل	-623
495	(1167)	حب مالک	-624
371	(853)	حب مٹانہ	-625
316	(725)	حب مدر حیض	-626
315	(721)	حب مدرون	-627
278	(646)	حب مرکب	-628
69	(144)	حب مرگی	-629
393	(904)	حب مشک	-630
167	(383)	حب مصفا	-631
108	(237)	حب مغاسلی	-632
116	(259)	حب مغاصل	-633
401	(931)	حب مقوی	-634
55	(109)	حب ملین	-635
57	(114)	حب ملین	-636
421	(984)	حب مسک عنبری	-637
428	(1004)	حب مسک	-638
391	(898)	حب مسک	-639
420	(980)	حب مسک	-640
425	(996)	حب مسک	-641
76	(170)	حب موتی	-642
257	(598)	حب مومیائی	-643
284	(660)	حب مومیائی	-644

334	—	درد گردہ ریحی	-699
468	—	درد معدہ	-700
116	(261)	درد آکل	-701
334	—	درد گردہ	-702
161	(370)	دقی کشتہ	-703
211	—	دل کے امراض	-704
432	(1015)	دلیروں	-705
255	(593)	رماغی	-706
224	—	دمہ	-707
234	(545)	دوائی اولی	-708
239	(557)	دوائے اپیکا	-709
306	(699)	دوائے احسن	-710
370	(847)	دوائے ازراقی	-711
40	(63)	دوائے اسہال	-712
103	(228)	دوائے اصلی	-713
25	(33)	دوائے اعلیٰ	-714
172	(396)	دوائے اعلیٰ	-715
346	(788)	دوائے افلاطونی	-716
25	(32)	دوائے لعین	-717
44	(74)	دوائے انتخاب	-718
226	(521)	دوائے انمول	-719
47	(81)	دوائے انمول	-720
401	(933)	دوائے انمول	-721
67	(138)	دوائے بال	-722
147	(334)	دوائے بخار خاص	-723
496	(1170)	دوائے بواسیر	-724
196	(449)	دوائے بے نظیر	-725

81	(179)	خضاب اسود	-672
80	(178)	خضاب جوان	-673
81	(180)	خضاب صدیقی	-674
212	(489)	خمیرہ گاؤزبان عنبری	-675
180	—	خنازیر / کلٹھ مالا / بجیراں	-676
127	—	خناق	-677
242	(564)	خون بند	-678
373	(855)	خیمانہ خاص	-679
210	(488)	دادو منجن	-680
166	—	داد	-681
97	(212)	دافع استقاء زتی	-682
299	(689)	دافع اسقاط	-683
492	(1162)	دافع بواسیر	-684
339	(771)	دافع درد گردہ	-685
52	(99)	دافع سنگرہنی	-686
366	(837)	دافع سوزاک	-687
59	(120)	دافع قونج	-688
478	(1130)	دافع قے	-689
318	(728)	دافع کثرت الدم	-690
379	(866)	دافع کیڑے ناک	-691
122	(275)	دافع نقرس	-692
483	(1139)	دافع ہیضہ	-693
203	—	دانتوں اور مسوڑھوں کی امراض	-694
203	—	درد دانت	-695
263	—	درد سر (صداع)	-696
480	—	درد فم معدہ	-697
329	—	درد کان (وجع الاذن)	-698

355	(806)
503	(1186)
361	(823)
390	(896)
172	(397)
367	(840)
39	(60)
431	(1012)
75	(167)
238	(554)
363	(827)
163	(374)
251	(586)
431	(1013)
369	(846)
149	(341)
368	(844)
360	(818)
363	(828)
364	(831)
49	(90)
309	(708)
58	(117)
121	(272)
171	(392)
120	(271)
158	(364)

دوائے ذیابیس	-750
دوائے رحمت	-751
دوائے رحمت	-752
دوائے ریڈ	-753
دوائے سار سپریلا خاص	-754
دوائے سازون	-755
دوائے سرخ	-756
دوائے سرعت انزال	-757
دوائے سعال	-760
دوائے سعال	-761
دوائے سکون	-762
دوائے سل ووق	-763
دوائے سل	-764
دوائے شنیاسی	-765
دوائے شنیاسی	-766
دوائے سویٹک	-767
دوائے سوزاکی	-768
دوائے سوزاک	-769
دوائے سوزاک	-770
دوائے سوزن	-771
دوائے سیاہ	-772
دوائے سیلان الرحم	-773
دوائے سیمابی	-774
دوائے شفا	-775
دوائے صافی	-776
دوائے صفتی	-777
دوائے صفتی	-778
دوائے صفراوی بخار	-779

495	(1169)	دوائے پائلز	-726
147	(333)	دوائے تب	-727
194	(443)	دوائے مانی	-728
233	(543)	دوائے مانی	-729
386	(883)	دوائے چادو	-730
142	(319)	دوائے جدید	-731
387	(885)	دوائے جریان	-732
397	(918)	دوائے جریان	-733
105	(232)	دوائے جگری	-734
445	(1049)	دوائے جناب عالی	-735
312	(713)	دوائے جید	-736
175	(400)	دوائے خارش	-737
176	(402)	دوائے خارش	-738
47	(84)	دوائے خاص برائے پچیس	-739
366	(839)	دوائے خاص برائے سوزاک	-740
112	(249)	دوائے خاص	-741
201	(462)	دوائے خاص	-742
220	(511)	دوائے خاص	-743
181	(414)	دوائے خنازیر	-744
493	(1163)	دوائے خونی بواسیر	-745
214	(495)	دوائے خیر	-746
168	(384)	دوائے داد	-747
248	(580)	دوائے درد	-748
161	(369)	دوائے دق	-749
392	(902)	دوائے دلبر	-750
209	(483)	دوائے دندان	-751
234	(544)	دوائے دورہ دمہ	-752

417	(972)	دوائے نساہ	-807
52	(100)	دوائے نعت	-808
317	(726)	دوائے نعت	-809
74	(163)	دوائے نعت	-810
376	(859)	دوائے نعت	-811
377	(863)	دوائے نعت	-812
476	(1126)	دوائے نعت	-813
311	(710)	دوائے نعت	-814
120	(270)	دوائے نعت	-815
396	(916)	دوائے نعت	-816
191	(435)	دوائے نعت	-817
195	(446)	دوائے نعت	-818
84	—	دودھ کا جم جانا	-819
231	(537)	دورہ دمہ	-820
274	(638)	دورہ نل	-821
354	(804)	ڈیپٹیز نل	-822
243	—	ذات الریہ / نمونیا	-823
412	—	زکاوٹ حس	-824
351	—	زیابیطس	-825
410	(955)	راحت جان	-826
16	(3)	راحت لوشن	-827
185	(423)	راحت	-828
194	(441)	راحت	-829
377	(861)	رعانی	-830
22	(23)	رفیق چشم	-831
17	(5)	رفیق چشم	-832
326	(752)	رکاوٹ	-833

366	(836)	دوائے مندل	-780
288	(667)	دوائے طحال	-781
290	(672)	دوائے طحال	-783
322	(740)	دوائے طمٹ	-784
56	(112)	دوائے قبض	-785
212	(491)	دوائے قلب	-786
450	(1062)	دوائے قوت باہ	-787
148	(337)	دوائے کافوری	-788
285	(664)	دوائے کامل	-789
197	(450)	دوائے کامیاب	-790
150	(342)	دوائے کثیر الامراض	-791
430	(1010)	دوائے کشش	-792
31	(47)	دوائے گگرے	-793
387	(884)	دوائے کندن	-794
337	(766)	دوائے گردہ	-795
118	(267)	دوائے لاثانی	-796
196	(447)	دوائے لاثانی	-797
221	(514)	دوائے لکنت	-798
143	(320)	دوائے لیور	-799
328	(755)	دوائے مانع حمل	-800
350	(796)	دوائے مٹانہ	-801
149	(339)	دوائے مدنی	-802
117	(263)	دوائے مفاسلی	-803
262	(611)	دوائے مقوی	-804
28	(38)	دوائے موتیا بند	-805
282	(656)	دوائے نزلہ و زکام	-806
320	(735)	دوائے نسوان	-806

ریگ گردہ اور پتھری گردہ
ریٹل پین آف
زبان اور منہ کے امراض
زجیری ٹانگ
زخموں کے لئے
زعفرانی پلر
زندہ پڑیا
زہر ایون کے لئے
سازولین
ساقط حمل
سپاری پاک
ستاور پلر
شڈ
سٹون کرش
سر کے امراض
سرعت انزال
سرمہ پھولا چشم
سرمہ پھولا
سرمہ شانی
سرمہ شفا
سرمہ منور العین
سرمہ موتیا بند
سرمہ ولی
سرمہ یرقانی
سرمہ آشوب چشم
سروالی پلر
سعال طفل

341 —
336 (764)
220 —
47 (83)
502 —
422 (988)
67 (136)
501 —
368 (843)
327 (754)
305 (697)
404 (942)
426 (998)
345 (785)
252 —
413 —
24 (31)
20 (19)
21 (21)
18 (9)
21 (20)
27 (35)
25 (34)
101 (222)
15 (1)
400 (929)
75 (165)

-861
-862
-863
-864
-865
-866
-867
-868
-869
-870
-871
-872
-873
-874
-875
-876
-877
-878
-879
-880
-881
-882
-883
-884
-885
-886
-887

429 (1008)
19 (15)
427 (1002)
262 (609)
498 (1174)
444 (1045)
277 (644)
490 (1156)
499 (1177)
200 (459)
85 (188)
280 (651)
180 (411)
207 (478)
361 (820)
454 (1073)
134 (299)
79 (175)
330 (756)
106 (233)
446 (1051)
208 (479)
440 (1035)
123 (278)
247 (577)
290 (673)
339 (774)

-834 روشن اسماکی
-835 روشنایا
-836 روغن اعلیٰ
-837 روغن اکسیر دماغ
-838 روغن انمول
-839 روغن باہ
-840 روغن برق
-841 روغن بو اسیر
-842 روغن بھکندر
-843 روغن پھلہری
-844 روغن جامن
-845 روغن جمالی
-846 روغن خنازیر
-847 روغن رحمت
-848 روغن زندگی
-849 روغن سکندری
-850 روغن کبناں
-851 روغن سنج
-852 روغن گوش
-853 روغن مالش
-854 روغن مجلوق
-855 روغن مدینہ
-856 روغن مقوی
-857 روغن فقرس
-858 روغن نمونیا
-859 روغن نوشادر
-860 ریٹھا پلر

888-	سوف احتلام
889-	سوف امر
890-	سوف امر
891-	سوف استخاضہ
892-	سوف اعداد
893-	سوف اعظم
894-	سوف اٹلی
895-	سوف اکبر
896-	سوف اوجاع
897-	سوف بال
898-	سوف باہ
899-	سوف بخشش
900-	سوف بے مثال
901-	سوف پتھری پھوڑی
902-	سوف پوشیدہ
903-	سوف جدید
904-	سوف جرن
905-	سوف جریان
906-	سوف حمی
907-	سوف حیات
908-	سوف خدمت
909-	سوف داسن
910-	سوف درباری
911-	سوف درویشی
912-	سوف دماش
913-	سوف رضوی
914-	سوف ریوندی

412	(960)
51	(200)
207	(685)
207	(744)
121	(230)
104	(946)
406	(824)
362	(266)
118	(106)
54	(135)
66	(1016)
433	(133)
66	(70)
43	(784)
345	(890)
388	(879)
385	(887)
387	(921)
398	(300)
137	(240)
109	(908)
394	(72)
43	(849)
370	(80)
46	(605)
259	(88)
48	(199)
91	

46	(89)	سوف زخم
226	(529)	سوف زرد
44	(71)	سوف شکرانی
51	(96)	سوف شکرانی
360	(819)	سوف سین
40	(62)	سوف شانی
479	(1132)	سوف شفا
351	(802)	سوف شوگر
356	(811)	سوف شوگر
446	(1053)	سوف صحت
221	(512)	سوف عبیدی
53	(102)	سوف قبض
222	(516)	سوف قلاع
321	(737)	سوف کرامت
241	(562)	سوف کہریا
38	(56)	سوف لاجواب
406	(945)	سوف لعل شاہ
307	(701)	سوف لیکوآف
126	(285)	سوف محمود
246	(574-A)	سوف مدار
315	(720)	سوف مدرین
300	(692)	سوف نرینہ
47	(82)	سوف ہرز
39	(57)	سوف ہمدرد
102	(224)	سوف یرقان اسود
367	(842)	سوف آرام
410	(956)	سکون

369	—	سلسل الیول / بے ارادہ پیشاب نکل جانا	-942
204	(465)	ساختانی منجن	-943
249	—	سل	-944
443	(1043)	سم الفاری	-945
347	(791)	سنگ گردہ	-946
50	(95)	سنگزنی	-947
209	(484)	سنون سکون بخش	-948
204	(467)	سنون قریشی	-949
232	(541)	سنیاسی جادو	-950
100	—	سواتقینہ	-951
361	(822)	سوزاک آف	-952
367	(841)	سوزاکولین	-953
357	—	سوزاک	-954
358	(813)	سوزک	-955
359	(816)	سوی	-956
378	—	سوتکھنے کی قوت زائل ہونا	-957
202	(464)	سہانجنہ پلو	-958
241	(563)	سیلان الدم	-959
321	(739)	سیلان الدم	-960
303	—	سیلان الرحم	-961
384	(874)	سیماب پلو	-962
230	(533)	سیمابی	-963
224	—	سینہ اور پیپسروں کی امراض	-964
243	(568)	شانی ڈراپ	-965
139	(306)	شانی ڈراپ	-966
331	(758)	شانی	-967
391	(899)	شاہ تاج	-968

80	(177)	شای خضاب	-969
363	(829)	شب میانی پلو	-970
230	(534)	شربت اعلیٰ	-971
218	(506)	شربت بادام	-972
46	(79)	شربت پیمیش	-973
98	(217)	شربت دینار	-974
477	(1128)	شربت شانی	-975
271	(632)	شربت شفا	-976
169	(387)	شربت صانی	-977
218	(508)	شربت گل	-978
314	(717)	شربت مدر حیض	-979
315	(722)	شربت مدر حیض	-980
68	(141)	شربت میجا	-981
170	(391)	شربت مصفد	-982
217	(504)	شربت مفرح	-983
218	(507)	شربت مفرح	-984
77	(172)	شربت ہیلتھی	-985
129	(289)	شفائی حقہ	-986
130	(293)	شفائی غرغره	-987
208	(480)	شفائی منجن	-988
182	(417)	شفائی	-989
277	(642)	شفائی	-990
247	(579)	شفا	-991
268	—	شقیقہ و عصاب	-992
205	(469)	شمسی ٹوتھ پورڈر	-993
113	(252)	شکر ف پلو	-994
366	(838)	شورہ پلو	-995

216	—	طغره	-1023
217	—	طغره	-1024
267	—	طغره	-1025
269	—	طغره	-1026
330	—	طغره	-1027
346	—	طغره	-1028
379	—	طغره	-1029
476	—	طغره	-1030
84	—	طغری	-1031
132	—	طغری	-1032
152	—	طغری	-1033
154	—	طغری	-1034
155	—	طغری	-1035
173	—	طغری	-1036
196	—	طغری	-1037
199	—	طغری	-1038
223	—	طغری	-1039
233	—	طغری	-1040
241	—	طغری	-1041
248	—	طغری	-1042
260	—	طغری	-1043
285	—	طغری	-1044
294	—	طغری	-1045
299	—	طغری	-1046
306	—	طغری	-1047
311	—	طغری	-1048
314	—	طغری	-1049

240	—	ہیرہ (کالی کھاسی)	-996
70	(146)	سخت ہال	-997
153	(350)	سستی	-998
265	(616)	صدائی	-999
466	—	ضعف اعضاء ریبرہ	-1000
28	(40)	ضعف امر	-1001
283	—	ضعف دماغ	-1002
469	—	ضعف سونے ہضم	-1003
211	—	ضعف قلب	-1004
348	—	ضعف گردہ	-1005
201	(461)	ضمار برس	-1006
83	(183)	ضمار پیدائش لبین	-1007
185	(425)	ضمار چہل	-1008
289	(671)	ضمار طحال	-1009
82	(181)	ضمار قلت لبین	-1010
460	(1091)	ضمار جہلوق	-1011
442	(1039)	ضمار مقوی	-1012
377	(862)	ضمار تکسیر	-1013
179	(408)	طاعون بھائیہ	-1014
178	—	طاعون / اگنی روہنی / پیگ	-1015
162	(373)	طہاشیر پلو	-1016
287	—	طحال (تلی)	-1017
101	—	طغره	-1018
102	—	طغره	-1019
109	—	طغره	-1020
128	—	طغره	-1021
131	—	طغره	-1022

453	(1071)	طلاء رحمت	-1077
458	(1084)	طلاء رئیس	-1078
457	(1082)	طلاء شباب	-1079
461	(1095)	طلاء ملا آقور	-1080
463	(1100)	طلاء ملوفانی	-1081
462	(1098)	طلاء عجیب	-1082
454	(1075)	طلاء عرفانی	-1083
456	(1081)	طلاء عشرت	-1084
459	(1089)	طلاء کامیاب	-1085
454	(1074)	طلاء کبیر	-1086
460	(1092)	طلاء کڑا کا	-1087
452	(1067)	طلاء کمال	-1088
455	(1077)	طلاء مجاہد	-1089
428	(1003)	طلاء محبت	-1090
453	(1072)	طلاء مسیحا	-1091
466	(1107)	طلاء ملذذ	-1092
461	(1094)	طلاء نامرد	-1093
462	(1096)	طلاء نایاب	-1094
458	(1085)	طلاء نواز شریف	-1095
457	(1083)	طلاء نوبہار	-1096
461	(1093)	طلاء بے نظیر	-1097
456	(1080)	طلاء مجاہد	-1098
451	—	طلاء	-1099
18	(10)	عرق العین	-1100
18	(8)	عرق چشم	-1101
45	(77)	عرق حیات	-1102
19	(13)	عرق شفا	-1103

319	—	عرق	-1050
327	—	عرق	-1051
335	—	عرق	-1052
349	—	عرق	-1053
378	—	عرق	-1054
405	—	عرق	-1055
411	—	عرق	-1056
474	—	عرق	-1057
485	—	عرق	-1058
99	—	عرق	-1059
67	(137)	عرق تریاق	-1060
451	(1065)	عرق مجاہد	-1061
451	(1066)	علاقہ	-1062
459	(1088)	علاقہ احسن	-1063
452	(1069)	علاقہ احمدیہ	-1064
458	(1086)	علاقہ احمر	-1065
455	(1076)	علاقہ اکبر	-1066
456	(1079)	علاقہ باہ	-1067
462	(1097)	علاقہ باہ	-1068
455	(1078)	علاقہ پٹالہ	-1069
464	(1101)	علاقہ پیش بہا	-1070
463	(1099)	علاقہ چادو	-1071
452	(1068)	علاقہ جوگی	-1072
84	(186)	علاقہ چنبیلی	-1073
453	(1070)	علاقہ خاص	-1074
449	(1061)	علاقہ خوردبین	-1075
460	(1090)	علاقہ دراز کوش	-1076

تھ / مٹلی / اڑکائی

476	—	کاجل الشفاء	-1131
31	(48)	کاسر ریاح	-1132
470	(1131)	کانور ہل	-1133
138	(303)	کاجل وائل	-1134
445	(1048)	کامیاب دوا	-1135
109	(241)	کان کے امراض	-1136
329	—	کیڑے والا	-1137
448	(1057)	کثرت طمٹ اور استخاضہ	-1138
317	—	کثرت لبن	-1139
82	—	کحل اناطون	-1140
30	(44)	کحل التمس	-1141
30	(43)	کحل چشمی	-1142
28	(39)	کڈنی	-1143
338	(768)	کڈون	-1144
339	(773)	کرامتی سرمہ	-1145
34	(52)	کرامت	-1146
198	(452)	کرشانی سرمہ	-1147
146	(330)	کرم شکم	-1148
480	—	کرنجوبہ پلو	-1149
155	(356)	کشتہ ابرک سفید	-1150
150	(344)	کشتہ ابرک سیاہ	-1151
151	(345)	کشتہ ابرک سیاہ	-1152
164	(379)	کشتہ ابرک سیاہ	-1153
148	(338)	کشتہ احمر	-1154
111	(247)	کشتہ ازرائی	-1155
163	(375)	کشتہ اسود	-1156
104	(231)	کشتہ ایشٹ	-1157

41	(66)	عرق کافوری	-1104
33	(51)	عرق گکرا	-1105
91	(201)	عرق کیمیا	-1106
164	(378)	عرق کیمیا	-1107
291	(675)	عرق لاجواب	-1108
441	(1036)	عرق ماء اللہم خاص	-1109
140	(310)	عرق مبارکی	-1110
54	(105)	عرق مشکل کشا	-1111
18	(11)	عرق آشوب چشم	-1112
301	—	عسر ولادت	-1113
260	(608)	عطاری حریرہ	-1114
287	—	عظم الطحال	-1115
506	—	علاج بلغذا کے منکوم مدنی پھول	-1116
293	(679)	علاج عقر	-1117
292	—	عورتوں کے امراض	-1118
29	(41)	عینک توڑ	-1119
221	(513)	غرغره	-1120
222	(518)	غرغره گندہ دہنی	-1121
274	—	فانج	-1122
425	(995)	فرینگی طلاء	-1123
56	(111)	قبضی	-1124
52	—	قبض	-1125
240	(561)	قرص کبریا	-1126
83	—	تکت لبن	-1127
77	(171)	قلندری پورڈر	-1128
443	(1042)	قوت باہ	-1129
58	—	قونج	-1130

162	(372)	کشتہ طلا	-1185
192	(436)	کشتہ طوطیا	-1186
43	(71)	کشتہ فولاد سیمابی	-1187
450	(1064)	کشتہ فولاد	-1188
59	(118)	کشتہ فولاد	-1189
230	(535)	کشتہ قصیس	-1190
307	(703)	کشتہ قلعی سیمابی	-1191
400	(928)	کشتہ قلعی سیمابی	-1192
89	(193)	کشتہ قلعی	-1193
103	(227)	کشتہ قلعی	-1194
350	(797)	کشتہ قلعی	-1195
392	(903)	کشتہ قلعی	-1196
394	(909)	کشتہ قلعی	-1197
402	(935)	کشتہ قلعی	-1198
226	(523)	کشتہ قلعی	-1199
140	(311)	کشتہ گاودنتی	-1200
140	(312)	کشتہ گاودنتی	-1201
152	(348)	کشتہ گاودنتی	-1202
128	(287)	کشتہ مار	-1203
199	(453)	کشتہ مار	-1204
397	(919)	کشتہ مثلث	-1205
213	(493)	کشتہ مرجان	-1206
229	(531)	کشتہ مرجان	-1207
386	(881)	کشتہ مرجان	-1208
242	(565)	کشتہ مرکب	-1209
393	(905)	کشتہ مرکب	-1210
254	(590)	کشتہ نقرہ	-1211

244	(570)	کشتہ بارہ سنگھا مرکب	-1158
245	(574)	کشتہ بارہ سنگھا	-1159
248	(581)	کشتہ بارہ سنگھا	-1160
396	(915)	کشتہ بیضہ مرغ	-1161
389	(892)	کشتہ تانبہ	-1162
92	(203)	کشتہ چاندی	-1163
437	(1028)	کشتہ سم الفار	-1164
449	(1060)	کشتہ سم الفار	-1165
192	(438)	کشتہ سم الفار	-1166
117	(264)	کشتہ سنگھا	-1167
171	(394)	کشتہ سنگھا	-1168
157	(363)	کشتہ سنگھ	-1169
395	(910)	کشتہ سنگھ	-1170
491	(1157)	کشتہ سنگجراح	-1171
322	(743)	کشتہ سنگجراح	-1172
436	(1025)	کشتہ سونا خالص	-1173
394	(907)	کشتہ سہ دھاتہ	-1174
111	(245)	کشتہ شکرنی مرکب	-1175
232	(540)	کشتہ شکرنی	-1176
444	(1046)	کشتہ شکرنی	-1177
448	(1058)	کشتہ شکرنی	-1178
472	(1118)	کشتہ شکرنی	-1179
114	(253)	کشتہ شکرنی	-1180
245	(572)	کشتہ شکرنی	-1181
229	(530)	کشتہ صدف مرواریدی	-1182
146	(329)	کشتہ صدف	-1183
417	(970)	کشتہ طلا پلو	-1184

300	(1054)	لوکیاں میں	-1239
447	(763)	لعون عقر قرہا	-1240
336	(466)	لعون کڈنی	-1241
204	—	لقمانی آئیل	-1242
119	—	لنگڑی کا درد	-1243
90	(196)	لیور ایکس ٹب	-1244
92	(204)	لیورین	-1245
501	—	مارگزیدہ کے لئے	-1246
206	(471)	ماخوڑہ	-1247
248	(582)	مالش نمونیا	-1248
270	—	مانچو لیا / وہم وسواس	-1249
374	—	متفرق نسخہ جات	-1250
501	—	متفرق نسخہ جات	-1251
283	(659)	مثالی دوا	-1252
333	—	مٹانہ	-1253
263	(612)	محافظ حافظہ	-1254
314	(716)	مدیرین	-1255
380	—	مردانہ پوشیدہ امراض	-1256
432	—	مردانہ کمزوری / ضعف باہ	-1257
258	(601)	مرکبین	-1258
273	—	مرگی	-1259
176	(403)	مرہم اسود	-1260
169	(388)	مرہم اکسیری	-1261
498	(1175)	مرہم بھگندر	-1262
177	(405)	مرہم جادو	-1263
324	(747)	مرہم چاندنی	-1264
175	(401)	مرہم خارش	-1265

256	(594)	کشتہ نقرہ	-1212
259	(606)	کشتہ نقرہ	-1213
364	(832)	کشتہ نیلا تھوٹھا	-1214
148	(336)	کشتہ ہڑتال درقیہ	-1215
348	(792)	کشتہ ہڑتال درقیہ	-1216
141	(313)	کشتہ ہڑتال گاؤدنی	-1217
271	(631)	کشتہ یاقوت خواہر دار	-1218
32	(48)	نگرون	-1219
30	—	نگرے	-1220
297	—	کن حالات میں حمل گرانا چاہئے	-1221
132	—	کنٹھ مالا	-1222
172	(395)	کندن	-1223
129	—	کواگرتا	-1224
76	(168)	کھانسول	-1225
239	(558)	کھانسول	-1226
235	—	کھانسی	-1227
368	(845)	کھتہ پلو	-1228
98	(218)	کیمیائے استثناء	-1229
332	—	گردے اور مٹانے کے امراض	-1230
73	(159)	گریمالٹ سیرپ	-1231
403	(938)	گلاب پلو	-1232
130	(291)	گلپسرن پلو	-1233
79	—	گنچ	-1234
330	(757)	گوشمین	-1235
429	(1006)	لاٹانی طلاء	-1236
132	(295)	لحن داؤدی	-1237
259	(604)	لذت بخش	-1238

502	(1185)	مرہم شفا	-1266
503	(1187)	مرہم عطاری	-1267
500	(1180)	مرہم عیسیٰ	-1268
133	(297)	مرہم کنٹھہ کالا	-1269
196	(448)	مرہم آتشک	-1270
500	(1179)	مرہم آسان	-1271
504	—	مساوی اوزان کی ترکیب	-1272
326	—	مسطح جنین	-1273
64	(131)	مسہل بے ضرر	-1274
61	(124)	مسہل عجیب	-1275
62	(125)	مسہل کامل	-1276
63	(130)	مسہل مغلاں	-1277
177	(404)	مسیحائی	-1278
75	(164)	مشتاق اطفال	-1279
23	(26)	مشتاق چشم	-1280
485	(1144)	مشکل ٹائم	-1281
170	—	مصفی خون نسخہ جات	-1282
168	(386)	مصفی ہار	-1283
171	(393)	مصفین	-1284
98	(216)	مطبوخ اعلیٰ	-1285
336	(762)	معجون اعظم	-1286
487	(1146)	معجون بوا سیر	-1287
388	(888)	معجون جریان	-1288
257	(599)	معجون دامانی	-1289
238	(555)	معجون ریزش	-1290
434	(1019)	معجون زعفرانی	-1291
250	(584)	معجون سل	-1292

معجون شباب آور	-1293
معجون شوگر فری	-1294
معجون عشرت	-1295
معجون اعجاز	-1296
معجون عبر	-1297
معجون کبد	-1298
معجون کثرت دودھ	-1299
معجون ماسک البول	-1300
معجون مجبوتین	-1301
معجون مفرح	-1302
معجون مقوی	-1303
معجون نجاح	-1304
معجون نشاط	-1305
معجون نقوی	-1306
معجون واحد	-1307
معجون آن	-1308
معدہ کے امراض	-1309
مغذ منی نسخہ جات	-1310
مفرح قلب نسخہ جات	-1311
مفید جلاب	-1312
مقصد کے امراض	-1313
مقوی پھیرنی	-1314
مقوی چشم	-1315
مقوی دماغ	-1316
مغذ اعلیٰ	-1317
مغذ خاص	-1318
مغذ عطار	-1319

269	(628)	نوار عظیم	-1347
269	(626)	نوار کمال	-1348
72	(154)	نوار مرگی	-1349
261	—	نسیان (بھول جانا)	-1350
177	(406)	نشتری لوشن	-1351
240	—	نفت الدم	-1352
478	—	لذغ شکم / اچھارہ	-1353
122	—	نقرس	-1354
375	—	تکسیر / رعاف	-1355
319	(731)	نورانی پورڈر	-1356
474	(1122)	نورانی چورن	-1357
295	(682)	نورین	-1358
93	—	ورم جگر / پھیپھائش	-1359
470	(1110)	ہاضمو	-1360
471	(1113)	ہاضمین	-1361
472	(1117)	ہاضمین	-1362
475	—	ہنگی / فواق	-1363
16	(2)	ہمدرد لوشن	-1364
481	—	ہیضہ	-1365
72	(153)	ہیلٹھ کیئر	-1366
391	(900)	ہرملی	-1367
100	—	یرقان	-1368
145	(328)	یمیانی کپاؤنڈ	-1369
508	—	یورک ایسڈ کا پانی سے علاج	-1370

465	(1106)	ملذ عیش	-1320
464	—	ملذ لسنہ جات	-1321
425	(994)	ملذ و مسک	-1322
465	(1104)	ملذ ہاشمی	-1323
421	(983)	ملذ آفتاب	-1324
138	(305)	ملیریل پورڈر	-1325
156	(357)	ملیرین	-1326
422	(986)	مسک بے نظیر	-1327
429	(1007)	مسک قلندری	-1328
420	(981)	مسک لاجواب	-1329
386	(882)	مسکی	-1330
58	(116)	میٹھی موج	-1331
33	—	تاخونہ	-1332
103	(226)	تاقری	-1333
375	—	تاک کے امراض	-1334
404	(940)	نبات پلو	-1335
293	(678)	نرینہ	-1336
410	(957)	نرآمہ	-1337
280	—	نزله و زکام	-1338
26	—	نزول الماء (موتیا بند)	-1339
349	(795)	نسخہ زور آور	-1340
188	(426)	نسخہ شمسیہ	-1341
354	(805)	نسخہ نقیری	-1342
130	(290)	نسخہ لاہوری	-1343
268	(625)	نوار اعلیٰ	-1344
265	(617)	نوار ثانی	-1345
285	(663)	نوار چمن	-1346

ہومیو پیتھک کتب میں شاندار اضافے

سنگھوں کے امراض

طبیعی
ریکٹس آفٹ

راہ شفاء

کارڈیالوجی

شماص
ہومیو پیتھک بحریات

ڈاکٹر کاراک کی 22 کتابوں کا حصہ

Ph:042-7660736

0333-4276640

جلال الدین ہسپتال بلڈنگ چوک اردو بازار
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

مکتبہ برائے کتابت